

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَالِدِهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَالِدِهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَالِدِهِ

کہ دین نامان تحت آفتاب  
ایزدستان تحفه عجاوب و هدیه غرائب الی اللہ  
مقبول ببارکات شاہ کوئین حضرت محمد رسول اللہ  
مُسَمَّی بِهِ

# صَلوات الرسول

الجزء العاشر ۱۰

فِ اسْرَائِهِ وَمِعْرَاجِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت خواجہ نور بک خان خواجہ محمد عبد الرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور  
صوبہ سرحد پاکستان

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ ہی کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَفِيعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَبِنَبِیْعِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بلند مرتبت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وسیلے سے اور مضبوط و ناقابل تسخیر قلعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَبِشَفِیْعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وسیلے سے اور شفاعت کرنے والی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے توسل سے

وَبِنَبِیْعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

اور انوکھی و عمدہ نعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے طفیل۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تربیت فرمایا وہ اپنے تمام جہانوں کی

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَلِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ

بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے ان صفات کمال سے موصوف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے

نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ

توفیق طلب کرتے ہیں۔ چلا ہمیں راہ راست پر۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے

عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝ اَمِیْنٌ ۝ سُبْحٰنَ

نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ گمراہوں کی۔ آمین۔ پاک ہے وہ ذات اقدس

الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ

جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد

الْاَقْصٰی الَّذِیْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیْكَ مِنْ اٰیٰتِنَا ۝ اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ

اقصی تک جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ دکھلائیں انہیں اپنی آیات خاص سے بیشک وہ سنے والے

الْبَصِیْرُ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ نُرِیْنَ النَّبِیِّیْنَ بِحَبِیْبِهِ الْمُصْطَفٰی ۝ وَ

دیکھنے والے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زینت بخشی انبیاء علیہم السلام کو اپنے حبیب مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور

مَنْ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ بِنَبِیِّهِ الْمُجْتَبٰی الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ

احسان عظیم فرمایا۔ اہل ایمان پر اپنے نبی مجتبیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی صلوات و سلام ہوں اپنے رسول

مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى الْمَسِيرِ بِهِ مِنْ فَوْقِ الْعَرْشِ إِلَى تَحْتِ الثَّرَى

محمد خیر الوریٰ پر جن کو سیر (اور مشاہدہ) کرایا گیا عرش کے اوپر رکھا کر کے وہاں اسے زمین کے نچلے طبقے تک

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا مَضَى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا بَقِيَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

حمد ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر جو گزر گیا۔ اور حمد ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر جو باقی ہے۔ صلوات و سلام ہو

عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَى مَدْحُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

اللہ تعالیٰ کے رسول محمد پر جو سب مخلوق سے بہتر و برتر ہیں میں نے مدح کی ہے آپ کی یا رسول اللہ صلوات

عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ أَنْتَ خَيْرُ اللَّهِ الْوَالِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی امی پر تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ حِكْمَةً وَ إِيْمَانًا وَ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کے دل کو بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت اور ایمان کیساتھ اور

حَشَى اللَّهِ صَدْرَهُ عِلْمًا وَ إِيْقَانًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سینہ کو از روئے علم اور یقین کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَقَّ جَبْرِيْلُ صَدْرَهُ وَ خَتَمَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے شق کیا جبرئیل نے ان کا مبارک سینہ اور اس کو

وَ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

آب زمزم سے دھویا اور اس پر نورانی مرگائی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَكِبَ مَرْكَبَ الْمُسَابِقَاتِ إِلَى الْخَيْرَاتِ اللَّهُمَّ


آل پر جو محبوب سوار ہوئے خیرات کی طرف مسابقتوں کی سواری پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَطَعَ الشَّوْاعِلَ بِأَسْمَاءَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے قطع کیا مشغولیات کو ساتھ

الدَّرَجَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَكِبَ

بلند ترین درجات کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو کہ سوار ہوئے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَرْكَبَ الْأَمَانِ وَالتَّامِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

امن پانے اور امن دینے کی سواری پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي شَقَّ جَبْرَيْلُ صَدْرَهُ لِلرُّشْدِ وَالْهُدَى وَانْتَزَعَ مِنْهُ

کہ شق کیا جبرئیل علیہ السلام نے ان کا مبارک سینہ رشد و ہدایت (سے مزید بری) اکیلے اور نکال دیا قلب مقدس

عَلَقَةً سَوْدَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

کے اندر سے سیاہ گوشت پارہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ نِعْمَةُ اللَّهِ لَا تَحْصِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر جو محبوب کہ اللہ تعالیٰ کی غیر محدود نعمت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُسْرِيَ بِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو سیر کرانی گئی

لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

رات کے حقہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَشِيدُ مَنَارَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے مضبوط فرمایا ہدایت کا درحاصل کرنے کے

الْهُدَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

مراکز کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي أُسْرِيَ بِهِ وَهُوَ ابْنُ إِحْدَى وَخَمْسِينَ سَنَةً

کہ جس محبوب کو اسراء کرایا گیا جبکہ وہ اکیاون سال اور

وَتِسْعَةَ أَشْهُرٍ عَدَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نو ماہ کی عمر میں تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَلَّىٰ بِالْأَنْبِيَاءِ فِي الْبَيْتِ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے نماز پڑھائی انبیاء علیہم السلام کو بیت



الْمُقَدَّسِ وَيَجْلِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْفَعِ الْمُنْبَرِ وَالْمَجْلِسِ

المقدس میں اور تشریف فرما ہوں گے قیامت کے دن بلندتر مقام اور مجلس میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِي أَخَذَ إِسْرَافِيلُ بِرِكَابِهِ وَلَاذِمِيكَائِيلُ بِجَنَابِهِ اللَّهُمَّ

جس محبوب کی رکاب تھامی اسرافیل نے اور پناہ بچڑی میکائیل نے ان کی بارگاہ میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جب

مَالَتْ بِهِ الصَّخْرَةُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ شَدَّهَا لَهُ جِبْرَائِيلُ مِنَ الْجَهَّةِ

مائل ہوا صحرہ بیت المقدس کا ساتھ ان کے شب اسراء تو مضبوط کیا اسے جبرئیل نے دوسری

الْآخِرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جانب سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى الصَّخْرَةِ الْمَذْكُورَةِ مُبَادِرًا

جس نے جب اپنا قدم مبارک رکھا صحرہ مذکورہ پر جلدی کے ساتھ تو

غَاصَتْ رِجْلُهُ فِيهَا وَلَمْ يَزَلِ الْأَثَرُ إِلَى الْآنَ ظَاهِرًا اللَّهُمَّ

آپ کا قدم مبارک اس میں دھنس گیا اور وہ نشان قدم اب تک اس میں ظاہر محسوس ہوتا ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی تشریف آوری پر مسکرائے

صَحْبِكَ إِسْرَافِيلُ لَهُ وَسَأَلَهُ وَمَا ضحكٌ لِأَحَدٍ قَطُّ قَبْلَهُ اللَّهُمَّ

اسرافیل اور ان سے خیریت دریافت کی حالانکہ کبھی نہیں مسکرائے تھے کسی کے لیے آپ سے پہلے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب



رَكِبَ الْبَرَقَ مَسْرُوجًا مَدْجُومًا وَاخْتَرَقَ السَّبْعَ الطِّبَاقَ فَخُصُوصًا

سوار ہوئے براق پر جبکہ اس پر زین رکھی ہوئی تھی اور لگام دی ہوئی تھی اور عبور فرمایا اپنے ساتوں آسمانوں

مَكْرُومًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کو انخاص واکرام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَعَنِي فِي السَّمَاءِ بِنُعْلَيْنِ مِنْ نُورٍ يَلْمَعُ وَكَانَ صَرِيرٌ

پر جو محبوب آسمان پر چڑھے نور کا جوتا پہنے جو چمکتا تھا اور ان کے جوڑے

نَعْلَيْهِ بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ يُسْمِعُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کی آواز مشرق و مغرب میں سننی جاتی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُسْرِيَ بِهِ بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کو معراج کرائی گئی روح اور جسم سمیت اور

وَرَأَى مَا لَمْ يَرَكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جنہوں نے دیکھا وہ کچھ جو کسی نبی نے نہیں دیکھا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُسْرِيَ بِهِ يَقْظَانًا غَيْرَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کو معراج کرایا گیا بیداری کی حالت میں نہ کہ

نَائِمٍ وَبَدَأَهُ اللَّهُ بِالتَّحِيَّةِ وَهُوَ إِلَيْهِ قَادِمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نیند کی حالت میں اور آغاز فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تحیہ و سلام کا جبکہ آپ اسکی طرف آ رہے تھے اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَنَا فَتَدَلَّى وَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب قریب ہوئے پس بہت قریب ہوئے اور

أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ مَفْصَلًا وَخُصَّ بِالْقُرْبِ فِي الْإِسْرَاءِ وَ

نازل کی گئی ان پر تفصیل کتاب اور مخصوص ٹھہرائے گئے شب اسراء قرب خاص کے ساتھ اور

رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

دیکھا آپ نے رب کی بڑی آیات کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ



مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عُرِجَ بِهِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْبَيْتِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو معراج کرایا گیا مکہ مکرمہ سے بیت

الْمُقَدَّسِ ثُمَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا عَلَى الْبُرَاقِ وَعُرِجَ بِهِ عَلَىٰ أَجْنَحَةِ

المقدس تک اور پہلے آسمان تک براق پر اور معراج کرایا گیا انہیں ساتوں آسمانوں تک

الْمَلَائِكَةِ إِلَى السَّبْعِ الطَّبَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ملائکہ کے پروں پر - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَارَتْ بِهِ رِزَافُ الْأَشْفَاقِ إِلَى

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو لے اڑیں شفقوں کی

بَسَاطِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تیز رفتار سواریاں ملک خلاق کی بارگاہ تک - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عُرِجَ بِهِ عَلَىٰ أَسْرَةِ الْبَهَا وَعُرِجَ

آپ کی آل پر جس محبوب کو معراج کرائی گئی حسن و خوبی کے عرشوں پر اور معراج کرائی

بِهِ عَلَىٰ جَنَاحِ جِبْرِيلَ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

گئی انہیں جبرائیل کے پروں پر سدرۃ المنتہی تک - اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عُرِجَ بِهِ عَلَىٰ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں معراج کرایا گیا

جَنَاحِ الرَّفْرِفِ الْكَرِيمِ إِلَى عَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بزرگ رفرف کے پروں پر عرش عظیم تک - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عُرِجَ بِهِ عَلَىٰ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو معراج کرایا گیا

جَنَاحِ التَّائِيْدِ الْأَسْنَاءِ إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ

عالی شان تائید و تقویت کے پروں پر "قاب قوسین اودانی" کے قرب تک - اے اللہ صلوات



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نُوَدِّي

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو نوازدی گئی

سَبْعَ مِائَةِ اَلْفِ مَرَّةٍ اَدْنٰ حَبِيْبِيْ مُحَمَّدٌ لِّكَمَالِ الْمَبْرَةِ وَ

سات لاکھ مرتبہ "قریب ہوا سے میرے حبیب محمد" واسطے کمال احسان اور

الْمَسْرَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

مترت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِيْ كَانَتْ الْمَلٰٓئِكَةُ فِيْ مَرْكَبِ الْاِسْرَاءِ تَرْجُمُ عَلَيْهِ

آل پر کہ جس آقا کے لیے ملائکہ اسراء کے وقت سواری بننے میں ازرواح کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِيْ جَعَلْتَ لَهُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ شَمْعَتَيْنِ وَجِبْرٰٓئِيْلَ

جس محبوب کے لیے بنایا گیا سورج اور چاند کو دو شمعیں اور جبرائیل علیہ السلام

حَامِلُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

انہیں اٹھانے والے تھے ان کے آگے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ رَفَعِيَ السَّمٰوٰتِ وَالْمَنْزِلَ

اور آپ کی آل پر کہ جو آقا آسمان پر چڑھے اور ان کو اُتارا گیا منزل

الْمُقَرَّبَ وَرَاىْ اُمَّهٗ تَنْظُرُ اِلَيْهِ فِيْ كُلِّ مَوْقِفٍ وَتَتَعَجَّبُ

مقرب میں اور دیکھا آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھتے ہوئے آپ کی طرف ہر وقت میں اور تعجب کرتے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِيْ زَجَرَ فِي النُّوْرِ وَرَفَعَهُ بَيْتَ الْمَعْمُوْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جس محبوب کو آراستہ کیا گیا نور میں اور سامنے کیا گیا ان کے بیت المعمور۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما





عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقِيمَ مَقَامَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کو قائم کیا گیا عزت اور وفا کے

الْعِزِّ وَالْوَفَا وَوَقَفَ مَوْقِفَ الْكِرَامَةِ وَالزُّلْفَى اللَّهُمَّ صَلِّ

مقام پر اور جو ٹھہرے کرامت اور قرب کی منزل میں - اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاوَزَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ آگے گزر گئے

سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَاعْتَلَى وَسَمِعَ خُطَابَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ

سدرۃ المنتہی سے اور بلند ہو گئے اور سنا خطاب اللہ بلند شان کا - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب سوار

رَكِبَ رَفْرَفَ الْعُلَى طَلِبًا لِلْقُرْبِ مِنَ الْمَوْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہوئے بلند مرتبت رفرف پر مولیٰ تاملنے کے قرب کی طلب میں - اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاوَزَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو عبور فرما گئے

سَبْعِينَ حِجَابًا عَلَى الشَّامِ غَلْظُ كُلِّ حِجَابٍ مِّنْهَا مَسِيرَةٌ

ساتر حجابات کو مکمل طور پر کہ جن میں سے ہر حجاب کی موٹائی

خَمْسِينَ سَوَاءً عَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

پانچ سو سال کی مسافت ہے - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاوَزَ الْكَائِنَاتِ وَاخْتَرَقَ

آپ کی آل پر کہ جو محبوب آگے گزرے ساری کائنات سے اور عبور کیا

الْحُجُبَ وَالسَّرَادِقَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تمام حجابات اور سرادقات کو - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَّبَ إِلَىٰ قَابِ قَوْسَيْنِ وَهُوَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو نماز ہوئے قاب قوسین کے قرب پر اور وہ

لَيْسَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَيِّينَ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

نہیں ہیں غیب (کی خبروں) پر بخیل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ظَهَرَ بِمُسْتَوَىٰ يُسْمَعُ فِيهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب بلند ہوئے اس مقام تک کہ سنتے تھے اس میں کہ تباہ قدرت

صَرِيرَ الْأَقْلَامِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

کی قلموں کی آواز۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ عَمُودَ الْكِتَابِ اخْتَلَسَ مِنْ تَحْتِ

آل پر کہ جس محبوب نے مشاہدہ فرمایا کہ کتاب اللہ کے عمود (نور) کو کہ نکالا گیا ہے ان کے نیکہ کے نیچے سے

وَسَادَتِهِ وَعُمِدَتِهِ إِلَىٰ الشَّامِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اور قصد کیا گیا ہے اس کے شام کی طرف لے جانے کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّىٰ اللَّهُ لَهُ الْبَيْتَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن پر ظاہر فرمایا اللہ نے بیت

الْمُقَدَّسَ وَكُفِّتَ يَخْبِرُ أَصْحَابَهُ بِآيَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَهُمْ

المقدس اور آپ خبریں دینے لگے اپنے ساتھیوں کو اس کی علامات کی حالانکہ آپ بیٹھے

فِي الْمَجْلِسِ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

ہوئے تھے ان کے ساتھ مجلس میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَّبَهُ اللَّهُ مِنَ الْقُدْسِ إِلَىٰ تَقَامِ الْعُلَىٰ

آل پر کہ قریب کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے قدس سے مقام علی (عرش) تک

وَجَمِيعِ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ تَبَاشَرُ بِقُدُومِهِ وَرُؤْيَا اللَّهُمَّ

اور تمام فرشتے آسمانوں کے خوشیاں منا رہے تھے ان کی تشریف آوری پر اور ان کے دیدار سے اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے

رَايَاتُهُ تَخْرِقُ الْعُلَى وَأَعْلَامُهُ انْتَشَرَتْ فِي الْمَلَا الْأَعْلَى

مجھڑے بندوں کو پھاڑتے ہیں اور جن کے پرچم لراتے ہیں علاء اعلى میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي لَهَا عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ فِي صُورَتِهِ الْبَشَرِيَّةِ خَلَقَ اللَّهُ

کہ محبوب کو آسمان کی طرف معراج کرائی گئی ان کی صورت بشریہ میں تو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے

لَهُ صُورَةٌ عَلَى صُورَةِ أَبِي بَكْرٍ تَوْنُسُهُ فِي أَمَاكِنِ الرُّوحَانِيَّةِ اللَّهُمَّ

ان کے لیے ایک صورت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صورت پر جو آپ کی مونس تھی روحانی مقامات میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب

رَقِيَ الْمِعْرَاجَ فِي عَالَمِ السَّمَوَاتِ وَذَاقَ حَلَاوَةَ الْوَصْلِ وَلَذَّةَ

معراج (نورانی سیڑھی) کے ذریعے چڑھے آسمانوں کے جہان میں اور حاصل کی حلاوت و وصل کی اور لذت

الْمَنَاجَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اللہ تعالیٰ سے بہکلامی کی۔ اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلَّمَ الْمَلَائِكَةَ آدَابَ الْعِبَادِيَّةِ فِي حَضْرَةِ

آل پر کہ جس مخدوم کائنات نے سکھائے ملائکہ کو عبودیت کے آداب بارگاہ ربوبیت

الرُّبُوبِيَّةِ وَاقْتَرَضَتْ عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ

میں اور فرض کی گئیں ان پر پانچ نمازیں سات آسمانوں سے اوپر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلواۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ



الَّذِي اسْتَحْيَا مِنْ سَرِيَّةٍ أَنْ يُرَاجَعَهُ وَمَا لَمْ يَسْتُيْذِدْ أَمْرًا

جس سعدن حیاء نے شرم محسوس کی اپنے رب سے کہ (پانچ نمازوں کی تخفیف میں) اس سے رجوع کریں اور نہ میں کیا ان کے

قَطْرٍ لِلْبَيَاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ بیعت کے لیے بھی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلَّمَهُ اللَّهُ الْأَذَانَ بِهَيْئَتِهِ وَصُورَتِهِ فِي

آل پر کہ جس محبوب کو سکھلائی اللہ تعالیٰ نے آذان - بمع اپنی ہیئت و صورت کے اپنی

حَضْرَةِ الْوَهْيَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بارگاہ الوہیت میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَازَ كَسْبَ الْكَمَالِ وَعَايِنَ انْشَاطِ

آل پر کہ جس محبوب نے جمع کیا ہر قابل کسب کمال اپنے اندر اور مشاہدہ فرمائے انوار

الْجَلالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جلال۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلَكَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَكْوَانِ وَصَلَّى إِمَامًا

پر کہ جس محبوب کو مالک بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کائنات کے خزانوں کی چابیوں کا اور جنہوں نے نماز پڑھی بطور امام بہرے

فِي حَضْرَةِ الْمَلِكِ الدِّيَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے اور شہنشاہ جزاء دینے والے کی بارگاہ میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَحَا اللَّهُ لَهُ اسْتَارَ الْجَلالِ وَ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے پھیلائے اللہ تعالیٰ نے پردے جلال کے اور

سَاقِ اللَّهِ لَهُ مِنَ الشَّحْفِ مَا لَا يَنَالُهُ أَحَدٌ وَلَا نَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہنچائے انہیں ایسے شحاف کہ جنہیں کوئی نہ پائے گا اور نہ ہی کسی نے پائے ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَامَ فِي

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب (و محبت مولیٰ میں) سرگردان ہے



أَوْ دِيَةِ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ وَالْغَيْبَةِ وَالْحُضُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

فناء (فی اللہ) اور بقا (باللہ) اور غیبت (ذات بخت) اور حضور (وہود ذات) کی واردوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْغَسَسَ فِي بَحَارِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ غوطہ زن ہوئے انوار احدیت کے

أَنْوَارِ الْأَحَدِيَّةِ بِأَسْرَارِ الْأُلُوْهِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سمندروں میں اسرار الہیت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَكِبَ مَرْكَبَ الْمَسَابِقَاتِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب سوار ہوئے خیرات کی طرف

إِلَى الْخَيْرَاتِ وَقَطَعَ الشَّوَاغِلَ عَلَى أَسْمَاءِ الدَّرَجَاتِ اللَّهُمَّ

مسافقتوں کی سواری پر اور قطع فرمایا مشغول و مصروف رکھنے والے اسباب کوعالی درجات سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ

رَكِبَ مَرْكَبَ الْأَمَانِ وَالْتِمَامِينَ وَرَفَعَ مَقَامَهُ فِي أَعْلَى

سوار ہوئے امن پانے اور امن دینے کے مرکب پر اور بلند کیا گیا مقام ان کا اعلیٰ

عَلْيَيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

علیین میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي رَكِبَ مَرْكَبَ التَّقْدِيمِ وَالْإِقْدَامِ لِمَنَاجَاتِ الْمَلِكِ

جو محبوب سوار ہوئے آگے لے جانے اور آگے بڑھنے والے مرکب پر واسطے ملک مناجات کی مناجات

الْعَلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وہمکلامی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي رَكِبَ مَرْكَبَ التَّخْصِيصِ وَالْعِنَايَةِ وَاقْتَدَسَتْ سَامَ الرُّشْدِ وَ

جو محبوب سوار ہوئے اللہ تعالیٰ کے اختصاص و عنایت کے مرکب پر اور بیٹھے رشد و ہدایت کے



الْهِدَايَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اعلیٰ مقام پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي رَكِبَ جَنَاحَ التَّائِيْدِ وَرَقِيَ مَرَاتِقِي الْعِزِّ وَالتَّائِيْدِ اللَّهُمَّ

پر جو محبوب سوار ہوئے تو تین خداوندی کے پروں پر اور بلند ہوئے عزت و تائید کی سیڑھیوں پر اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ارْتَدَى

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے اوڑھی

رِدَاءَ الْأَمْنِ وَالْعَلَاوَزِ اذْ رَفَعَتْهُ وَعَلَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ

چادر امن اور برتری کی اور بڑھ گئے اذروئے رفعت و علو کے ملکوت اعلیٰ سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْتَبْشَرَ بِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی وجہ سے خوش ہو گئے

أَقْطَارَ السَّمَوَاتِ لَهَا أُسْرَى بِهِ إِلَى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ وَالْبَسَّهُ اللَّهُ حُلَّ

آسمانوں کے اطراف و اکناف جبکہ انہیں معراج کرایا گیا اعلیٰ مقامات تک اور پہنائی انہیں اللہ تعالیٰ نے پوشائیں

الْبَهَاءِ وَالْحَمَامِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

حسن و خوبی اور تعریف و ثناء کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي يَسْتِظِلُّ تَحْتِ لَوَائِحِهِ كُلُّ حَامِدٍ وَخَلَعَ عَلَيْهِ الْمَلِكُ

آل پر کہ جس محبوب کے لواء الحمد کے نیچے سایہ حاصل کرے گا ہر حمد کرنے والا اور خلعت بختی انہیں ملک

الْمَعْبُودِ خَلَعَ الرَّضَى وَالْجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

معبود نے رضا و پسندیدگی اور جو دو کرم کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَاحَتْ لَهُ لَوَائِحُ الْبُرُوقِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے ظاہر ہوئیں چمکتی بجلیاں

وَلَوَائِعُ الْأَنْوَارِ وَظَهَرَتْ لَهُ طَوَالِعُ الْمَشَاهِدَاتِ وَالْأَسْرَارِ

اور روشن انوار اور ظاہر ہوئے ان پر مشاہدات کے آفتاب و ماہتاب اور



الشُّرُوقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دیکھتے اسرار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَشَفَ اللَّهُ لَهُ عَالَمَ الْمَلَكُوتِ وَعَايِنَ أَسْوَارَ

پر کہ جس محبوب پر اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمایا عالم ملکوت کو اور انہوں نے مشاہدہ کیا انوار

الْجَبْرُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جبروت کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي وَطَّئَتْ لَهُ بَسُطَ الْجَلَالِ وَمُهَّدَتْ لَهُ أَكْنَافَ الْقُبُولِ

کہ جس محبوب کے قدموں میں بچھائے گئے جلال و بزرگی کے بچھونے اور پھیلائے گئے ان کے لیے قبولیت

وَالِاقْبَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور نیک بختی کے پہلو اور آغوشیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي صَيَّغَ مِنَ الْجَلَالِ وَرَأَى سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى وَشَرَّهَا

آل پر کہ جو محبوب ڈھالے گئے عنقر جلال سے اور دیکھا سدرة المنتہی کو اور اس کے پھولوں کو

كَالِقَلَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مانند ٹکڑوں کے (بڑائی میں)۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالثَّبَاتِ حِينَ رَأَى عِظَائِمَ

آل پر کہ جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ثابت قدمی جبکہ مشاہدہ منہرہ یا عظیم ترین

الْمَخْلُوقَاتِ السَّبْعِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ وَدُونَهُمَا اللَّهُمَّ

مخلوقات کا ساتوں آسمانوں اور زمینوں والی کا اور ان کے علاوہ کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَطَّئَتْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے قدموں میں بچھائے

لَهُ بِسَاطِ الرَّبُّوبِيَّةِ بِأَقْدَامِهِ وَأَحْرَمَتْ الْمَلَائِكَةُ لِأِحْرَامِهِ اللَّهُمَّ

گئے بچھونے تربیت اور شائستگی کے ان کی آمد پر اور احرام باندھا ملائکہ نے ان کے احرام باندھنے پر۔ اے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خُفِّفَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے طفیل ہلکا کر دیا گیا

بِهِ الْعَذَابُ عَنِ الْكُفَّارِ حِينَ اطَّلَعَ عَلَى النَّارِ وَخُفِّفَ بِهِ الْعَذَابُ

کفار پر سے عذاب جبکہ انہوں نے مشاہدہ فرمایا آتش دوزخ کا اور ہلکا کر دیا گیا ان کی بدولت

الْوَاصِبُ عَنْ عَمَّةِ ابْنِ طَالِبٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

دامی عذاب ان کے چچے ابو طالب سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خُفِّفَ بِهِ الْعَذَابُ عَنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے طفیل کم کر دیا گیا عذاب

ابْنِ لَهَبٍ لِّعْتَقِهِ الْوَلِيْدَةَ الَّتِي بَشَّرَتْهُ بِوَلَادَتِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

ابو لہب سے بسبب اس کے آزاد کرنے کے اس لونڈی کو جس نے اسے آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَاَلَهُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے مطالبہ کیا

الْبِرَاقُ اَنْ يَّشْفَعَ فِيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

براق نے کہ اس کے لیے شفاعت فرماویں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَامَرَ عَلٰی نَبِيٍّ وَّلَا مَلِكٍ اِلَّا رَحِبَ

اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب نہ گزرے کسی بھی نبی اور فرشتہ پر مگر سب نے

بِهِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

آپ کو مرجا کہا اور سلام پیش کیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ تَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ حَجِيْبَةً اِلَّا اطَّلَعَ عَلَيْهَا

آل پر کہ نہیں تھی آسمانوں میں کوئی عجیب شئی مگر آپ اس پر مطلع ہوئے اور

وَلَمْ تَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ مَنْحَةً غَرِيْبَةً اِلَّا وَّصَلَ اِلَيْهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ

نہیں تھی کوئی انوکھا عطیہ مگر آپ اس تک پہنچے اور اسے حاصل کیا، اے اللہ صلوٰۃ



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْنٰی بِقَوْلِهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے

تَعَالٰی مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاى اَقْتَبَارُوْنَ عَلٰى مَا يَرٰى و لَقَدْ

اس قول سے ”نہیں جھٹلایا دل نے جو انہوں نے دیکھا کیا تم ان کے ساتھ جھگڑتے ہو اس پر جو وہ دیکھتے ہیں اور البتہ

رَاَه نَزْلَةً اٰخْرٰى اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُلُوْبَنَا مَعْمُوْرَةً بِالْبَيْتِ

دیکھا انہوں نے اسے دوسری دفعہ اترتے ہوئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو آباد فرما بطفیل بیت معمور

الْمَعْمُوْر بِمَعَارِفِهِ الْعَلِيَّيَّةِ وَاَرْوَاحَنَا مَنُوْرَةً بِاَنْوَارِ السَّنِيَّةِ

کے ساتھ اپنے محبوب کے علی معارف کے اور ہمارے ارواح کو منور فرما ان کے عالی شان انوار کے ساتھ

وَعُقُوْلَنَا تَابِعَةً لِّمَا مَوْرَاتِهِ وَنْفُوْسَنَا حُجُوْرَةً بِمَنْهِيَّاتِهِ

اور ہمارے عقول کو آپ کے فرمودات کے تابع بنا اور ہمارے نفوس کو آپ کے منہیات کے ذریعے مجبور ٹھہرا اور

وَابْدَا اِنَّا مَنَقَادَةٌ لِّعَظِيْمِ ذٰلِكَ الْهُدٰى مَا اَحْيَيْتَنَا اَبَدًا اَللّٰهُمَّ

ہمارے بدلوں کو فرمانبردار بنا آپ کی اس عظیم ہدایت کا جب تک کہ ہمیں زندہ رکھے۔ اے اللہ

اجْعَلْ حَيَاتِنَا عَلٰى سُنَّتِهِ وَمَوْتِنَا عَلٰى مَوْتِهِ وَاَجْعَلْهُ لِحُبِّيْنَا

بنا ہماری زندگی آپ کی سنت کے مطابق اور ہماری وفات آپ کے وصال کے موافق اور بنا آپ کو ہماری اتھاڑوں کو قبول

فِي الْبُرْزَخِ عِنْدَ السُّؤَالِ وَشَفِيْعًا لَّنَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ

زمانے والے برزخ میں سوال کے وقت اور ہماری شفاعت فرمانے والے تیرے ہاں قیامت کے دن عذاب الیم

النَّكَالِ وِعَظِيْمِ الْاَهْوَالِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَّنَا مَجِيْرًا مِنْ عَذَابِكَ

اور عظیم ہو لانا کیوں سے۔ اے اللہ بنا انہیں ہمارے لیے پناہ دینے والے تیرے

وَعِقَابِكَ وَاَجْعَلْ لَّنَا جَارًا فِى دَارِ ثَوَابِكَ مِنْ غَيْرِ عَذَابٍ وَّ

عذاب اور عقاب سے اور بنا آپ کو ہمارا بڑوسی اپنے دار ثواب میں بغیر کسی عذاب اور

اِمْتِحَانٍ يَّا حَنَّانُ يَّا مَمْتَانَ يَّا مَغِيْثُ يَّا قَابِلَ التَّوْبِ اَللّٰهُمَّ

امتحان کے اے مہربان۔ اے محسن۔ اے فریاد رس۔ اے توبہ قبول کرنے والے۔ اے اللہ



مَتَّعْنَا بِشُهُودٍ طَلَعَتْ فِي الدَّارَيْنِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا أُنَيْسًا فِي

ہمیں نفع اندوز نما ان کے چہرہ زبیا کی زیارت کے ساتھ دارین میں۔ اے اللہ انہیں بنا ہمارے لیے مونس

الْكُونَيْنِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا عِنْدَكَ مِنْ أَهْلِ الْعِنَايَةِ فِي الْبِدَايَةِ وَ

دو دن جہازوں میں۔ اے اللہ ہمیں بنا ان کے ہاں عنایت کے لائق ابتداء اور انتہاء

النِّهَايَةِ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَاتَّوَسَّلُ بِكَ إِلَيْكَ يَا إِلَهِي فِي

میں آمین یا رب العالمین اور میں ان کے ساتھ توسل کرتا ہوں اے میرے الہ

الْبُعْدِ عَنْ كُلِّ لَذَةٍ وَأَسْأَلُكَ الْقُرْبَ إِلَيْكَ وَالْإِعْتِمَادَ عَلَيْكَ

دور رہنے میں ہر اس شے سے جو لہو و لعب میں ڈالنے والی ہے۔ اور سوال کرتا ہوں قرب کا طرف تیرے اور اعتماد کا اور تیرے

إِلَهِي بَسَطَتْ إِلَيْكَ يَدَ الْفَاقَةِ وَالْإِفْتِقَارِ وَجَدْتُ بِحَالَةِ الدُّلِّ

اے اللہ میں نے پھیلا دیا ہے تیری بارگاہ میں ہاتھ فاقہ اور افتقار کا اور میں حاضر ہوا ہوں عجز و انکساری کی حالت کیساتھ

وَالْإِنْكَسَارِ وَقَدْ وَقَفْتُ بِالْبَابِ وَتَوَسَّلْتُ بِالْأَحْبَابِ فَاجِبُ

اور کھڑا ہوں تیرے در پر اور وسیلہ بنایا ہے تیرے احباب کو پس قبول فرما

سَوَالِي وَلَا تُخَيِّبْ أَمَالِي اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا بِفَضْلِكَ لَدُنَّ التَّابِعِينَ

میرا سوال اور نہ رسوا فرما میری آرزوں کو۔ اے اللہ بنا دے ہمیں اپنے فضل سے ان کے تابع

وَالِى سُنَّتِهِ وَطَرِيقَتِهِ مِنَ الْمُقْتَفِينَ وَعَلَى حَوْضِهِ مِنَ الْوَارِدِينَ

اور ان کی سنت اور طریقہ پر چلنے والے اور ان کے حوض کوثر پر وارد ہونے والوں سے

وَالِى قَدَمِهِ مِنَ الْوَاصِلِينَ وَبِحَبِّكَ وَحُبِّهِ مِنَ الْمَشْغُولِينَ

اور ان کے قدموں تک پہنچنے والوں سے بنا۔ اور اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت میں مشغول ہونے والوں سے بنا

وَالِى طَلَبِكَ قَاصِدِينَ وَفِيهَا عِنْدَكَ رَاغِبِينَ وَإِلَيْكَ مُتَوَجِّهِينَ

اور اپنی طلب کا قصد و عزم رکھنے والوں سے اور اپنے ہاں موجود نعمات میں رغبت رکھنے والوں سے اور اپنی طرف متوجہ فرما

وَعَلَى مَا يَرْضِيكَ مُقْبِلِينَ وَعَسْنُ لَا يَرْضِيكَ مُنْقَطِعِينَ وَ

اور جو امر تجھے راضی کرے اس پر قائم رہنے والوں سے بنا اور جو تجھے راضی نہ کرے اس سے منقطع ہونے والوں سے بنا



بِكَ مُتَوَلِّعِينَ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّكَ شَاهِدِينَ وَبِمَا أَعْطَيْتَنَا

اپنی ذات کا شوق وافر رکھنے والوں سے اور ہر شئی میں اپنی ذات کا شاہدہ کرنے والوں سے بنا اور جو تو نے عطا کیا اس پر

رَاضِينَ وَفِي جَمَالِكَ مُسْتَعْرِقِينَ وَفِي كَمَالِكَ مُسْتَهْلِكِينَ

راضی ہونے والوں سے اپنے جمال میں مستغرق ہونے والوں سے اور اپنے کمال میں فانی ہونے والوں سے

وَبِحَمَالِكَ عَارِفِينَ وَبِكُلِّ نَاطِقٍ لَّكَ سَامِعِينَ وَبِكُلِّ مُبْصِرٍ

اور اپنے جمال کا عرفان رکھنے والوں سے بنا اور اپنی گفتگو کرنے والوں کا سامع بنا اور اپنی ذات کی بصیرت رکھنے والوں کا

لَّكَ مُبْصِرِينَ وَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَمَّنْ وَسِعَكَ وَفِي كُلِّ مَظْهَرٍ

دہکار کرنے والا بنا اور بنا ہمیں اے اللہ ان مقبولان بارگاہ سے جو تیری گنجائش رکھتے ہیں اور تیرے ہر منظر کی

لَّكَ فَلَمْ يَنْبِرْكَ فِي شَيْءٍ إِصْدَارَ عَنكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَظْهَرٍ

پس نہیں انکار کیا انہوں نے تیرا کسی بھی ایسی شئی میں جو تجھ سے صادر ہوئی۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

رِضَاءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلِّ عَلَى قَرَّةِ عَيْنٍ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

رب العالمین کی رضا کے مظاہر پر اور صلوٰۃ نازل فرما اپنے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک پر

وَتَقَبَّلْنَا بِجَاهِهِ أَمِينٌ ۝ وَأَسْأَلُكَ بِهِ مِنَ الرَّفِيقِ أَحْسَنَهُ وَ

اور ہمیں قبول فرما بطفیل ان کی عزت و حرمت کے آئین اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ان کے طفیل تو بہترین رفیق کا اور

مِنَ الطَّرِيقِ أَسْهَلَهُ وَمِنَ الْعِلْمِ أَنْفَعَهُ وَمِنَ الْعَمَلِ أَصْلَحَهُ

آسان تر راستہ کا۔ اور نافع ترین علم کا اور موزوں ترین عمل کا اور کشادہ ترین

وَمِنَ الْمَكَانِ أَفْسَحَهُ وَمِنَ الْعَيْشِ أَرْغَدَاءَ وَمِنَ الرِّزْقِ

مکان کا اور خوشگوار ترین گزران کا اور پاکیزہ ترین اور وسیع ترین رزق کا

أَطْيَبَهُ وَأَوْسَعَهُ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُدْخِلَنَا مِنْ بَابِهِ يَا وَاحِدٌ

اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ ہمیں داخل کرے ان کے دروازہ سے اے واحد

يَا أَحَدٌ إِلَى حَضْرَةِ الْهُدَايَةِ وَالْإِهْتِدَاءِ يَا مُهْدِيٌّ وَأَنْ تُدْخِلَنَا

اے احد طرہ بارگاہ ہدایت و اہتداء کے اے ہدایت دینے والے اور داخل فرمائے ہمیں



مِنْ بَابِهِ إِلَى حَضْرَتِكَ يَا سَامِعَ السِّرِّ وَالتَّجْوَى وَأَنْ تُدْخِلَنَا

ان کے دروازہ سے اپنی بارگاہ کی طرف اے سننے والے مخفی اور آشکار کے اور شرف باریابی بخشے

مِنْ بَابِهِ إِلَى حَضْرَتِكَ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ وَأَنْ تُدْخِلَنَا مِنْ

انہیں والے دروازہ سے اپنی بارگاہ خاص میں اے احکم الحاکمین اور شرف باریابی بخشے انہیں والے

بَابِهِ إِلَى حَضْرَةِ الْعِيَانِ وَالكِفَاحِ وَأَسْقِنَا مِنْ يَدِهِ شُرْبَةً

باب رحمت سے طرف بارگاہ شہود اور عیان کے اور پلائے ہمیں ان کے دستِ کرم سے خوشگوار

هِنْدِيًّا لَا نَظْمًا بَعْدَهَا أَبَدًا وَأَدْخِلْنَا مِنْ بَابِهِ إِلَى حَضْرَتِكَ

شربت کہ جس کے بعد ہم کبھی پیلا سے نہ ہوں اور حاضری کا شرف بخش ہمیں انہیں والے دروازہ سے اپنی بارگاہ کی طرف

بِسَبِّكَ وَكَرَمِكَ يَا مَتَّانُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اپنے احسان اور کرم کے ساتھ اے احسان فرمانے والے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى رَبَّهُ رُءْيَا عَيْنٍ بِلَا حِدٍّ وَلَا آيِنٍ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا اپنے رب تعالیٰ کو چشم سر کے ساتھ بلا حجت و حد اور بغیر مکان کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِي رَأَى رَبَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ وَأَسْرَأِ

جس محبوب نے دیکھا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو جبکہ وہ محبوب علیہ السلام بہت حسین صورت میں تھے اور

بُغْيَتِهِ وَسُرُورًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اللہ تعالیٰ نے دکھلایا انہیں ان کا مقصد اور سرور۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى جِبْرِيْلَ وَلَهُ سِتْمَاءَةٌ جَنَاحٌ فِي صُورَتِهِ

کہ جنہوں نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو ساتھ قوت انسانیہ بشریہ کے جبکہ اس کے چھ سو پر تھے اس کی

الرُّوحَانِيَّةُ بِالقُوَّةِ الْإِنْسَانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صورت روحانیہ نورانیہ میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ مَلَكَ الْمَوْتِ قَبْلَ الْحُضُورِ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا ملک الموت علیہ السلام کو حالت احتضار سے قبل

وَرَأَىٰ إِسْرَافِيلَ مُلْتَقِمًا بِفِيهِ الصُّورُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اور دیکھا اسرافیل علیہ السلام کو منہ میں لیے ہوئے صور کو۔ اے اللہ (صلوٰۃ) اور سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ مَلَكَ الْحِجَابِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا حجاب عظمت والے فرشتے کو

عَلَىٰ عُلُوِّ مَنْزِلِهِ وَرَأَىٰ مِيكَائِيلَ وَالْعَرْشُ عَلَىٰ كَاهِلِهِ اللَّهُمَّ

باوجود اس کے علو منزل کے اور دیکھا میکائیل علیہ السلام کو در آئینہ عرش خداوند تعالیٰ ان کے کندھے پر تھا اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے

رَأَىٰ الْخَزَنَةَ وَالزَّبَانِيَةَ وَرَأَىٰ حِمْلَةَ الْعَرْشِ الشَّمَانِيَةَ اللَّهُمَّ

دیکھا جنت کے نگرانوں اور دوزخ کے موکل ملائکہ کو اور عرش کے حامل اظہر فرشتوں کو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا

الْحَوْضَ الْكَوْثَرَ وَرَأَىٰ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ

حوض کوثر کو اور دیکھا جنت میں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی کان نے

سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَيَّ قَلْبَ بَشَرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

مُتَنَا اور نہ کھٹکا کسی بشر کے دل پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ النَّيْلَ وَالْفُرَاتَ

محمد پر اور ان کی آل اطہار پر کہ جس محبوب نے دیکھا نیل اور فرات

يَجْرِيَانِ فَوْقَ السَّمَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کو بہتے ہوئے آسمانوں سے اوپر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور



عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى الْبَحْرَ الْمَسْجُورَ وَرَأَى الْحَبَابَ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا جو شس دلائے ہوئے سمندر کو اور مشاہدہ کیا حجاب

الْأَعْظَمَ وَالنُّورَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اعظم اور نور کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى بَحْرَ الْحَيَوَاتِ وَرَأَى مَوْقَاتَ السَّمَوَاتِ

پر کہ جس محبوب مکرم نے دیکھا بحر حیوات کو اور مشاہدہ فرمایا آسمانوں کی مقدار کا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے

رَأَى النَّارَ يَحِطُّ بِبَعْضِهَا بَعْضًا وَرَأَى أَهْلَ النَّارِ وَتَفَاوُتَهُمْ

دیکھا آتش دوزخ کو کہ توڑتی اور مغلوب کرتی تھی اس کی بعض بعض کو اور دیکھا اہل نار کو اور عذاب میں

فِي الْعَذَابِ أَيْضًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ان کے باہم فرق کو بھی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى عَجَائِبَ الْغَرَائِبِ وَغَرَائِبَ

کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا انوکھے اشیاء کے عجائب کو اور عجائبات قدرت کے

الْعَجَائِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

انوکھے مناظر کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى عَمْرًا وَابْنَ لُحْيٍ يَجْرُقُ صَبَةَ فِي النَّارِ وَهُوَ

جس محبوب نے دیکھا عمرو بن لُحْي کو اپنی انتڑیاں آتش دوزخ میں گھسیٹتے ہوئے اور وہ

أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَابِغَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پہلا شخص تھا جس نے (توں کے لیے) اونٹنیوں کو آزاد کیا تھا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى إِبْلِيسَ اللَّعِينِ وَقَدْ جَاءَهُ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا ابلیس لعین کو جبکہ وہ آپ کے پاس آکر



يَسْأَلُهُ عَنْ عُلُومِ الدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سوال کرتا تھا علوم دین کے متعلق۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى عَفْرِيْتًا وَفِي يَدَيْهِ شُعْلَةٌ مِّنَ النَّارِ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقائے دیجا سرکش جن کو در آغا لیکہ اس کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا

فَعَصَبُهُ مِنْهُ الْجَبَّارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پس محفوظ رکھا آپ کو اس سے جبار تعالیٰ نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى مَنَازِلَ أَصْحَابِهِ فِي الْجَنَّةِ وَأَخْبَرَ بِمَا

کی آل پر کہ جس آقائے ملاحظہ فرمائیں اپنے صحابہ کی منزلیں جنت میں اور خبر دی اس کی جو

يُصِيبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مِّنَ الْبَلَاءِ وَالْهِمَّةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پہنچے گی ان میں سے ہر ایک کو آزمائش اور امتحان۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى مِنْ حَارِبَةٍ بِنِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقائے دیجا اپنے ساتھ جنگ کرنے والے

الْكُفَّارِ يَسْحَبُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کفار کو کہ ٹھیسے جاتے ہیں اپنے مونہوں کے بل آگ میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى الْمَرْدَةَ وَالشَّيَاطِينَ فِي

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقائے دیجا سرکش جنوں اور شیطانوں کو

الْأَصْفَادِ مُقَرَّنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تینوں میں جکڑے ہوئے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى صَاحِبَةَ الْهَرَّةِ تُعَذِّبُ فِي النَّارِ عَلَى

آل پر کہ جس آقائے دیجا بلی والی عورت کو عذاب دے جاتے ہمیشہ کے لیے آتش دوزخ میں

الدَّوَامِ لِحَبْسِهَا أَيَّهَا عَنِ الشَّرَابِ وَالطَّعَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بسبب اس کو بند رکھنے کے پینے اور کھانے سے (حتیٰ کہ پیاسی بھوک مر گئی)۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى مَسْجِدَ الضَّرَارِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے دیکھا مسجد ضرار کو

وَمَصَارِعَهُ حِينَ انْهَارَةِ إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور اس کے گرانے والے کو وقت اس کے گرانے کے ساتریں زمین تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى مُحَاسِبَةَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے دیکھا رب تھانے کے محاسبہ

الرَّبِّ لِبَعْضِ الْعِبَادِ قَبْلَ يَوْمِ الْوَعِيدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

و مواخذہ کو بعض بندوں سے متعلق پہلے قیام قیامت سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى فِي الْجَنَّةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے دیکھا جنت میں

الرَّمِيضًا إِلَى جَانِبِ قَصْرِ تَتَوَضَّأُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

رمیضا (زوجہ ابی طلحہ) کو ایک محل کی جانب میں روشنی پھیلاتے (اپنے انوار سے) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى الْوُلْدَانَ وَالْحُورَ فِي

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس آقا نے دیکھا ولدان کو اور حوروں کو

الْغُرَفَاتِ وَالْقُصُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جنت کے بالاخانوں اور محلات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى فِي الْجَنَّةِ بِلَا أَرْتِيَابٍ جَارِيَةً

آپ کی آل پر کہ جس آقا نے دیکھا بلا ریب و تردد جنت میں

لِعَمْرٍ ابْنِ الْخَطَّابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جنتی بیوی کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى الْمَلَائِكَةَ تَظَلُّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ جَبْرِ

آپ کی آل پر کہ جس آقا نے مشاہدہ فرمایا ملائکہ کو سایہ کرتے ہوئے حضرت عبد اللہ بن جبیر پر





وَهُوَ قَتِيلٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْجَبَّارِ نَصْفَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَ

پر کہ جس آقا نے مشاہدہ فرمایا ایک فرشتہ کو اللہ جبار کے ملائکہ سے کہ جس کا نصف برف سے تھا

نَصْفَهُ مِنْ نَارٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور نصف نار سے تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى الْمَلِكَ بِحِرَاءَ فَعَلِمَهُ اقْرَأْ وَلَمْ يَكُنْ

محمد کی آل پر کہ جس آقا نے دیکھا فرشتہ بجریل کو خار حراء میں پس اس نے پڑھائی آپ کو اترو والی آیت حالانکہ

يَقْرَأُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ پہلے نہیں پڑھتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِي رَأَى الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ بَدْرِ تَسِيرًا وَتَغْيِيرًا وَرَأَى مَلَكًا بِحِمْلٍ

جس آقا نے دیکھا ملائکہ کو بدر کے دن چلتے ہوئے اور حملہ آور ہوتے اور دیکھا ایک فرشتے کو پرچم اٹھانے

الرَّأْيَةَ عَلَى صُورَةِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو حضرت مصعب بن عمیر کی صورت پر تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى أُمَّهُ حِينَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا اپنی والدہ ماجدہ کو جبکہ

حَمَلَتْ بِهِ عَلَى التَّمَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وہ حاملہ ہوئیں ساتھ آپ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى خُرُوجَ التُّورِ مِنْ أُقْبِهِ حَتَّى

اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے دیکھا طور نور کا اپنی والدہ ماجدہ سے یہاں تک کہ

أَضَاءَ لَهَا قُصُورَ الشَّامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

روشن ہو گئے ان کے لیے محلات شام کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور



عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ بَيْنَ عَيْنَيْهِ إِسْرَافِيلَ كُلَّ شَيْءٍ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے مشاہدہ کیا اسرافیل علیہ السلام کی آنکھوں کے درمیان ہر شے کا

أُنزِلَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّنْزِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو نازل کی گئی آپ پر اس کے نازل کئے جانے سے قبل۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ دَوَائِرَ أُمَّتِهِ مَكْتُوبًا وَرَأَىٰ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھے اپنی امت کے دیوان لکھے ہوئے اور دیکھے

مَوَازِينَ أُمَّتِهِ مَنْصُوبًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

میزان اپنی امت کے نصب کئے ہوئے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ اسْتِغْفَارَ أُمَّتِهِ أَيُّضًا مِنْ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہوں نے دیکھا اپنی امت کی استغفار کو (مثالی صورت میں) سفید کاغذ سے

الْقِرْطَاسِ وَرَأَىٰ ذُنُوبَ أُمَّتِهِ أَسْوَدَ مِنَ الْغَطَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ

بھی زیادہ سفید اور دیکھا امت کے گناہوں کو (مثالی صورت میں) جو کہ شب تاریک سے بھی زیادہ سیاہ ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھ لیا

سَوَادَ الْأَمَمِ قَبْلَ خُرُوجِهِمْ مِنَ الْعَدَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

امتوں کے جمع کو ان کے عدم سے وجود میں آنے سے قبل۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ دَارَ هَجْرَتِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا (خواب میں) اپنے دار ہجرت کو

بِالْتَّعْيِينِ ذَاتِ نَخْلٍ بَيْنَ اللَّابَتَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

معیین طور پر جو کہ ایک نخلستان ہے جو دو سنگتوں کے درمیان ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَىٰ مُوسَىٰ عَلَىٰ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی

تَاقَتِهِ الْحُمْرَاءُ يَلْبِي أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

سرخ اونٹنی پر تلبیہ حج کہتے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى الْأَنْبِيَاءَ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَرَأَى

آل پر جس محبوب نے دیکھا (نور نبوت سے) انبیاء علیہم السلام کو بیت اللہ کا طواف کرتے اور دیکھا

الْأَعْوَرَ الدَّجَالَ وَكَانَ عَيْنُهُ عَنَبَةً طَافِيَةً أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کانے و جال کو جبکہ اس کی ایک آنکھ پانی میں تیرتے انجور کی مانند تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَرَى مِنْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ دیکھتے تھے

أَعْلَى الْمَلَائِكَةِ إِلَى ظَهْرِ الْحُوتِ أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ملکوت اعلا سے لیکر زمین مچلی کی پشت تک (کی ہر شئی) کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْتَهَى إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو پہنچے قاب قوسین

أَوْ أَدْنَىٰ وَأَرَيْتَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ وَأَنْتَ الْغَايَةُ الْقُصْوَىٰ وَ

او ادنیٰ کے قرب تک اور دکھلائی تو نے انہیں بہت بڑی آیت و نشانی اور عطا کی انہیں انتہائی رفعت و بلندی

أَكْرَمَتَهُ بِالْمَخَاطِبَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَالْمُشَافَهَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ وَ

اور عزت دی انہیں ہمکلامی اور نگہداشت۔ روبرو ہونے اور مشاہدہ کرنے اور

الْمُعَايَنَةِ بِالْبَصْرِ أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

چشم سر کے ساتھ دیدار کرنے کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَنَجَّمَ نُبُوتَهُ عَلَىٰ فِتْهَاجِ شَرِيعَتِهِ

کی آل پر جو معراج کے لیے چلے جبکہ ان کی نبوت کا ستارہ ان کی شریعت کی شاہراہ پر تھا

وَبَدْرٍ اشْرَاقَهُ عَلَىٰ مَتْنِ بُرَاقِهِ وَكَوْكَبٍ سَعُودِهِ عَلَىٰ مِعْرَاجِ

ان کے نور و ضیاء کا بدر کامل براق کی پشت پر تھا اور ان کی سعادت مندی کا ستارہ بلندی کے



صُعُودِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

معراج پر تھا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَسَرَّاجُهُ الْوَهَّاجُ عَلَى دَرَجَاتِ الْمِعْرَاجِ

پر جو معراج کے لیے چلے جبکہ ان کا روشن سپرارج معراج کے بلند درجات پر تھا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

صَاحِبِ الْعُرُوجِ وَالْمِعْرَاجِ الْجَسَدِيِّ الْيَقْظِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو محبوب کہ بلندیوں پر فائز اور جسمانی اور حالت بیداری کے معراج والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقُرْبَةِ مِنْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ معراج سے بھی زیادہ قربت

الْمِعْرَاجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى بِتَاجِ بَهَائِهِ عَلَى عَرْشِ الْجَلَالِ وَ أَرْجَاءِ

آل پر کہ جنہوں نے معراج کیا اپنے حسن و بہار کا تاج پہنے عرش جلال پر اور اس کے کناروں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَرَى مَرْكَبُ مُنَاجَاتِهِ عَلَى مَرَاقِي الْعِزِّ وَ غَايَاتِهِ اللَّهُمَّ

کہ چلا شب اسراء ان کی مناجات و ہمکلامی کا مرکب عزت کے بلند مقامات اور اس کی غایات پر اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

سَرَى قَمَرُ سَمَائِهِ عَلَى رَفْرِفِ الْعُلَى وَبِهَائِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

چلا شب اسراء ان کی رفعت کا ماہتاب بلندی اور حسن و خوبی کے زلف پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْبَرَقُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے سیر فرمایا جبکہ براق

يَحْبِلُهُ وَالْمَلِئِكَةُ تَبْرِءُكَ وَتُبَجِّلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

انہیں اٹھائے ہوئے تھا اور ملائکہ کی براءت و طہارت بیان کرتے تھے اور تعظیم کرتے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى جِبَالِ مَجْيَاةَ إِلَى

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ معراج فرمایا جن کے جمیل پہرہ نے

بَسَاطِ حَضْرَةِ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

بارگاہ مولیٰ کی بساط تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْأَكْوَانُ تَحْرُسُهُ وَرُؤْسَاءُ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمایا جبکہ بھی جہاں آپ کی حفاظت کر رہے تھے

الرُّوحَانِيِّينَ تَكْنِفُهُ وَتَوْنِسُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور روحانیوں کے روساء آپ کے گرد گھیرا ڈالے تھے اور انس و جنات کے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَلِوَاءِ الْفَخْرِ عَلَى

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے معراج فرمایا محل قرب اور انس تک جبکہ فخر کا پرچم

رَأْسِهِ إِلَى مَحَلِّ قُرْبِهِ وَأَنْسِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ کے سرناز پر لہراتا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَطَرَا زُ النُّوْرِ عَلَى

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے معراج فرمایا جبکہ نور کا سہرا ان کی

جَبِينِهِ وَجَبْرِيلُ أَخَذَ بِيَمِينِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جبین اقدس پر سجا تھا اور جبریل امین ان کا دایاں ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَتَاجِ الْجِبَالِ عَلَى

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو معراج پر چلے تو تاج جمال ان کے



فَرُقِهِ وَالذُّرِّيَّتِ سَاقِطٍ مِنْ مَنَاطِقِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

سرتاز پر سجا تھا اور موتی جھڑتے تھے ان کے برتنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَكَتَابُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو معراج پر چلے جبکہ نصرت کے

النَّصْرِ تَحْفُ بِمَسْرَاهُ وَالْمَلِيكَةُ تَتَشَوَّقُ لِلْقِيَاةِ وَمَرَاةَ اللَّهُمَّ

شکران کے مقام سیر کو اپنے گھرے میں لئے ہوئے تھے اور ملائکہ ان کی ملاقات اور ویدار کے بہت شائق تھے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو معراج

سَرَىٰ وَرَوَتْ الرِّسَالَةَ فِي وَجْهِهِ لِأَنَّ اللَّهَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

پر چلے تو رسالت کی روئی و بہار ان کے چہرہ اور سے نمایاں تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَخَاتَمَ النَّبُوَّةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب معراج پر چلے تو مہر نبوت

بَيِّنٌ كَتَفِيهِ وَاضِحٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ان کے کندھوں کے درمیان چمکتی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَالْأَنْبِيَاءُ فِي السَّمَاءِ تُسَاسِرُهُ وَ

آپ کی آل پر کہ وہ محبوب معراج پر چلے تو انبیاء علیہم السلام آسمانوں میں ان کے ساتھ چلتے تھے

الْمَلِيكَةُ جُنُودُهُ وَعَسَاكِرُهُ اللَّهُمَّ رَبِّ الْجَلِّ وَالْحَرَمِ وَمَا بَ

اور ان کے لشکر و سپاہی تھے۔ اے اللہ۔ اے رب جلت و حرم اور رب

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَمَا بَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبِّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

مشعر حرام کے۔ رب بیت حرام کے۔ رب حجر اسود اور رب مقام ابراہیم کے

أَبْلِغْ لِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنَّا السَّلَامَ اللَّهُمَّ أَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ

پہنچا سیدنا و مولانا محمد کو ہماری طرف سے سلام۔ اے اللہ انہیں عطا فرما مقام وسیلہ



وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثَهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي

و فضیلت اور بلند ترین درجہ اور قائم فرما انہیں مقام محمود میں جس کا

وَعَدَّتَهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تو نے انہیں وعدہ دیا ہے اور ہمیں نصیب فرما ان کی شفاعت قیامت کے دن۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَقْصُودِ الْمَحْبُوبِ فِي الْكُلِّ وَمِنَ الْكُلِّ

سیدنا محمد پر جو مقصود و محبوب ہے کل کائنات میں اور سب سے

فِي الْعَالَمِ الْإِنْسَانِيِّ الْكَمَالِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

محبوب ترین عالم انسانی کے کمالات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ أَبَدًا أَبَدِينَ وَأَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ

محمد پر ہمیشہ ہمیشہ اور اُتارنا انہیں اپنی قریب ترین منزل میں

الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ يَا حَلِيمٌ ذَا الْأَنَاةِ فَلَا يُعَادِلُكَ شَيْءٌ مِّنْ خَلْقِهِ

قیامت کے دن۔ اے اللہ۔ اے حلیم۔ اے بردبار جس کے برابر کوئی شے نہیں اس کی مخلوق سے

أَحْلَمُ عَنِّي كُلَّ خَطَرَاتِ نَفْسَانِيَّةٍ حَيَوَانِيَّةٍ شَيْطَانِيَّةٍ وَكُلِّ

بردباری سے کام لے میری طرف سے تمام خطرات نفسانیہ، حیوانیہ، شیطانیہ میں اور تمام

وَسَاوِسٍ وَهُوَ أَجْسٌ وَنِيَّاتٍ سَيِّئَةٍ رَدِيَّةٍ وَأَعْمَالٍ لَّيْسَتْ

وسوس اور خیالات اور بری اور ردی نیاات اور ناپسندیدہ اعمال

بِمَرْضِيَّةٍ وَأَخْلَاقٍ سَبْعِيَّةٍ نَفْسِيَّةٍ شَيْطَانِيَّةٍ فَإِنَّكَ فِي جَمِيعِ

اور زندگی والے اخلاق نفسانیہ شیطانیہ میں کیونکہ تو تمام

الْأَنَابِ مَتَحَمِّلٌ وَالْعُجْلَةَ شَانَ الْعَاجِزِ فَارْزُقْنِي التَّوْبَةَ

نجات میں متحمل سے کام لیتا ہے۔ اور جلد بازی (مؤاخذہ میں) عاجز کا کام ہے پس مجھے نصیب

النَّصُوحَ وَاجْعَلْنِي مُسْتَقِيمًا عَلَى ذَلِكَ وَبَدَلْ خَطَرَاتِي

فرما خالص توبہ اور مجھے اس پر قائم و دائم رکھ اور میرے خطرات اور ناسد خیالات کو



بِأَلْهَامَاتٍ كَمَا تَبَدَّلُ الْحَجَرَ بِالذَّهَبِ وَبَدَّلِ الْأَخْلَاقَ السَّبْعِيَّةَ

الہامات میں بدل دے جیسے کہ پتھر کو سونے سے تبدیل کیا جاتا ہے اور تبدیل فرما میرے دوزخوں والے اخلاق کو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَبِيبِهِ وَبِحُرْمَتِهِ صَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ

اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما اپنے حبیب پر اور ان کے عزیز و جاہ کے طفیل رحمت کاملہ نازل فرما آپ کے برادران منصبی

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ

یعنی انبیاء پر (اور ان کے ساتھ) صدیقین و شہداء اور صالحین پر - اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْطِهِ

رحمت نازل فرما محمد کریم پر اور آپ کی آل طیبین پر اور عطا فرما انہیں

الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثْهُ الْمَقَامَ

مقام وسیلہ و فضیلت اور بلند ترین درجہ اور ان کو قائم فرما مقام

الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدْتَهُ مَعَ إِخْوَانِهِ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ وَ

محمود پر جس کا تو نے انہیں وعدہ دیا ہے (رحمت نازل ہو ان پر) مع ان کے برادران منصبی رسل کرام پر - اے اللہ اور

أَعْطِ مُحَمَّدَ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدْتَهُ الَّذِي إِذَا قَالَ

عطا فرما محمد کریم کو وہ مقام جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے وہ محبوب کہ جب بات کریں

صَدَّقْتَهُ وَإِذَا سَأَلَ أُعْطِيَتْهُ اللَّهُمَّ وَعِظْمُ شَانِهِ وَبَيِّنْ

تو تو ان کی تصدیق فرماتا ہے اور جب طلب کریں تو عطا کرتا ہے - اے اللہ اور عظیم بنا ان کی شان کو اور واضح فرما

بُرْهَانَهُ وَشَرَفَ بَيِّنَاتِهِ وَأَبْدِ حُجَّتَهُ وَبَيِّنْ فَضِيلَتَهُ

ان کی دلیل و برہان کو اور شرف و فضیلت سے ان کی بنیاد کو اور روشن فرما ان کی حجت کو اور نمایاں فرما ان کی فضیلت کو

اللَّهُمَّ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ

اے اللہ اور قبول فرما امت کے حق میں ان کی شفاعت کو - اے اللہ اور عطا فرما انہیں مقام وسیلہ

وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّفَاعَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثْهُ مَقَامًا

و فضیلت اور شفاعت عظمیٰ اور درجہ رفیعہ اور پہنچا انہیں مقام





مُحَمَّدَ الَّذِي وَعَدْتَنِي إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْبَيْعَادَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ

محمود تک جس کا ترے ان سے وعدہ فرمایا ہے بیشک تو وعدہ کا خلاف نہیں فرماتا۔ اے اللہ لے میرے

يَلْغُهُ عَنَّا أَفْضَلَ السَّلَامِ وَأَجْزَهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ بِهِ

رب پہنچا آپ تک ہماری طرف سے افضل ترین سلام اور جزا دے آپ کو ہماری طرف سے افضل ترین جزا

الَّتِي عَنْ أُمَّتِهِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ان تمام سے جو کسی بھی نبی کو ان کی امت کی طرف سے عطا کی ہے اے رب العالمین۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَلَوَامِعُ أَنْوَارِ تَشْرِيقِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے معراج فرمایا اور ان کے چمکتے انوار صوفیوں کے

وَلَوَاءَ عِزَّةٌ بِالْأَفْقِ يَخْفِقُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ان کی عزت و جاہ کا پرچم افق پر لہراتا تھا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَرَوَّاحِلُ الشُّوقِ بِهِ تَهْتَرُ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب معراج کے لیے چلے جبکہ شوق و محبت کی سواریاں ان کی وجہ سے

وَالْخَلَائِقُ بِجَاهِهِ تَعْتَرُّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جھومتی تھیں اور مخلوقات ان کی عزت و جاہ کے ذریعے عزیزیں باقی تھیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ أَسْكَ عَنَانَ الْمَجْدِ

اور آپ کی آل امجاد پر جو محبوب سیر کے لیے چلے جبکہ آپ نے بزرگی کی باگ تھامی ہوئی تھی اور

وَقَادَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَ

اس کی قیادت فرمائی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جو معراج پر چلے درآئیں

قَدْ نَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ تَابِجَ السِّيَادَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مضبوطی سے سجایا گیا تھا سیادت کا تاج ان کے سر ناز پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ سَاقَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو شب اسراء چلے درآئیں چلا رہے تھے



جَمِيعَ الْمَكْرَمَاتِ اِمَامَةً وَمَلَائِكَةَ السَّمَوَاتِ خَلْفَهُ وَقَدْ اَمَهُ

تمام بزرگیوں کو اپنے آگے اور آسمانوں کے فرشتے (بطور خدام) آپ کے پیچھے اور آگے تھے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَرَى وَقَدْ بَالِغَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي تَعْظِيْمِهِ وَاكْرَامِهِ وَقَدْ

جو معراج پر تشریف لے گئے اور ملائکہ نے حد سے زیادہ آپ کی تعظیم و تکریم کی۔ اور تحقیق

اِحْرَمَتْ اَهْلَ السَّمَوَاتِ لِاحْرَامِهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

احرام باندھا تمام آسمانوں پر بسنے والوں نے ان کے احرام باندھنے کے وقت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ حَانَ قَصَبُ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے شب اسراء میں جمع کر لیا مسابقت کے

السَّبْقِ وَسَادَ جَمِيعِ الْخَلْقِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تمام نشانات کو اور سردار بن گئے تمام مخلوق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ مَلَأَتْ سُرَّةَ الْمَلَاِ الْاَعْلٰی

اور آپ کی آل پر جس محبوب نے معراج فرمایا در آغا بیک معمور کر دیا تھا ان کے نور نے ملا اعلیٰ کو

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَرَى وَقَدْ سَبَقَ اَهْلَ الْفَضْلِ وَالتَّقْدِيْمِ اِلَى كَحْلِ الْفَخْرِ

جو محبوب مکرم معراج پر گئے اور سبقت لے گئے تمام اہل فضل اور متقدّمین سے مقام فخر

وَالْتَعْظِيْمِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

و تعظیم کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ اَنْتَشَرَتْ اَعْلَامُهُ فَوْقَ السَّمَوَاتِ

آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمایا اور پھیل چکے تھے ان کے پرچم آسمانوں پر



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے

سَرَى وَافْتَخَرَتْ بِهِ الْكَائِنَاتُ مِنَ الْعُلُوبِيَّاتِ وَالسُّفَلِيَّاتِ اللَّهُمَّ

معراج فرمایا اور فخر کیا ان کے ساتھ تمام کائنات بلندی و پستی والی نے۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب

سَرَى وَقَدِ ارْتَدَى بِرِدِّ آءِ الْبَحْبَةِ وَالْخُلَّةِ وَتَحَلَّى بِأَحْسَنِ

معراج پر گئے جبکہ آپ نے محبت و خلعت کی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور خوبترین حلہ و پوشاک

الْحُلَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زیب تن کئے ہوئے تھے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ أَشْرَقَ نُورُهُ الدِّيَابِجِي وَاهْتَدَى إِلَيْهِ

کہ جس محبوب نے معراج فرمایا جبکہ ان کے نور نے روشن کر دیا اندھیروں کو اور ہدایت پائی طرت ان کی

كُلِّ فَرِيقٍ نَّاجِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ہر بھگت پانے والے فرقے نے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ بَرَقَ بَرَقُ الرِّضَا مِنْ

کی آل پر کہ جو آقا معراج پر گئے در آنجا بیکہ چمک رہی تھی رضا الہی کی جمل ان کی

جَبِينِهِ وَاقْتَدَى أَهْلُ الْكَمَالِ بِدِينِهِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

جبین اقدس سے اور اقتداء کی اہل کمال نے ان کے دین کی۔ وہی اللہ ہے کہ نہیں معبود

إِلَّا هُوَ الْجَمِيلُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّطِيفُ الْحَلِيمُ الرَّؤُوفُ الْعَفُوفُ

برحق مگر وہی جو صاحب جمال ہے اور غایت رحمت والا مہربان۔ صاحب لطف و حلم، رؤف اور درگزر فرمانے والا ہے

الْمُؤْمِنُ النَّصِيرُ الْمَجِيبُ الْمُبْغِثُ الْقَرِيبُ السَّرِيعُ ذُو الْإِكْرَامِ

امن و ایمان دینے والا۔ نصیر۔ قبول فرمانے والا (دعاؤں کا) فریادرس۔ قریب۔ سرعت کے ساتھ حساب لینے والا صاحب



ذُو الطُّولِ رَبِّ اسْتَبِي مِنْ جَمَالِ بَدَائِعِ الْأَنْوَارِ الْجَمَالِيَّةِ مَا

اکرام قدرت کا مالک۔ اے میرے پروردگار مجھے پہنا انوارِ جمالیہ کے انوکھے جمال کی خلعت جو

يُدْهِشُ أَلْبَابَ الذَّرَّاتِ الْكُونِيَّةِ فَتَتَوَجَّهُ إِلَى حَقَائِقِ

مدہوش کر دے ذراتِ کونیہ کے عقول کو پس وہ متوجہ ہوں مخلوقات کے

الْمُكُونَاتِ تَوَجَّهَ الْمَحَبَّةِ الذَّائِبَةِ الْجَاذِبَةِ إِلَى شُهُودِ

حقائق کی طرف مثل محبتِ ذاتیہ کی توجہ کے جو کھینچنے والی ہے طرفِ جمال

مُطْلَقِ الْجَمَالِ الَّذِي لَا يُضَارُّهُ قُبْحٌ وَلَا يَقْطَعُ عَنْهُ إِيلَامٌ

مطلق کے مشابہہ کے جس کو ہمز نہیں دیتا قبح دیکھو نہ وہ اس کے گرد دامن کو بھی نہیں چھو سکتا اور نہ منقطع کرتی ہے اس سے ایذا رسانی

وَأَجْعَلَنِي مَرْحُومًا مِنْ كُلِّ رَحِمٍ بِحُكْمِ الْعُطْفِ الْحَبِيبِ الَّذِي

اور بنا دے مجھے رحم کیا ہوا ہر رشتہ دار کی طرف سے تقاضائے عنایتِ محبانہ کے جس میں

لَا يَشُوبُهُ انْتِقَامٌ وَلَا يَنْغَصُهُ غَضَبٌ وَلَا يَقْطَعُ مَدَدَهُ سَبَبٌ وَ

انتقام کی آمیزش نہ ہو اور نہ گدلا کرے اس کو غم و غصہ اور نہ قطع کرے اس کی مدد کو کوئی سبب اور

تَوَلَّ ذَلِكَ بِحُكْمِ اِبْدِيَّةِ وَارِثِيَّتِكَ إِلَى غَيْرِ نِهَائِيَّةٍ لَا تَنْقَطِعُ

متولی ہو تو آپ اس امر کا مطابق تقاضے اپنی ابدی وارثیت کے بغیر کسی انتہاء کے جس پر منقطع نہ ہو

غَايَتُهُ يَا رَحِيمٌ هُوَ الرَّحِيمُ رَبَّاهُ رَبَّاهُ غَوْثَاهُ يَا خَفِيًّا لَا يَطْهَرُ

غایت اس کی۔ اے رحیم وہی رحیم ہے۔ اے رب۔ اے رب۔ اے فریاد رس۔ اے جو مخفی ہے کسی پر ظاہر نہیں (حقیقت اپنی)

يَا ظَاهِرًا لَا يَخْفَى لُطْفَتُ اسْرَارِ وَجُودِكَ الْأَعْلَى فَتُرَى فِي كُلِّ

اے ظاہر کہ نہیں مخفی آثار قدرت اس کے۔ لطیف ہیں تیرے وجودِ عالیشان کے اسرار پس دیکھے جاتے ہیں ہر

مَوْجُودٍ وَعَلَتْ أَنْوَارُ ظُهُورِكَ الْأَقْدَسِ فَبَدَتْ فِي كُلِّ

موجود میں اور بلند و بالا ہوئے تیرے ظہورِ اقدس کے انوار پس نمایاں ہوئے ہر

مَشْهُودٍ وَأَنْتَ الْحَلِيمُ الْمَنَّانُ بِالرَّافَةِ وَالْعَفْوِ السَّرِيعِ

مشہود و محسوس شئی میں اور تو ہی حلیم ہے اجمان فرمانے والا ہے ساتھ رافت اور درگزر کے۔ جلد

بِالْمَغْفِرَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ الْخَائِفِينَ نَصِيرِ الْمُسْتَعِيثِينَ الْقَرِيبِ

مغفرت فرمائے والا ہے مومنین خائفین کے لیے مددگار ہے فریادیں کا۔ قریب ہے

بِمُجْهَاتِ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ عَنْ عِيُونِ الْعَارِفِينَ يَا كَرِيمُ يَا

بسیب مٹا دینے قرب اور بعد کی جہات کو عارفین کی آنکھوں سے۔ اے کریم۔ اے

كَرِيمُ يَا ذَا الطُّوْلِ وَالْاِكْرَامِ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ۝ وَ

کریم۔ اے مالک قوت اور اکرام کے سلام ہے کہا ہوا رب رحیم کی طرف سے۔ اور

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا

سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اے اللہ مالک ساتوں آسمانوں کے اور جو کچھ

أَظَلَّتْ وَرَبِّ الْأَرْضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ وَرَبِّ الشَّيَاطِينِ وَمَا

ان کے سایہ میں ہے اور مالک تمام زمینوں کے اور جو کچھ وہ اٹھائے ہوئے ہیں اور مالک شیاطین کے اور جنہیں

أَضَلَّتْ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ ۝ أَنْ يَفْرُطَ

انہوں نے گمراہ کیا ہو مجھے پناہ دینے والا اپنی تمام مخلوق کے شر سے کہ نتجاوز کرے

عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يُطْغَى عَزَّ جَارِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اللَّهُمَّ

مجھ پر ان میں سے کوئی یا سرکشی کرے۔ عزت والا ہوا تیری پناہ لینے والا اور بابرکت ہے نام تیرا۔ اے اللہ

رَبَّنَا وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ ۝ أَنْ شَاهِدًا أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا

رب ہمارے اور رب ہر شئی کے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی رب ہے اکیلا نہیں

شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

کوئی شریک تیرے لیے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے عبد خاص اور

رَسُولُكَ وَأَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ وَأَجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَ

رسول برحق ہیں اور سبھی بندے باہم اخوت اسلامی میں منسلک ہیں اور بنا مجھے اور میرے اہل کو اپنا مخلص

أَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

ہر ساعت میں دنیا و آخرت میں اے مالک جلال و اکرام کے



إِسْمَعُ وَاسْتَجِبْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ

اس دعا کو سن اور شرف قبولیت بخش اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ روشن کرنے والا ہے آسمانوں

وَالْأَرْضِ اللَّهُ أَكْبَرُ إِلَّا كِبْرَ حُسْبَى اللَّهِ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ أَكْبَرُ

اور زمینوں کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا ہی ہے مجھے اللہ تعالیٰ اور اچھا کارساز ہے وہ اللہ اکبر

الْأَكْبَرُ وَنَسَأُكَ اللَّهُمَّ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ

اللہ اکبر اور سوال کرتے ہیں تجھ سے اے اللہ بظیفیل تیرے نور ذات کے جس نے بھر دیا ہے تیرے عرش کے ارکان

أَنْ تَزْرَعَ فِي قَلْبِي مَعْرِفَتَكَ حَتَّى أَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ كَمَا

واجزاء کو کہ بونے میرے دل میں اپنی معرفت (کابینج) یہاں تک کہ میں پہچان لوں تجھے جیسے کہ

يَنْبَغِي أَنْ تُعْرِفَ بِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

حق ہے پہچاننے کا جیسے کہ لائق ہے تجھے پہچانا جانے اس وجہ سے اور رحمت نازل فرمائے اللہ تعالیٰ محمد پر اور آپ کی

أَجْمَعِينَ ۝ اللَّهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ عَظِيمٍ لَا يَسْعُكَ مِمَّا خَلَقْتَ وَ

آل اور اصحاب سبھی پر۔ اے اللہ تو عظیم رب ہے نہیں گنناش رکھتا تیری مخلوق میں سے کوئی اور

أَنْتَ تَرَى وَلَا تُرَى وَأَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى وَإِنَّ لَكَ الْآخِرَةَ وَ

تو دیکھتا ہے اور دیکھا نہیں جاتا اور تو منظر اعلیٰ پر ہے کہ جہاں کسی کی رسائی نہیں اور تو ہی مالک ہے آخرت کا اور

الْأُولَىٰ وَلَكَ الْمَمَاتُ وَالْمَحْيَا وَإِلَيْكَ الْمُنْتَهَىٰ وَالرُّجْعَىٰ نَعُوذُ

دنیا کا۔ اور تیرے ہی ملک میں ہے ممات اور حیات۔ اور تجھ تک ہی ہر شئی کی انتہاء اور بازگشت ہے۔ ہم تیری پناہ

بِكَ أَنْ تَنْزِلَ وَنَحْزِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

طلب کرتے ہیں اس سے کہ ذلیل اور رسوا ہوں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَقَدْ بَاهَىٰ بِنُورِهِ جَمِيعَ

آپ کی آل پر کہ جنہوں نے معراج فرمایا تو فخر و مباہات کا اظہار کیا بسبب ان کے نور کے تمام

الْأَنْوَارِ وَدَأَنْتَ لِبَهْجَتِهِ الشَّمْسُ وَالْأَقْمَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

انوار نے۔ اور قریب ہوئے اس کی رونق و بہار سے استفادہ کیلئے آفتاب اور ماہتاب۔ اے اللہ صلوات و



سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا معراج کے لیے چلے

وَقَدْ كَسَاهُ اللّٰهُ حُلَّةَ الْبَهَاءِ وَالْكَمَالِ وَقَدْ رَفَعَهُ اللّٰهُ عَلٰی

اس شان سے کہ پہنایا انہیں اللہ تعالیٰ نے عمدہ حسن و خوبی اور کمال کا اور رفعت بخشی انہیں اللہ تعالیٰ نے

الْاَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تمام انبیاء و مرسلین پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ هَبَّ نَسِيمٌ قُرْبَهُ وَ

آپ کی آل پر جو معراج کے لیے چلے اس شان سے کہ چل ان کے تقرب اور

اجْتِبَاءَهُ اِلَى مُقَرَّبِ عِزِّهِ وَاَصْطَفَايَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

انتخاب کی نسیم بہاران کی عزوجاہ اور اصطفاء کے مقام مقرب تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب شب امراء چلے اس شان سے

لَا حَتَّ لَوَامِعِ اَنْوَارِهِ بِوُضُوْحِ اَسْرَارِهِ وَاخْبَارِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

کہ ظاہر ہو گئے ان کے چمکتے انوار ساتھ ان کے اسرار و اخبار کی وضاحت و صراحت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب معراج کے لیے چلے

وَقَدْ ظَهَرَتْ فِيْ جَبِيْنِهِ اَشْعَةُ النُّوْرِ الْمَكْنُوْنِ وَجَلَّ اِنْفِ حُسْنِ

در آنجا لیکہ ظاہر ہو چکی تھیں ان کی جبین اقدس میں نور مکنون کی شعلیں اور نکھر چلے تھے

جَمَالِهِ الْمَصُوْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

اپنے مخفی جمال کے حسن و کمال میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ خُلِعَتْ عَلَيْهِ مَلَابِسُ الْجَلَالَةِ

کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے اس شان سے کہ انہیں پہنائی گئی تھیں خلعتیں علبائے جلالت کی



وَفَاقَ أَهْلَ النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور فریقت لے گئے تھے انبیاء پر اور اہل رسالت پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدِ اتَّحَفَتِ الدُّنْيَا

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا معراج کے لیے چلے تو اوڑھا دُنیا نے

بِثَوْبِ الضِّيَاءِ وَتَاهَتْ بِكُلِّ مَرْتَبَةٍ عَلِيًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

نور ضیاء کا لباس اور فخر و انبساط حاصل کیا ساتھ ہر رتبہ عالیہ کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدِ اكْتَسَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو آقا معراج کے لیے چلے جبکہ رات نے

اللَّيْلُ بِنُورِهِ حُسْنًا وَازْدَادَ بِهِ سُرُورًا وَيُنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ان کے نور کی بدولت اوڑھا لباس حسن کا اور بڑھ گئی بطفیل اس کے از روئے سرور اور برکت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَعَمَّ

فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے جبکہ ان کا

نُورُهُ الْفَضَا وَالرَّيُّ يَدْحُظُهُ بِعَيْنِ الرِّضَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نورِ فضا کو محیط ہو چکا اور ان کا پروردگار انہیں دیکھتا تھا رضا و پسندیدگی کی نگاہ سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب معراج پر چلے اس شان سے کہ

أَرْضَاهُ اللَّهُ وَأُصْطَفَاهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

انہیں راضی کر دیا ان کے اللہ نے اور منتخب فرما لیا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُرْسَلِ إِلَى كَافَّةِ الْخَلْقِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو بھیجا گیا تمام مخلوق کی طرف واسطے

رَحْمَةٍ وَنِعْمَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

رحمت اور انعام کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی





اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى

آل پر جو مراد و مقصود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے "البتہ احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے

الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ

اہل ایمان پر جبکہ مبعوث فرمایا ان میں عظیم رسول انہیں میں سے جو تلاوت کرتے ہیں ان پر

آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اللہ کی آیات اور پاک کرتے ہیں انہیں اور تعلیم دیتے ہیں انہیں کتاب و حکمت کی۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب شب اسراء چلے

وَالْمِعْرَاجِ يَرْتَجِبُ بِهِ اِرْتِجَاجًا وَالْبِرَاقِ يَبْتَهِجُ بِهِ اِبْتِهَاجًا

تذروانی سیڑھی جھومتی تھی ساتھ ان کے اور براق ناز کرتا تھا ان کی بدولت بہجت و سرور سے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَرَى وَطَوَّلَ السَّعِدِ تَحْفًا بِالْمَسْرِي وَطَلَّاعَ الْعِزِّ

جو معراج کے لیے چلے اس شان سے کہ نیک بختی کے ستارے گھیرا ڈالے ہوئے تھے مقام اسراء کے گرد۔ اور عز و جاہ کے

تَسْتَبِقُ بِالْبِشْرَى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مقدّمہ ہمیشہ دوڑ رہے تھے آگے آگے بشارت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَفُرُشِ الْجَلَالِ ثُمَّ قَدَّ اِقْدَامَهُ

آپ کی آل پر کہ جو محبوب معراج کے لیے چلے اور بزرگی و حرمت کے بچھرنے بچھائے جا رہے تھے ان کے

وَنَمَارِقِ الْكِبَالِ تَبْسُطًا لِقَدَامِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

قدموں میں اور کمال کے گدے بچھاتے جا رہے تھے ان کی تشریف آوری کی خاطر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَاَهْلُ الْقُصُورِ اِلَيْهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب معراج پر چلے درآئیا لیکہ قصور جنت کے باسی ان کا



يَتَشَوَّقُ وَيَتَشَرَّفُ وَعُرْفَاتُ التَّعِيمِ لَهُ تَزْيِينٌ وَتُزْحَرَفُ اللَّهُمَّ

مثنوی دیدار رکھتے اور ان سے شرف اندوز ہوتے تھے اور جناتِ نعیم کے بالائے ان کے لیے مزین اور آراستہ کئے جاتے تھے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب

سَرِي وَسَائِرُ الْأَنْعَامِ تَهَيَّأَ لِمُتَكَاةٍ وَنَزَارَ ابْنُ الْجَلَالِ تَطْرَحُ لِمُشَاهَدَةِ

معراج کے لیے چلے در آنجا لیکر تمام آسمانیں تیار کی جا رہی تھیں ان کی نگاہ کے لیے اور جلالت و بزرگی کے قابلین بچھائے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جا رہے تھے ان گزرگاہ میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَرِي وَمَرَاتِبُ التَّخْصِيصِ لَهُ مَبْثُوثَةٌ وَمَرَاكِبُ

کہ جو محبوب معراج کے لیے چلے در آنجا لیکر اختصاص کے مراتب ان کیلئے پھیلائے گئے تھے اور خلود و

الْخُلُودِ لَهُ مَحْثُوثَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دوام کی سواریاں ان کے لیے تیار کی ہوئی تھیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرِي وَنَجَائِبُ السُّعْدِ لَهُ تَسْرِيحٌ

اور آپ کی آل پر جو معراج پر تشریف لے چلے جبکہ سعادت کی سواریوں پر ان کے لیے زینیں رکھی جا رہی تھیں

وَمَطَايَا التَّائِيدِ لَهُ تَتَبَرَّجُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور تائید الہی کی سواریاں ان کے لیے باہر لائی جا رہی تھیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرِي وَكُنُوزُ الْجَنَانِ تُعْرَضُ

اور آپ کی آل پر جو معراج پر چلے اور جناتوں کے خزانے ان پر پیش کئے جا رہے تھے

عَلَيْهِ وَذَخَائِرُ الْغَيْبِ تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور غیب کے ذخائر ان کے سامنے رکھے جا رہے تھے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرِي وَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو معراج پر چلے جبکہ



الْعَنَايَةَ الرَّبَّانِيَّةَ تَكْنِفُهُ وَالْمَلَأَكَةَ تَحْفُهُ وَتَرْفُهُ اللَّهُمَّ

عنايت ربانیا نہیں اپنی آنکوش میں لیے ہوئے تھی اور ملائکہ ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے تھے اور انہیں درلما بنائے ہوئے تھے۔

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو معراج

سَرَى وَجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ تَهْنِئَةً وَالْمَلَأَكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَ تُقْبَلُهُ وَ

پر چلے جو کہ سبھی کائنات انہیں تهنیت اور مبارکباد کہہ رہی تھی اور ملائکہ و انبیاء ان کے بوسے بوسے رہے تھے اور

تُحْيِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہدیے پیش کر رہے تھے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ يَشْتَاقُ إِلَيْهِ وَالْعَرْشِ

کی آل پر جو معراج پر چلے اور تمام آسمانوں والے ان کے مشتاق تھے اور عرش

يَتَمَنَّى مَسِيرَةَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

آرزو رکھتا تھا ان کے پائے ناز اس پر لگنے کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْأَكْوَانُ تَشْرُقُ بِهِ نُورًا

آپ کی آل پر جو آقا معراج پر چلے اور تمام جہان جگمگا رہے تھے نور سے بسبب ان کے اور

وَالْأَفَاقُ تَبْتَهِجُ بِهِ سُورًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

آفاق خوشی منا رہے تھے بسبب ان کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى طَرِيقَ السَّمَوَاتِ تَهَيَّأُ

پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا معراج کے لیے چلے اور آسمان راستے تیار کئے جا رہے تھے

لِمَوَاطِنِهِ وَجُنُودُ اللَّهِ تَجُولُ حَوْلَ مَجَارِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

ان کے پائے ناز رکھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لشکر گردش کر رہے تھے ان کی گزرگاہ کے گرد۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو معراج پر چلے اور



أَهْلُ السَّمَوَاتِ يَسْلَمُونَ وَسُكَّانُ الْجَنَانِ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ

اہل سموات انہیں سلام نیاز پیش کرتے تھے اور جنات کے باسی ان کی زیارت کر رہے تھے اور

يُصَلُّونَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

دروہج رہے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَحَطَّابُ الْقُدْسِ لَهُ تَفْتَحُ وَ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا معراج کے لیے چلے اور محفوظ و مخصوص مقامات تقدیر ان کے لیے کھولے جا رہے

شِمَائِلُهُ بِالْأَفْقِ تُمَدِّحُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تھے اور ان کے شمال و اخلاق کی آفاق میں مدح سرائی کی جا رہی تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَوَلَدَانُ الْجَنَانِ تُلَاقِيهِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا معراج کے لیے چلے جبکہ جننتوں کے ولدان ان سے شرف ملاقات حاصل کر رہے تھے

فِي عُلُوِّ مَرَاقِبِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ

آپ کے بالائی درجات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَحُورُ الْقُصُورِ عَلَيْهِ تَجَلَّى وَنُورُهُ

آل پر جو شب اسراء چلے اور جننتی محلات کی حوریں ان پر نمایاں تھیں اور آپ کا نور

عَلَيْهِ يَتَلَاوَأُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ

آپ پر چمک رہا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ أَسْفَرَ صَبْحُ الْهُدَى عَنْ وَجْهِهِ

کی آل پر جو آقا معراج میں چلے درآخالیکہ روشن ہو گئی صبح ہدایت ان کے چہرہ

الْكَرِيمِ وَقَدْ خَلَعَتْ عَلَيْهِ مَلَائِسُ الْجَلَالِ وَالتَّعْظِيمِ اللَّهُمَّ

کریم سے اور ان کو زیب تن کرائے گئے لباس جلال و تعظیم کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب



سَرَى وَقَدْ اتَّحَفَهُ اللَّهُ بِتَحْفِيفِ الْكِرَامَةِ وَقَلَّدَهُ اللَّهُ قَلْبًا نَدَا الْأَمِنْ

معراج کے لیے چلے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کرامت کے تحفے عطا کئے اور ان کو ہار پہانے من

وَالسَّلَامَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

وسلامتی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَلِسَانُ السَّعَادَةِ يُلْهَجُّ بِذِكْرِهِ وَمَظَاهِرُ

آل پر جو معراج پر چلے اور زبان سعادت مندی شیفٹہ تھی ان کے ذکر کے ساتھ اور موجودات کے مظاہر

الْأَكْوَانِ تَنْطِقُ بِعَظِيمٍ قَدْ بَرَّاهُ وَفَخَّرَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ناطق تھے ان کی عظیم قدر و منزلت اور فخر و ناز کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ سَبَقَتْ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اجماد پر جو معراج کے لیے چلے اور تحقیق کھینچے گئے تھے

إِلَيْهِ مَوَائِدُ الْخُلُودِ وَانْتَشَرَتْ عَلَيْهِ طَوَائِعُ السُّعُودِ اللَّهُمَّ

طرف ان کے دسترخوان خلور و دوام کے اور پھیلے تھے ان پر سعادت مندی کے ستارے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا معراج پر چلے

وَقَدْ ظَلَمْتَهُ ظَلَامًا وَإِلَّا نِعَامٌ وَكَتَفْتَهُ مَنَابِحَ الْمَلِكِ الْعَلَامِ

تو سائبہ ٹھکن تھے ان پر انعام و اکرام کے گھنے سائے اور انہیں اپنے جلو میں لیے ہوئے تھے ملک علام کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

عطیات۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَرَى فِي عَالِمِ الشُّهُودِ مُؤَيَّدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو چلے شب اسراء عالم شہود میں اللہ تعالیٰ کہ توفیق پائے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے تشریف لے چلے اور



مَشَاهِدَةٌ تَشْرُقُ بِالنُّورِ وَالْهُدَى اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

آب کی تشریف آوری کے مقامات روشن تھے ساتھ نور و ہدایت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ بَعْلُو قَدْرَهُ وَكِبَالَهُ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے معراج فرمائی اپنے علو قدر اور کمال مرتبت کے ذریعے

إِلَىٰ قَصْدِهِ وَأَمَالِهِ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اپنے مقصد اور امیدوں تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ آيِنٍ تَقَرُّ الْعَيْنُ بِلَا حِدٍّ وَلَا

سیدنا محمد کی آل پر جو چلے شب معراج اس مقام تک جہاں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جس سیر کی نہ حد تھی اور نہ

آيِنٍ وَهُوَ عَيْنٌ عَيْنِ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

مکان اور وہی بے حقیقت ہر حقیقت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ حَيْثُ هَدَا اللَّهُ وَأَثَرَهُ

سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے سیر فرمائی جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی اور ان کو محقق فرمایا

بِالْقُرْبِ مِنْهُ وَارْتِضَاءَهُ اللَّهُ عَافِي فِي بَدَانِي وَفِي سَبْعِي وَ

اپنے قرب کے ساتھ اور پسند فرمایا انہیں۔ اے اللہ مجھے عافیت بخش بدن میں۔ کانوں میں اور

فِي بَصْرِي لِأَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ نَزَدَنِي عِلْمًا وَلَا تَزَعُ قَلْبِي

آنکھوں میں نہیں معبود برحق مگر تو ہی۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اور میرے دل کو ٹیڑھانہ کر

بَعْدًا إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ

بعد اس کے کرتے مجھے ہدایت بخشتی اور مجھے عطا فرما اپنے پاس سے رحمت بے شک تو ہی

الْوَهَّابُ يَا وَهَّابُ اللَّهُ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي

عطا کرنے والا ہے۔ اے عطا کرنے والے اے اللہ مجھے بخش اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے عافیت دے۔ ہدایت

وَارْزُقْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ

عطا فرما اور رزق نصیب فرما میری سسکتی دور فرما اور مجھے بندی عطا فرما۔ بیشک میں محتاج ہوں بسبب اس کے جو تو نے مجھ پر نازل



فَقِيرٌ رَبِّ اِهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ

کیا ہے خیر اور جلالی سے۔ اے میرے رب مجھے ہدایت عطا فرما مختلف چیزوں میں سے حق کی اپنی توفیق سے۔ بیشک تو ہی

تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِي فِيمَنْ

ہدایت دیتا ہے جسے چاہے صراطِ مستقیم کی۔ اے اللہ ہدایت دے مجھے ان میں

هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّيْنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ

جنہیں تو نے ہدایت دی۔ اور عافیت دے مجھے ان میں جنہیں تو نے عافیت دی۔ اور میرا متولی امور ہوں ان میں جن کا تو متولی بنا

وَبَارِكْ لِيْ فِيْهَا اَعْطَيْتَ وَقِيْتُ شَرًّا مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ

اور برکت دے میرے لیے ان اشیاء میں جو تو نے عطا کیں اور مجھے بچا اپنے شر سے جو تو نے عطا کیا تو ہی نافذ فرماتا ہے اپنی قضیٰ کو

وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْزُّ مَنْ عَادَيْتَ

اور تجھ پر کوئی نفاذ نہیں ہو سکتا۔ تحقیق نہیں ذلیل ہوتا جسے تو دوست بنائے۔ اور نہیں عزت پاتا جس سے تو عداوت رکھے

تَبَارَكَتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ اَعْطِنِيْ مِنَ الْعُمْرِ وَالْمَالِ وَالْعُلُوْمِ

بارکت ہے تو اے رب ہمارے اور بلند شان۔ عطا فرما مجھے عمر۔ مال اور علوم

وَسْتَغْفِرُكَ وَتَتُوبُ اِلَيْكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

اور ہم استغفار کرتے ہیں تجھ سے اور تیری طرف توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے بخش اور مومن مردوں

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْفُ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ

اور عورتوں کو اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو اور الفت دے باہم ان کے دلوں میں

وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَاَنْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوْكَ وَعَدُوْهُمْ اَللّٰهُمَّ

اور ان کے درمیانی معاملات درست فرما اور ان کی امداد فرما اپنے ہر دشمن پر اور ان کے دشمنوں پر۔ اے اللہ

اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظَلَمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

بیشک میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر بہت زیادہ اور نہیں بخشتا گناہوں کو مگر تو ہی

فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَاَرْحَمِنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ

پس میرے لیے مغفرت فرما اپنے پاس سے اور مجھ پر رحم فرما بیشک تو ہی غفور



الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

رحیم ہے۔ اے اللہ میری اعانت فرما اپنے ذکر اور شکر پر اور اچھی عبادت پر

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عَصِمَهُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ

اے اللہ درست فرما میرے لیے میرے دین کو جو میرے امور کی عصمت (کا موجب) ہے اور درست فرما

لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي الْآخِرَةَ الَّتِي فِيهَا

میرے لیے میری دنیا کو جس میں میری گزاران ہے اور درست فرما میرے لیے میری آخرت جس میں

مَعَادِي وَأَحْيِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ

میری بازگشت ہے اور مجھے زندہ رکھنا جب تک زندگانی میرے لیے بہتر ہو اور وفات دے دینا جب کہ

الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ

وفات میرے لیے بہتر ہو۔ اور بنا زندگانی کو میرے لیے ہر خیر میں زیادتی (کا موجب) اور بنا

الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ اللَّهُمَّ اشْبَعْتَ وَأَرَوَيْتَ فَهِنْنَنَا

موت کو میرے لیے سامان راحت ہر شر سے۔ اے اللہ تو نے ہمیں سیر کیا اور سیراب فرمایا پس ہمارے لیے

وَرَزَقْتَنَا فَاكْثُرَتْ وَأَطْبَتْ فِرْدُنَا اللَّهُمَّ قِنِّعْنِي بِمَارِزِقَتِي

خوشگوار فرما۔ اور تو نے رزق دیا تو بخترت دیا اور پاکیزہ دیا پس اسے زیادہ فرما۔ اے اللہ مجھے قانع بنا اس پر جو تو نے دیا

وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ مَا بَ اغْفِرْ

اور برکت دے میرے لیے اس میں اور خلیفہ بن میرے لیے ہر غیبت حاضری میں ساتھ خیر کے۔ اے میرے رب بخش

وَأَرْحَمُ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ رُوِيَ أَرْحَمُ

رحم فرما اور تو ہی عزیز تر کم ترین ہے اے سب ارباب کرم سے بڑے کریم اور اے سب سے بڑے

الرَّاحِمِينَ) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَحَاسِبَنِي حِسَابًا يَسِيرًا وَ

رحم فرما۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تو مجھ سے آسان حساب سے (اگر لینا ہی ہو) اور

أَنْ تُعْطِيَنِي كِتَابِي بِسَهْلِي وَأَنْ تُبَيِّضَ وَجْهِي وَأَنْ تُرَجِّحَ

عطا کرے میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں اور روشن کرے میرا چہرہ اور وزنی کر





مِيزَانِي بِفَضْلِكَ وَأَنْ تَحْشُرَنِي فِي زُمْرَةِ حَبِيبِكَ وَتَحْتِ

میرے پلڑے حسنات کو اپنے فضل سے اور میرا حشر فرمائے اپنے محبوب کی جماعتِ نوحاس میں اور ان کے

لِوَالِيهِ وَخَاصَّتِهِ وَأَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ مَعَ أَهْلِ

لواء الحمد کے نیچے اور نوحاس میں۔ اور داخل فرمائے جنت میں آپ کی شفاعت سے ان کے اہل

مَحَبَّتِهِ وَأَوْلِيَاءِهِ وَأَخْصَاءِهِ بِرِضَاكَ وَرِضَاةِ اللَّهِ أُمِّي

محبت اور اولیاء اور نوحاس کے ساتھ بسبب تیری رضا اور تیرے حبیب کی رضا کے۔ اے اللہ زندہ رکھ مجھے

فِي دَوْلَةٍ مَوْصُولَةٍ بِطَاعَتِكَ وَأَمْتِنِي إِذَا تَوَفَّيْتَنِي عَلَى تَوْبَةٍ

اس دولت میں جو تیری طاعت سے متصل ہو۔ اور وفات دے مجھے جب بھی وفات دے مقبول توبہ

مَقْبُولَةٍ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ مُؤَدِّيَةً إِلَى جَنَّتِكَ وَنِعْمَتِكَ

پر۔ ساتھ اپنے فضل و رحمت کے جو پہنچانے والی ہو طرف تیری جنت اور نعمت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي سَرَى وَمَحَافِلُهُ تَزْدَانُ إِلَى سَمْعِ التَّدَاةِ وَالْأَذَانِ اللَّهُمَّ

جو محبوب چلے شب معراج اور ان کی محفلیں آراستہ کی جا رہی تھیں نداء و آذان سننے کے لیے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْزَلِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب پر نازل کیا

عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

گیا (فریضہ) رمضان کے مہینہ کا جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اے اللہ صلوات و نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ بَسَطَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب چلے شب اسراء تو ہبیلار کھاتھا

الَّيْلُ جَنَاحَهُ وَرَجَعَهُ وَمَا أَهْدَى الْفَجْرُ مُصْبِحًا اللَّهُمَّ صَلِّ

رات نے اپنا دامن ظلمت اور لوٹے تو ابھی نہیں ہدیہ دیا تھا فجر نے اپنے چراغ کا اہل دنیا کو اے اللہ صلوات و سلام



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب اسراء میں چلے

وَقَدْ رَفَلَ اللَّيْلُ فِي جَلْبَابِهِ وَرَجَعَهُ وَمَا اسْفَرَ الْفَجْرُ عَنْ

جبکہ رات ناز سے ٹل رہی تھی اپنی وسیع چادر میں اور واپس ہوئے در آنحالیکہ نہیں ہٹایا تھا فجر نے

تَقَابِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

اپنے رخ کا نقاب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ اَرْنَحِي اللَّيْلُ اسْتَارَةً وَرَجَعَهُ وَمَا اُوْرِي

جو شب اسراء روانہ ہوئے جبکہ رات نے اپنے پردے لٹکانے ہوئے تھے اور واپس آئے جبکہ نہیں روشن

الْفَجْرُ اَنْوَارُهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

کئے تھے فجر نے اپنے انوار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَمَا نَفَضَ طَائِرٌ اُرْيَا شَهُ وَرَجَعَهُ

آل پر جو محبوب روانہ ہوئے شب اسراء جبکہ نہیں ٹوڑا تھا کسی پرندے نے اپنے بالوں کو ادھر پھرانے سے

وَمَا هَجَرْنَا نَائِمٌ فَرَا شَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور واپس آئے جبکہ نہیں چھوڑا تھا کسی سونے والے نے اپنا بستر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ زَفَّ اللَّيْلُ عَرَائِسَهُ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب معراج پر چلے جبکہ آغوش میں لیے ہوئے تھی رات اپنی دلہنوں کو

وَرَجَعَهُ وَمَا نَشَرَ الْفَجْرُ طَيَالِسَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اور واپس آئے اور نہیں بھیلانے تھے فجر نے کلاہانے نور۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَمَا طَرَقَ جَفْنَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب روانہ ہوئے شب اسراء اور نہیں وارد ہوا تھا رات کے

اللَّيْلِ طَارِقٌ وَرَجَعَهُ وَمَا اَوْمَضَ لِلْفَجْرِ بَارِقٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

بڑے پیار پر مہمان شب اور واپس آئے جبکہ بھی نہیں روشن ہوا تھا فجر کا روشنی دینے والا۔ اے اللہ صلوٰۃ



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ

و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب معراج پر چلے

وَقَدْ أَسْدَلَ اللَّيْلُ أَطْنَابَهُ وَرَجَعَ وَمَا فَتَحَ الْفَجْرُ بَابَهُ

جبکہ رات نے لٹکا رکھی تھیں اپنے (سیاہ چیمبر کی) اطنابیں اور واپس آگئے جبکہ ابھی نہیں کھولا تھا فجر نے اپنا دروازہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور سیتنا محمد کی آل پر

الَّذِي سَرَىٰ وَقَدْ وَسَقَ اللَّيْلُ سَوَادَهُ وَرَجَعَ وَمَا قَدَحَ الْفَجْرُ

جو محبوب معراج کے لیے چلے جبکہ رات نے ڈھیر کر رکھی تھی اپنی سیاہی اور لوٹے جبکہ نہیں روشن کیا تھا فجر نے

زِنَادَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اپنا چتقاق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَكَوَّكِبُ اللَّيْلِ تَلُوحٌ وَرَجَعَ وَمَا بَدَأَ

پر کہ جو محبوب معراج کے لیے چلے جبکہ ابھی کو اکب شب نمایاں دروٹن تھے اور لوٹے جبکہ ابھی سپیدہ فجر

لِلْفَجْرِ وَضُورُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

نودار نہیں ہوا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَمَا هَجَعَتْ نَائِمٌ هَجَعَةٌ وَرَجَعَ

کی آل پر کہ جو معراج کے لیے چلے جبکہ نہیں سوئے تھے سونے والے کوئی خاص

وَمَا لَمَعَ لِجَانِبِ الْفَجْرِ لَمْعَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

مفدار۔ اور لوٹے جبکہ ابھی نہیں روشن ہوا تھا افق فجر پر لمعہ نور۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَمَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ

محمد پر اور سیتنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے چلے اور ابھی

حُرَّاسُهُ وَرَجَعَ وَمَا أَبْيَضَ مِنَ الْفَجْرِ قَرَطَاسُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

نہیں گئے تھے رات سے اس کے پہرے دار اور لوٹے جبکہ نہیں سفید ہوا تھا ابھی فجر کا قرطاس (کاغذ) اے اللہ صلوٰۃ و



سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَقَدْ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب معراج کے لیے چلے  
حَطَّ اللَّيْلُ رَوَاقَهُ وَرَجَعَ وَمَا حَلَّ الْفَجْرُ وَثَاقَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

جبکہ ابھی گرایا ہوا تھا رات نے اپنا پردہ اور لوٹے جبکہ ابھی نہیں کھولی تھی فجر نے اپنی قید اور بندش۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب معراج پر چلے  
وَمَا قَامَ بِاللَّيْلِ رَاهِبٌ وَرَجَعَ وَمَا بَدَأَ الْفَجْرُ حَاجِبٌ اللَّهُمَّ

اور ابھی نہیں تیار کیا تھا رات میں کسی راہب نے اور لوٹے جبکہ ابھی نہیں ظاہر ہوا تھا فجر کا دربان۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو  
سَرَىٰ وَقَدْ طَرَحَ اللَّيْلُ وَسَادَتْهُ وَرَجَعَ وَمَا نَشَرَ الْفَجْرُ رَأَيْتَهُ

محبوب معراج پر ہے جبکہ رات نے ابھی اپنا گدا بچھا یا ہوا تھا اور واپس آئے جبکہ ابھی نہیں لہرایا تھا فجر نے اپنا پرچم

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي سَرَىٰ وَمَا رَوَّعَ اللَّيْلُ أَطْيَارَهُ وَرَجَعَ وَمَا حَرَّكَ الْفَجْرُ

جو محبوب معراج پر چلے جبکہ ابھی نہیں خوفزدہ کیا تھا رات نے اپنے پرندوں کو اور واپس آئے جبکہ ابھی نہیں جنبش دی تھی

مَنَارَةَ اللَّهِ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

فجر نے اپنے منبع نور کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَمَا اسْتَدَارَ اللَّيْلُ بِنُجُومِهِ وَرَجَعَ وَالْفَجْرُ

آل پر کہ جو محبوب معراج کے لیے گئے اور نہیں گردش کی تھی رات نے ساتھ اپنے ستاروں کے اور واپس آئے جبکہ

مَبْتَلَةٌ قِيَّ بَلْعُومِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

فجر نگلی بڑی تھی شب کے حلقوم میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَقَدْ كَحَلَ اللَّيْلُ اَجْفَانَهُ وَرَجَعِ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے چلے جبکہ سرگین کر رکھا تھا رات نے اپنے پہوڑوں کو اور لوٹے

وَمَا فَكَّ الْفَجْرُ عَنْوَانَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ

جبکہ ابھی نہیں رہائی دی تھی فجر نے اپنے عنوان کو اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَمَا لَ نَجْمٌ لِلْغُرُوبِ وَمَرَجَعِ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب معراج کے لیے چلے اور ماہل ہوا تھا کوکب شب واسطے غروب کے اور

وَالْفَجْرُ عَنِ الْعِيُوْنَ مَحْجُوْبٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

لوٹے جب کہ فجر آنکھوں سے اوجھل تھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَقَدْ وَطَا اللَّيْلُ

محمد پر اور آل سیدنا محمد پر جو محبوب شب اسراء چلے جبکہ پامال کیا تھا رہو شب نے

شِرَاعَهُ وَرَجَعِ وَمَا مَاطَ الْفَجْرُ قَنَاعَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اپنی راہوں کو اور لوٹے جبکہ ابھی نہیں دور کیا تھا فجر نے اپنا نقاب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَمَا وَرَدَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج کیلئے چلے اور نہیں وار ہوئی تھی

اللَّيْلُ صَفُوْحِيَا ضَهْ وَرَجَعِ وَمَا لَيْسَ الْفَجْرُ ثُوْبٌ بِيَا ضَهْ اَللّٰهُمَّ

رات اپنے صاف حوضوں پر اور لوٹے جبکہ نہیں اوڑھا تھا فجر نے اپنا سفید لباس۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے

وَاللَّيْلُ مُهْتَدٌ الرَّوَّاقِ وَرَجَعِ وَمَا كَشَفَ الْفَجْرُ عَنْ سَاقِ اَللّٰهُمَّ

چلے جبکہ رات اپنا سائبان پھیلانے ہوئے تھی اور واپس آگئے اور نہیں ہٹایا تھا فجر نے پردہ اپنی ہڈی سے۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب چلے



إِلَىٰ آيِن تَقَرُّ الْعَيْنُ بِلَا حِدٍّ وَلَا آيِنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

طرف اس مقام کے جو آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا تھا بغیر رکاوٹ اور مکان محدود کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ حَيْثُ هَدَاهُ اللَّهُ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جنہوں نے معراج کیا جہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی

وَأَثَرَهُ بِالْقُرْبِ مِنْهُ وَأَرْضَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

اور ترجیح دی انہیں اپنے قرب کے ساتھ اور راضی فرمایا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَلِسَانِ السَّعَادَةِ يُلْهِجُهُ

پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے چلے اور زبان سعادت مشغول تھی

بِذِكْرِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان کے ذکر کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي سَرَىٰ وَقَدْ نُصِبَ عَلَىٰ رَأْسِهِ عِمَامَةُ السِّيَادَةِ وَالْكَرَامَةِ

جو محبوب معراج کے لیے چلے جبکہ باندھا گیا تھا مضبوطی کے ساتھ آپ کے سرناز پر عمامہ سیادت و کرامت کا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي سَرَىٰ وَعَالَمُ الشُّهُودِ مُؤَيَّدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

جو محبوب معراج پر چلے جبکہ عالم شہود تائید و توفیق دیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ الْأَفْقِ الْمُبِينِ وَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب شب اسراء پہنچے افق مبین تک اور

الْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا سَيِّدُ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

منادی حق ندا کر رہا تھا کہ یہی ہیں سید الاولین و الآخرین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَشَاءَ وَسْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج کیلئے چلے اور ملائکہ کے سرآمد و



الْمَلَائِكَةَ قَدْ أَمَهُ وَخَلْفَهُ لِتَعْظِيمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سر دار آپ کے آگے اور پیچھے تھے آپ کی تنظیم کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَسْرَيْتَ بِهِ كَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جن کو تو نے سیر کرائی رات کے حصہ میں مسجد

الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سید محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَسْرَيْتَ بِهِ إِلَى السَّمَوَاتِ الْعُلَى إِلَى

اور سیدنا محمد کی آل پر جنہیں تو نے سیر کرائی بند آسمانوں تک اور

سُدْرَةِ الْمُنْتَهَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

سدرۃ المنتہیٰ تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَسْرَيْتَ بِهِ إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى اللَّهُمَّ

کی آل پر جنہیں تو نے معراج کرائی قاب قوسین او ادنیٰ تک۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو

أَرَيْتَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى وَأَنْتَ الْغَايَةُ الْقُصْوَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

تو نے دکھلائی بہت بڑی نشانی اور عطا کی انہیں آخری حد مراتب۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَكْرَمْتَهُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو مکرم منسوب فرمایا ہے

بِالْمَخَاطَبَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ وَالْمُشَافَهَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ساتھ ہمکلامی اور حفاظت و نگرانی کے اور رو برو بھاننے کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَكْرَمْتَهُ بِالْمُشَاهَدَةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو مشرف فرمایا تو نے ساتھ مشاہدہ



وَالْمَعَايِنَةَ بِالْبَصْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور دیدار بصری کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَخَزَنَةُ السَّمَوَاتِ لَهُ نُقْيَاءُ يُنَادُونَكَ مَرْحَبًا

آل پر جو محبوب سفر معراج پر چلے اس شان سے کہ آسمانوں کے خازن آپ کے نگران و محافظ تھے جو پکار پکار کر کہتے تھے مرحبا

بِالْحَبِيبِ مَرْحَبًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

حبیب کے لیے صد مرحبا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْكَائِنَاتِ يُنَادِي هَذَا كَرِيمُ الْأَيَادِي

کی آل پر جو شب اسراء چلے جبکہ سبھی کائنات منادی کر رہی تھی یہ ہیں سخی ہاتھوں والے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ

الَّذِي سَرَى إِلَى سَبْعِ طَرَائِقِ السَّمَاوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو محبوب چلے شب معراج ساتوں طبقات سماوی تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا أَمْلَازِدُ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے اور منادی حق منادی کرتا تھا یہی ہیں پناہ گاہ

الْخَلَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خلایق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي سَرَى إِلَى أَعْلَى عِلِّيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جس محبوب نے معراج کیا اعلیٰ علیین تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا شَفِيعُ

آپ کی آل پر جو معراج پر چلے اور منادی حق تداء دیتا تھا کہ یہی ہیں شفیع

الْمُذْنِبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

المذنبین۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد





مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ فِجْلٍ الْقَوْزِ وَالرِّضْوَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی آل پر کہ جس محبوب نے سیر فرمائی مقام فوز و قلاح اور رضوان و رضا تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَالْمُنَادِي

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب معراج پر چلے اور منادی حق

يُنَادِي هَذَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نداء دے رہا تھا کہ یہ ہیں ڈرانے والے آخری حد انداز تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَالْبَشِيرُ لَهُ يُشِيرُ وَيَقُولُ

اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے جبکہ ہمیشہ قدرت ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا

هَذَا النَّبِيُّ الرَّسُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

یہ ہیں راخبری اور مقصودی نبی و رسول۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ مَقَرِّ الرَّحْمَةِ وَحِجَابِ الْعِظْمَةِ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب چلے شب معراج رحمت کی قزاقاہ اور حجاب عظمت تک۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

سَرَىٰ وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا رَفِيقُ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

معراج کے لیے چلے تو منادی حق نداء دے رہا تھا یہی ہیں امت کے مہربان اور با وفا ساتھی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ نُتْهِىٰ مُرَادِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب شب معراج پر پہنچے اپنے مقصد تک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو معراج

سَرَىٰ وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّهُمَّ

کے لیے روانہ ہوئے اور منادی قدرت نداء دے رہا تھا یہی ہیں جنہیں اللہ نے تفضیلت دی ہے اپنے تمام بندوں پر اے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جو چلے شب معراج

إِلَى حَضْرَتِ الْمُنَاجَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مناجات و خلوت خاص کے مقام تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرماستینا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا سَيِّدُ

اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے اور منادی حق اعلان کر رہا تھا کہ یہی ہیں سیادت مآب

الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

زمینوں اور آسمانوں میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ

إِلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَى حَيْثُ يُسْمَعُ صَرِيرَ الْأَقْلَامِ

کی آل پر جو محبوب شب اسراء پہنچے اس مقام پر جہاں سے سنتے تھے ملائکہ کی قلموں کی آواز کتابت۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا أَمْبِلُغُ الْأَنَامِ إِلَى دَارِ السَّلَامِ

جو محبوب معراج کے لیے چلے تو منادی قدرت اعلان کر رہا تھا یہی ہیں پہنچانے والے ساری مخلوق کو دار السلام تک۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور استینا محمد کی آل پر

الَّذِي سَرَى إِلَى حَضْرَتِ رَبِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جس محبوب نے معراج فرمائی بارگاہ رب العزت تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرماستینا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا

محمد پر اور استینا محمد کی آل پر کہ جو محبوب معراج کے لیے چلے اور منادی حق اعلان کر رہا تھا یہی ہیں

الَّذِي نَزَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى قَلْبِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وہ کہ قرآن ان کے دل اقدس پر نازل کیا گیا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرماستینا محمد پر



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ مَحَلِّ فَوْزِهِ وَبِحَاثِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج میں پہنچے اپنے کامیابی و کامرانی کے مقام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَالْمُنَادِي

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو معراج پر چلے اور منادی حق

يُنَادِي هَذَا النَّبِيُّ الْأَرْحَمُ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اعلان کرتا تھا یہی ہیں نبی امی جو ایمان کامل رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے کلمات پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ أَرْفَعِ مَحَلِّ وَ

فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو معراج میں پہنچے بلند ترین اور بزرگ ترین

أَجَلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مقام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب

سَرَىٰ وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي خُلِقْتُمْ مِنْ أَجَلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

معراج کے لیے چلے تو منادی اعلان کرتا تھا یہی ہیں کہ جن کے طفیل تمہیں پیدا کیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ أَعْلَىٰ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو معراج میں پہنچے بلند ترین

مَكَانٍ وَأَرْضَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور پسندیدہ ترین مکان تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي وَسِعَ الْخَلْقَ

کی آل پر کہ جس محبوب کے معراج کے موقع پر منادی اعلان کرتا تھا یہی ہیں وہ کہ محیط ہے تمام مخلوق کو

جَاهَهُ وَعَلَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

ان کی عز و جاہ اور بلندئ مرتبت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ مَحَلِّ الْقُرْبِ وَالْأَنْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر کہ جو محبوب معراج میں پہنچے قرب و انس کے مقام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو معراج کے لیے چلے اور منادی حق  
یُنَادِي هَذَا الَّذِي خُصَّ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ  
اعلان کرتا تھا یہی ہیں جو مخصوص ٹھہرائے گئے ہیں صلوات خمسہ کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں معراج میں ڈھانپ رکھا تھا  
عَمَّرَتْهُ الْأَنْوَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
انوار النبیہ نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا مُنْقِذُ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے جبکہ منادی حق اعلان کرتا تھا یہی ہیں بچانے والے  
الْعَصَاةِ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
عاصیوں کو آتش دوزخ سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ سَمَا كُلَّ مَرْتَبَةٍ فَآخِرَةَ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد کی آل پر جو معراج میں فائز ہوئے ہر قابل فخر مرتبہ پر۔ اے اللہ  
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى  
صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے

وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور منادی حق اعلان کرتا تھا یہی ہیں سردار اہل دنیا اور اہل آخرت کے۔ اے اللہ صلوات  
وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى  
و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے معراج فرمایا

عَلَى أَجْنَحَةِ الرُّوحَانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

طائفہ کے پروں پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا

اور سیدنا محمد کی آل پر جو معراج پر چلے اور منادی حق اعلان کر رہا تھا یہی ہیں

خَيْرُ الْبَرِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

سب مخلوق سے بہتر و برتر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَقَلَّ عِدُّ التَّخْصِيصِ لَهُ مَنْظُومَةٌ

کی آل پر جو محبوب معراج پر گئے اور اخصاص کے باران کے لیے موتیوں سے جڑے ہر گھنٹے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي سَرَىٰ وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي أُمَّتُهُ خَيْرُ أُمَّةٍ

کہ جن کے معراج کے موقع پر منادی حق اعلان کرتا تھا کہ یہی ہیں جن کی امت بہترین امت ہے

مَرْحُومَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

جو رحم کی ہوئی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ نَيْلِ الْمَغَانِمِ وَالْمَكَارِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

آل پر جو محبوب معراج میں پہنچے انعامات اور بزرگیوں کے مقام وصول تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو معراج کے لیے چلے

وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

تو منادی حق اعلان کرتا تھا یہ ہیں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب

ابْنِ هَاشِمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

بن ہاشم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ بِمِظَاهِرِ الْكُونَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

آل پر جو معراج میں پہنچے کونین کے مظاہر تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَالْمُنَادِيُّ يُنَادِيُّ هَذَا

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے چلے تو منادی حق ندا دیتا تھا یہی ہیں

الَّذِي أَقِيمَ بِهِ الدِّينَ وَزَانَ بِهِ الزَّيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

جن کے ذریعے دین کو مضبوط و مستحکم کیا گیا اور زینت پائی ان کی بدولت زینتوں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَقَدْ تَرَيْنَهُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب معراج پر چلے درآئیں لیکہ آراستہ فرمایا

اللَّهُ أَحْسَنَ تَرِيْنَةِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

تھا انہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین زیبائش کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَالْمُنَادِيُّ يُنَادِيُّ هَذَا الَّذِي شَرَّفَ

سیدنا محمد کی آل پر جو معراج کے لیے چلے اور منادی اعلان کرتا تھا یہی ہیں وہ جن کے ساتھ مشرف فرمایا

اللَّهُ بِهِ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ مُنَاجَاةٍ مِنْ تَبَاةِ اللَّهِ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب چلے اس ذات کی مناجات کے لیے جس نے انہیں نبی بنایا تھا۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج کیلئے چلے

وَالْمُنَادِيُّ يُنَادِيُّ هَذَا عَظِيمِ الْقُدْرَةِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور منادی حق اعلان کرتا تھا یہ ہیں عظیم قدر و منزلت والے اللہ کے ہاں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ لِنَيْلِ الْقَصْدِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو چلے شب معراج واسطے حاصل کرنے مقاصد

وَالْأَمَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور آرزوؤں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر



الَّذِي سَرَىٰ وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي عُقِدَتْ لَهُ النَّبُوءَةُ فِي

جو معراج پر چلے اور منادی حق اعلان کرتا تھا یہی ہیں جن کے لیے پیام نبوت ازل سے ہی کیا

الْأَنْزَلِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

گیا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ أَشْرَفِ مَقَامٍ وَأَسْمَىٰ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمْ

پر جو شب معراج پہنچے شریف ترین اور بلند ترین مقام تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَالْمُنَادِي

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے تو منادی حق

يُنَادِي هَذَا الَّذِي فَخَرَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ اللَّهُ صَلَّى وَ

اعلان کرنے لگا یہی ہے کہ فخر کیا ان پر ارض و سما نے۔ اے اللہ صلوات و

سَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب چلے معراج میں

أَعَزَّ مَنَزِلٍ وَمَحَلٍّ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

عزیز ترین محل و منزل تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي

سیدنا محمد کی آل پر جو معراج کے لیے چلے تو منادی حق پکار کر کہنے لگا یہی ہیں جن کے

شَرَّفَ بِهِ شَهْرَ رَبِيعِ الْأَوَّلِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ساتھ شرف حاصل کیا ربیع الاول کے مہینہ نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَىٰ إِلَىٰ حَضْرَةِ الْكَرِيمِ وَالْكَرِيمِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو معراج میں پہنچے اللہ کریم کے حرم ناز و کرم تک۔

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر



الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي كُوَلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا

جو معراج کے لیے روانہ ہوئے تو منادی حق اعلان کرتے لگایی ہیں جو موجود نہ ہوتے تو دنیا نہ آتی طرف وجود کے

مِنَ الْعَدَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پر وہ عدم سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ وَالَّذِي سَرَى إِلَى الْاَفْقِ الْمُبِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل پر جو معراج میں پہنچے افق مبین تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے روانہ ہوئے تو منادی حق اعلان کرنے لگا

سَيِّدُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

یہی ہیں سردار اولین اور آخرین کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالَّذِي سَرَى وَقَدْ زَانَتْ اَخْبَارُهُ وَ

اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج پر چلے جبکہ زینت پا چکی تھیں خبریں ان کی اور

اَشْرَقَتْ اَنْوَارُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جگمگا اٹھے الوار ان کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا حَبِيبِ

سیدنا محمد کی آل پر جو معراج پر چلے تو منادی حق اعلان کر رہا تھا یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے

اللهِ وَمُخْتَارَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

حبیب و مختار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالَّذِي سَرَى إِلَى عَلْوِ مَكَانَتِهِ وَرُتْبَتِهِ اللَّهُمَّ

کی آل پر جو شب معراج پہنچے اپنے مرتبہ و مقام کی بلندیوں تک۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالَّذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو





سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي نَبَّأَهُ اللَّهُ وَأَدَمُ مُنْجِدٌ

شب معراج اور نہ ہوئے تو منادی حق اعلان کرنے لگا یہی ہیں وہ جنہیں اللہ نے نبی بنایا جبکہ آدم علیہ السلام ہنوز اپنے گارے

فِي طِينَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مٹی میں پڑے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَأَعْلَامُهُ مَنَشُورَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل پر جو محبوب معراج کے لیے روانہ ہوئے جبکہ ان کے پرچم عظمت المراد نے کئے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي تَمَّمَ

سیدنا محمد پر جو معراج کے لیے روانہ ہوئے تو منادی قدرت اعلان کر رہا تھا یہی ہیں کہ کامل کر دیا ہے

اللَّهُ أَمْرَهُ وَنُورَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اللہ نے ان کا امر اور نور۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَأَنْوَارُهُ تَتَوَقَّدُ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جو معراج پر روانہ ہوئے جبکہ ان کے انوار ضو و نغمن تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج کیلئے چلے

وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي نَبَّأَهُ اللَّهُ وَأَدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَ

تو منادی حق اعلان کرنے لگا یہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور

الْجَسَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جسم کے درمیان تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ نُصِبَتْ عَلَى رَأْسِهِ الْوَيْةُ السُّعُودِ اللَّهُمَّ

آل پر جو محبوب معراج کے پرچم روانہ ہوئے اس شان سے کہ نصب تھے ان کے سرناز پر سعادت مند لوگوں کے پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو معراج کے لیے روانہ ہوئے



وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي لَوْلَاهُ لَمْ يَكُنْ لِلْحَادِثِ وَجُودٌ

اور منادی حق اعلان کر رہا تھا یہی ہیں جو موجود نہ ہوتے تو کسی مخلوق کا وجود نہ ہوتا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَرَى فِي أَمَاكِنِ الرُّوحَانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جنہوں نے سیر فرمائی شب معراج روحانیت کے مکانات میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے روانہ ہوئے تو منادی حق اعلان کر رہا تھا

هَذَا عَرُوسُ الْمَمْلُكَةِ الرَّبَّانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

یہی ہیں دولہا مملکت ربانیہ کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى عَلَى مَتْنِ الْبُرَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے معراج کی پشت براق پر سوار ہو کر۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو معراج کے لیے روانہ ہوئے تو

الْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا رَسُولُ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

منادی رب تعالیٰ اعلان کرنے لگا یہی ہیں رسول شہنشاہ خلاق کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَى الْمَحَلِّ الْأَعْلَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے معراج فرمائی محل اعلیٰ تک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو

سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا رَسُولُ الْمَلِكِ الْمُؤَلَّى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

روانہ ہوئے شب اسرار تو منادی حق نے اعلان کیا یہ ہیں رسول ملک المؤمنین تعالیٰ کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَى مَكَانَتِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو شب معراج پہنچے اپنے بلند ترین

الْعُظْمَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مقام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَرَى وَقَدْ اَرْضَاهُ اللَّهُ وَاصْطَفَاهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جنہوں نے سیر فرمائی اس شان سے کہ راضی کر دیا انہیں اللہ نے اور چن لیا ان کو۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ اَرْتَحَى اللَّيْلُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو شب اسراء روانہ ہوئے جبکہ عروس شبے اپنی

ذَوَائِبِهِ وَرَجَعَهُ وَمَا رَدَّ الْفَجْرُ جَلَابِئِبَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

میںڈھیاں کھول رکھی تھیں اور واپس آئے اور ابھی نہیں لٹایا تھا فجر نے تاریکی شب کے قطعات کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ اسْوَدَّ مِنَ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب شب اسراء چلے جبکہ سیاہ ہو چکا تھا

اللَّيْلِ مَرَأَهُ وَرَجَعَهُ وَمَا فَعَرَ الْفَجْرُ فَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

منظر شب اور واپس آگئے جبکہ ابھی نہیں کھولا تھا فجر نے اپنا منہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ شَدَّ اللَّيْلُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے چلے جبکہ سخت باندھ رکھا تھا رات نے

خِنَاقَهُ وَرَجَعَهُ وَمَا شَقَّ الْفَجْرُ أَحْدَاقَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اپنا پھندا اور واپس آئے جبکہ ابھی نہیں بھاڑی تھیں فجر نے اپنی آنکھوں کی پتلیاں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَكَوَأَيْبُ اللَّيْلِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب شب اسراء چلے تو کو آئب شب

تُقَابِلُهُ وَرَجَعَهُ وَمَا صَدَحَتْ لِلْفَجْرِ بِلَابِلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کا استقبال کر رہے تھے اور واپس آگئے جبکہ ابھی بیلان فجر کے نغمے شروع نہیں ہوئے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَاللَّيْلُ قَدْ سَجَى

فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب شب اسراء چلے جبکہ رات کی تاریکی چھاپی

وَرَجَعَ وَمَا اسْلَخَ فَجْرٌ مِّنَ الدُّجَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مخفی اور واپس آئے کہ ابھی سپیدہ فجر پر سے تاریکی کا پردہ الگ نہیں ہوا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَغِيَابُ اللَّيْلِ تَحْفُ بِغُرَابِهِ وَرَجَعُ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جو محبوب معراج کے لیے چلے اور رات کی تاریکیاں گھبرا ڈالے ہوئے تھیں ذرا غمگین گرد

وَسَيْفُ الْفَجْرِ لَمْ يُسَلِّ مِنْ قَرَابِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور واپس آئے جبکہ شمشیر فجر نہیں کھینچی گئی تھی اپنی میان سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ أُسْبِلَ اللَّيْلُ سُتُورَ ظِلَامِهِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے چلے جبکہ لٹکانے ہوئے تھی رات اپنی ظلمتوں کے پردے

وَرَجَعَ وَمَا ابْتَسَمَ الْفَجْرُ عَنْ إِفْرَاحِ ابْتِسَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور واپس آئے جبکہ ابھی فجر نے تبسم نہیں کیا تھا اپنی مسکراہٹوں کی مہک کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَمَا بَرَزَتْ عُرُوسٌ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو معراج کے لیے چلے جبکہ ابھی نہیں باہر نکلی تھی کوئی عروس

مِّنْ خُدْرِهَا وَرَجَعُ وَمَا اسْتَبَانَ الْكَلْبُ عَنْ فَرْقِ فَجْرِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ

اپنے پردہ سے۔ اور واپس آگئے جبکہ ابھی نہیں نمایاں ہوا تھا تاج فجر فجر کی چوٹی سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَمَا

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو معراج پر چلے جبکہ ابھی نہیں

ذَهَبَتْ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ وَرَجَعُ وَمَا مَدَّ الْفَجْرُ ذِرَاعَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

گزری تھی رات کی ایک ساعت اور واپس آگئے جبکہ ابھی فجر نے اپنے بازو نہیں پھیلائے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو شب اسراء چلے جب کہ

الَّيْلِ مُلْتَجِفٌ بِسَوَادِهِ وَرَجَعُ وَمَا أَنْتَبَهُ الْفَجْرُ مِنْ رُقَادِهِ اللَّهُمَّ

رات نے ابھی اوڑھا ہوا تھا اپنی تاریکی کا لاف اور واپس آئے جیکہ اپنی نیند سے بیدار ہوئی تھی فجر اپنے سوتے والوں کا

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو شب اسراء روانہ ہوئے

وَالرَّبُّ يَدْحُظُهُ مِنَ الْأَغْيَارِ وَرَجَعُ قَبْلَ بَيَانِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ

اور ان کا رب انہیں محفوظ رکھے ہوئے تھا اغیار سے اور واپس آئے فجر کے واضح ہونے اور نہار کے طلوع

النَّهَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہونے سے قبل۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَدَوَاعِي الشُّوقِ تُنَادِيهِ وَرَجَعُ وَمَا ظَهَرَ

کی آل پر کہ جو معراج کے لیے روانہ ہوئے جبکہ شوق و محبت والے داعی انہیں بلا رہے تھے اور واپس آئے اور ابھی نہیں

الْفَجْرِ لِبَاغِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ظاہر ہوئی تھی فجر اس کے طلبگاروں پر۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَلْبُ اللَّيْلِ مُنْكَسِرٌ بِحَوَايَاتِهِ فَبَلَّغَهُ

آل پر کہ جو معراج کے لیے روانہ ہوئے جبکہ شب کشستہ خاطر تھی اس کی علامات کے مٹ جانے سے پس پہنچایا

اللَّهُ بِسَرَاهُ فِيهِ عَيْنٌ إِرَادَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ تعالیٰ نے اسے محبوب کے اس میں بیکر کرنے کی برکت سے اس کی عین مراد تک۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَاللَّيْلُ أَسْوَدٌ مِنَ الْقَارِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج کے لیے چلے جبکہ رات زیادہ سیاہ تھی تارکول سے

فَرَجَعُ بِسَرَاهُ وَهُوَ أَشْرَقُ مِنْ شَمْسِ النَّهَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

پس وہ ہر گئی ان کے اسراء کی وجہ سے زیادہ روشن دن کے سورج سے۔ لے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج سے لڑے

مَسْرَاةً وَاللَّيْلُ لَمْ يَنْصَلْ خَضَابَهُ وَلَمْ يَحْفَلْ غُرَابَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

جبکہ رات نے ابھی اپنا سیاہ خضاب نہیں اتارا تھا اور اپنے کو سے سیاہی کو صقل کافور میں کیا تھا اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج سے لوٹے

مَسْرَاةً وَلَمْ يَبْرَحْ بِأَرْحَى الْفَجْرِ مِنْ وَكْرِهِ وَلَمْ تَدْخُ مِنَ الْاَفَاقِ بَرَاةً

اور ابھی نہیں نکلا تھا شہازِ فجر اپنے گھونسلہ سے اور نہیں چکا تھا آفاق سے آئینہ

فَجْرَةَ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

فجر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاةٍ وَخُرَّانِ السَّمَوَاتِ تَتَعَلَّقُ بِأَثْوَابِهِ

کی آل پر جو معراج سے لوٹے جبکہ آسمانوں کے نگران فرشتے ان کے دانتوں سے چھٹے ہوئے تھے

فَرَحَابِهِ وَبِمَا وُلِّيَ بِهِ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

ان کی تشریف آوری کی خوشی میں اور جو کچھ آپ نے کر لوٹ رہے تھے اس کی خوشی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ بِقِيَّةِ لَيْلِهِ مِنْ مَسْرَاةٍ وَقَدْ اَتَّحَفَهُ

سیدنا محمد کی آل پر جو واپس ہوئے اسرا سے رات کے بقیہ حصہ میں جبکہ ان کے مولیٰ نے ان کو

مَوْلَاهُ بِحُبِّهِ وَيَرْضَاهُ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

نقے دئے تھے اپنی محبت اور رضا کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاةٍ مَحْفُوقًا بِالرِّضَا وَالْبَلَكَّةِ

آپ کی آل پر جو محبوب معراج سے لوٹے جبکہ رضاءِ الہی ان کا احاطہ کئے ہوئے تھے اور ملائکہ اس شب

تُهَيِّئْ فِيهِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

میں ایک دوسرے کو مبارکباد کہہ رہے تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاةٍ وَقَدْ مَلَكَ مَفَاتِيحَ

آپ کی آل پر جو محبوب معراج سے لوٹے جبکہ وہ مالک ہر چکے تھے دُنیا و آخرت کے خزانہ

خَزَائِنَ الدَّارَيْنِ وَسَمَاعِلِي مَنَاصِبِ التَّيِّبِينَ وَالْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ

کی چابیوں کے اور حاوی ہو چکے تھے انبیاء و مرسلین کے مناصب و مراتب پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج سے

مِنْ مَسْرَاهُ وَبِمَا لَدَيْهِ يَسْعَىٰ وَمَا خَبَأَ عَنْ أُمَّتِهِ نَفْعًا اللَّهُمَّ صَلِّ

لوٹے اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس میں وہ اپنی پوری قوت صرف کر رہے تھے اور نہیں بچا رکھا تھا انہوں نے اپنی امت سے کوئی نفع۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو معراج سے لوٹے اس شان سے

وَقَدْ نَوَّرَ نُورَهُ الْفِضَاءَ وَقَدْ بَلَغَ فِي أُمَّتِهِ السُّؤْلَ وَالرِّضَا اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ نور کر رکھا تھا ان کے نور انور نے ساری فضا کو اور آپ واصل ہو چکے تھے اپنی امت کے بارے میں اپنے مقصد و رضائیک۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو معراج سے واپس ہوئے

مَسْرَاهُ وَقَدْ بَلَغَ الْقَصْدَ وَالْمَنَا وَالرَّبِّي يَثْنِي عَلَيْهِ بِجَمِيلِ الثَّنَاءِ

جبکہ پہنچ چکے تھے اپنے مقاصد اور آرزوں تک اور ان کا رب ثناء کر رہا تھا ان کی اوصاف جمیل کے ساتھ۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ

پاک ہے تو اے اللہ اور تیری حمد کے ساتھ مشغول ہیں ہم اور بابرکت ہے نام تیرا اور بلند تر ہے بزرگی تیری اور بزرگی تیرا

ثَنَائِكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ثناء تیری اور نہیں کوئی معبود برحق سوائے تیرے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاهُ بِمَا يَحِبُّ وَيَرْضَىٰ وَلَا

کی آل پر جو محبوب معراج سے واپس آئے بیچ ہر اس نعمت کے جس کو محبوب رکھتے تھے اور مغرب اور نہیں

يَرْضَىٰ دُخُولَ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِهِ لِنَارٍ تَتَلَطَّى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پسند کریں گے اپنے کسی بھی امتی کا داخل ہونا بھڑکتی آگ میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج سے لوٹے

وَقَدْ أَشْرَقَتِ السَّمَاوَاتُ بِنُورِ سَنَاهُ وَتَعَطَّرَتِ الْأَفَاقُ بِطِيبِ

جبکہ جگہ جگہ اُٹھتے تھے تمام آسمان ان کے نور و ضیاء سے اور معطر و معنبر ہو چکے تھے تمام آفاق ان کی روٹی اور چال

بَشَادَةِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

توحشبو سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاهُ وَقَدْ اسْتَنَارَ الْكُونُ بِنُورِ مَحْيَاهُ وَعَبَقَ

جو محبوب معراج سے لوٹے اس شان سے کہ منور ہو گیا سارا جہان ان کے رُخ اور کی ضیاء سے اور مہک اٹھی پوری

الْجَوْ بِبَشِيرَةٍ وَرِيَاةِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

فضا ان کی خوشبو کی مہک اور خوبی و شکر سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاهُ وَأَعْلَامُ عِزَّةٍ ظَاهِرَةٌ وَ

آل پر جو محبوب معراج سے واپس ہوئے جبکہ ان کی عز و جاہ کے پرچم ظاہر اور نمایاں تھے

أَنْوَارُ طَلْعَتِهِ السَّعِيدَةِ بِأَهْرَةِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ان کے چہرہ زیب کے انوار سعادت چشم عالم کو خیرہ کر رہے تھے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاهُ وَقَدْ حَفَّتْهُ الْأَنْوَارُ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب معراج سے واپس آئے جبکہ آپ کا الوار خداوندی نے احاطہ کیا ہوا تھا

وَاحْجَلَتْ عُرَّتُهُ الْمُبَارَكَةُ الشُّمُوسُ وَالْأَقْمَارُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

اور شرمندہ کر رکھا تھا ان کی چین اقدس کے نور نے آفتابوں اور ماہتابوں کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج سے لوٹے

مُحَقِّقًا بِالسَّعَادَةِ وَلِوَاءِ مَنْصِبِهِ مَنْصُوبًا عَلَى قُبَابِ السِّيَادَةِ

جبکہ ہر طرف سے سعادت مندوں نے ان کا احاطہ کر رکھا تھا اور ان کے منصب عالی کا پرچم سیادت کے قبرجات پر نصب تھا





اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

قَفَلَ مِنْ مَسْرَاهُ وَقَدْ اسْتَنَارَتْ الْأَكْوَانُ بِطَلْعَتِهِ وَاسْتَضَاءَتْ

معراج سے لوٹے جبکہ روشن ہو چکے تھے سبھی جہان ان کی جبین اقدس سے اور جگمگا رہے تھے

الْأَفَاقُ بِيَمِينِ غُرَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تمام آفاق ان جبین اقدس کی نورانیت و ضیاء سے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ مِنْ مَسْرَاهُ وَرَحَّبَ بِهِ

آپ کی آل پر جو محبوب معراج سے لوٹے اور موشش آمدید کہا انہیں

مَلِكُ الْحِجَابِ وَحَيَّاهُ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَهَنَّا اللَّهُمَّ

حجاب عظمت کے موکل فرشتہ نے اور سلام نیاز پیش کیا اور آپ کی طرف متوجہ ہوا اور مبارکباد دی۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَفَلَ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب معراج سے لوٹے

مِنْ مَسْرَاهُ بِالْمَقْصُودِ وَالْأَمَانِي وَرَدَّاهُ جِبْرَائِيلُ إِلَى بَيْتِ أُمِّ

حصول مقاصد اور نیل مراد کے بعد اور واپس لائے انہیں جبریل علیہ السلام ام بانیؓ کے

هَانِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مکان تک۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي اكْتَنَفَهُ الرَّفْرَفُ عِنْدَ قَوْلِهِ لَيْتَا أَمْرَ بِنُزُولِهِ اللَّهُمَّ

کہ جس محبوب کو اپنی آغوش میں لیا رفرف نے واپسی پر جبکہ نزول کے ساتھ مامور ہوئے۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي التَّرَفُّهُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو سینے سے لگایا

مِيكَائِيلُ عِنْدَ رَوَاجِهِ وَحَمَلَهُ فَوْقَ جَنَاحِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

میکائیل نے برقت روانگی کے اور اٹھایا انہیں اپنے پروں پر۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ضَمَّهُ إِسْرَافِيلُ إِلَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو اپنے سینے سے لگا یا اسرافیل علیہ السلام

صَدْرِهِ وَبَشَّرَهُ بِتِهَامِ أَمْرِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

نے اور بشارت دی انہیں ان کے امور کی تکمیل و تمہیم کی۔ اے اللہ صلوات سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخَذَ جِبْرَائِيلُ بِرِجَالِهِ وَرَدَّهُ مِنْ حَيْثُ سَرَى بِهِ

سیدنا محمد کی آل پر کہ نقی جبرئیل علیہ السلام نے اس محبوب کی رگاب اور پہنچایا انہیں وہیں پر جہاں سے لے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَلَّغَهُ

گئے تھے اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو پہنچایا

جِبْرِيْلُ إِلَى فَرَائِشِهِ وَأَعْتَلَا وَاقْتَحَرَ بِمَسْرَاهُ عَلَى أَهْلِ الْمَلَأِ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ

جبرئیل نے ان کے بستر نازک اور بلند ہو گئے اور خرد و سر بلندی حاصل کی ملا اعلیٰ پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَلى

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ لوٹے

جِبْرِيْلُ عَنْهُ وَوَدَّعَهُ وَأَوْدَعَهُ التُّورَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ اللَّهُمَّ

جبرئیل امین ان کے پاس سے اور انہیں الوداع کہا اور سونپا انہیں وہ لور جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَا

تھا اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا

عَرُوسٌ كَمَا لَيْلَهُ عَلَى بَسَاطِ الْحَقِّ وَعَلُو جَلَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ان کا عروس کمال بساط حق اور اس کے علو جلال پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَا عَرُوسٌ شَرِيْعَتِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کے اہل بیت پر کہ جلوہ گر ہوا اس محبوب کا عروس شرع میں

الْبَيْضَاءِ عَلَى صَفْحِ الصَّفْحِ وَالرِّضَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

عقود در گزر اور رضا کے میدان میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ إِصْطِفَائِهِ عَلَىٰ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا جس محبوب کے اصطفاہ و انتخاب کا عروس

عَرْشِ الْجَلَالِ وَبِهَائِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

عرش جلال اور اس کے حسن و خوبی پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ مِعْرَاجِهِ عَلَىٰ كُرْسِيِّ الْبَهَاءِ

آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کا عروس معراج حسن و خوبی کی کرسی پر

وَسِرَاجِهِ وَسِرَاجِ مَنَاجِحِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور اس کے چراغ پر اور نمایاں چراغ پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ جَمَالِ الرَّيْنِ بِحَاضِرِ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کا عروس جمال و زینت قاب قوسین

قَابِ قَوْسَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

کی مجالس میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ مَعَالِيهِ عَلَىٰ رَفَارِفِ الْعِزِّ وَمَبَانِيهِ اللَّهُمَّ

آل پر کہ جس محبوب کی بلند کرداریوں کا عروس عز و جاہ اور اس کی بنیادوں کے رفرفوں پر جلوہ گر ہوا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا

عَرُوسُ تَمَامِهِ عَلَىٰ قُبَابِ الْفِرْدَوْسِ وَسُمُومِ مَقَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اس محبوب کا عروس تکمیل و تہمید فردوس کے قبہ جات اور اس کے بلند مقامات پر۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا اس محبوب کا عروس

سُلْطَانِهِ عَلَىٰ مَرَائِبِ التَّائِيدِ وَأَرْكَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

سلطنت و حکومت تائید خداوندی اور اس کے ارکان کی سواریوں پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسٌ تَكْوِينُهُ وَاسْتَوَىٰ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کا عروس ایجاد و تخلیق جلوہ گر اور غالب ہوا

عَلَىٰ أَجَامِ الْجَنَّةِ الْهَادِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

جنت ہادی کے گنجان درختوں پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسٌ فِجْلَاهُ الْأَعْلَىٰ عَلَىٰ أَسْرَةِ الْفَخْرِ وَالْعُلَىٰ

کی آل پر کہ جس محبوب کے جلوہ گاہ اعلیٰ کا عروس جلوہ گر ہوا فخر و غلا کے عرشوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا اس محبوب کی

عَرُوسٌ إِبْتِهَاجِهِ عَلَىٰ مَعَالَىٰ رُتَبِ الْجَنَانِ وَأُدْرَاجِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

عروس فرحت و سرور جنات کے مراتب عالیہ اور ان کے منازل رفیعہ پر۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسٌ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا اس محبوب کا عروس

إِقْتِرَابِهِ عَلَىٰ فِرَاشِ الذَّهَبِ وَعُلُوِّ قُبَابِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

قرب شہری فرشوں اور سونے کے عالی شان قبیہ جات پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسٌ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کی سعادت مندوں کا عروس

فَمِرَّ سَعُودِهِ عَلَىٰ مَرَاتِبِ السُّعُودِ وَذُرُوعِهِ عُمُودِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ماہتاب سعادتوں کے مراتب عالیہ اور ان کے عمودوں کی چوٹیوں پر۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسٌ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کا عروس

أَنْوَارِهِ عَلَىٰ صَوَامِعِ التَّكْرِيمِ وَأَرْتِفَاعِ مَنَارِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

انوار و تجلیات محترم والی عبادت گاہوں اور ان کے بلند مناروں پر۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَاعِرُوسُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کا عروس

مَهْرُجَانِهِ عَلٰی مَعْرَاجِ التَّخْصِيصِ وَاعْتِزَّازِ مَكَانِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

عید و سرت اختصاص و تقرب کے معراج پر اور ان کے مکان کے عز و شرف پر۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَاعِرُوسُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کے

عَرُوسُ مَطَالِعِ الْمَصُونَةِ عَلٰی اَعْلَامِ الدَّرَةِ الْمَكْنُونَةِ

محفوظ و معصوم مطالع کا عروس انوار درہ مکنون کے پرچموں پر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي جَلَاعِرُوسُ مَنْصِبِهِ الْمَكِينِ عَلٰی مَنْصَبَاتِ دِيْوَانِ الْهُوْدِيِّينَ

کہ جلوہ گر ہوا ان کے پائیدار منصب کا عروس تائید خدا پانے والے

مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

انبیاء و مرسلین کے دیوان کی جلوہ گاہوں پر۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَاعِرُوسُ حُرْمَتِهِ وَحُرْمَاتِهِ عَلٰی

آپ کی آل پر کہ جن کے حرموں اور حرمتوں کا عروس جلوہ گر ہوا

سُرَادِقَاتِ الْعَرْشِ وَشَرَفَاتِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

سرا پر دہائے عرش اور اس کے کنگروں پر۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَاعِرُوسُ مَجْلَاهُ الرَّاقِي عَلٰی مَنَابِرِ الْخُلُوْدِ الْبَاقِي

آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کی بلند مرتبت جلوہ گاہ کا عروس خلود و بقا کے منبروں پر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَاعِرُوسُ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا



عَرَّوْسٌ طَرَارَةٌ الْمَبْرُورُ عَلَى كُتْبَانَ الْمَسْكِ وَعَرَّوْسٌ الْكَافِرُ اللَّهُمَّ

ان کے مقبول نقش و نگار کا عروس کستوری کے ٹیلوں اور کافر کے میدانوں پر۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرَّوْسٌ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کی

مَحْضَاهُ الْعَلِيَّةُ عَلَى مَفَارِقِ تَيْجَانِ الثَّوْرِ وَمَظَاهِرِ السَّنِيَّةِ اللَّهُمَّ

عالی مرتبت خالص دوستی اور محبت کا عروس نورانی تاجوں کی چوٹیوں اور عمدہ مظاہر پر۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوا

عَرَّوْسٌ مَحَافِلُهُ وَشِبَائِلُهُ عَلَى بَرُوجِ طَالِعِ الْفَلَكَ وَعَظِيمِ

ان کے محافل اور اخلاق عالیہ کا عروس فلک کے ستاروں کے بروج اور عظیم

مَنَازِلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

منازل پر۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرَّوْسٌ مُشَاهِدَاتِهِ عَلَى صَفْحَاتِ اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ

پر کہ جلوہ گر ہوا ان کے مشاہدات کا عروس لوح محفوظ کے صفحات اور

وَخَافَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اس کے اطراف پر۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرَّوْسٌ حُسْنِهِ الْفَائِقِ عَلَى مَرَاقِي سَبْعِ

آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کے عالی شان حسن کا عروس ساتوں آسمانوں کی

الطَّرَائِقِ اللَّهُمَّ أَعْطِهِ الْفُضْلَ وَالْفُضَيْلَةَ وَالشَّرْفَ وَالْوَسِيلَةَ

بلندیوں پر۔ لے اللہ عطا فرما انہیں شرف و فضل اور فضیلت و برتری اور مقام وسیلہ

وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ الْعُلْيَا الْمَنِيْفَةَ وَ

اور درجہ رفیع اور بلند قدر، عالی شان، بلند مقدار منزلت اور



اَجْزِهَ عَنَّا يَا رَبِّ مَا هُوَ أَهْلُهُ وَاجْزِهَ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا

جزا دے انہیں ہماری طرف سے لے ہمارے پروردگار جہاں کے شایان شان ہے اور جزا دے انہیں افضل ترین جزا ان نام سے جو کسی بھی نبی کو

عَنْ أُمَّتِهِ وَزِدْ فِي دَرَجَتِهِ وَشَرَفِهِ وَرَفَعْتَهُ اللَّهُمَّ أَعْطِ سَيِّدَنَا

ان کی امت کی طرف سے عطا کی ہے اور ترقی دے ان کے درجات اور شرف و رفعت میں۔ لے اللہ عطا کر سیدنا

مُحَمَّدًا سُؤْلَهُ وَبَلِّغْهُ مَا مَوْلَاهُ وَاجْعَلْهُ أَوَّلَ شَافِعٍ وَأَوَّلَ

محمد کو ان کا مطلوب اور پہنچا انہیں ان کی تمنا و آرزو تک اور بنا انہیں پہلا شفیع اور پہلا

مُشَفِّعٍ اللَّهُمَّ عِظَمُ بُرْهَانِهِ وَثِقَلُ مِيزَانِهِ وَأَبْدِجْ حُجَّتَهُ وَارْفَعْ

مقبول الشفاعت۔ لے اللہ عظمت دے ان کے برہان کو اور وزنی فرما ان کے میزان کو اور روشن فرما ان کی دلیل کو اور بلند

فِي أَعْلَىٰ عِلِّيِّينَ دَرَجَتَهُ وَفِي أَعْلَىٰ الْمُقَرَّبِينَ مَنْزِلَهُ فَأَعْطِهِ اللَّهُمَّ

فرما اعلیٰ علیین میں ان کے درجہ کو اور مقرب ترین لوگوں میں ان کی منزل کو پس عطا کر انہیں۔ لے اللہ

سُؤْلَهُ وَبَلِّغْهُ مَا مَوْلَاهُ وَآتِهِ الْوَسِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْبِقَامِ

ان کا مطلوب اور واصل فرما انہیں ان کی تمناؤں تک اور عطا کر انہیں مقام وسیلہ اور بلند درجہ اور پہنچا انہیں مقام

الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْبَيْعَادَ اللَّهُمَّ أَبْلِغْ عَنَّا نَبِيَّنَا

محمود تک جس کا تو نے انہیں وعدہ دیا ہے بے شک تو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لے اللہ پہنچا ہماری طرف سے ہمارے نبی کو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرُّوحِ وَالْجِسْمِ فِي النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ وَ

صلوٰۃ اور سلام آپ کے روح اور جسم دونوں پر ہماری نیند اور بیداری ہر دو حالت میں اور

أَسْأَلُكَ بِالْأَرْوَاحِ الْمَوْكَلَةِ بِنَفْحَاتِ الدَّهْرِ أَنْ تُؤَيِّدَنِي بِرُوحِ قُدْرَتِكَ

میں سوال کرتا ہوں ان ارواح کے طیفیل جو مومل ہیں زمانہ کی ہوا کے جھونکوں پر کہ مجھے تقویت بخشنے اپنی مخصوص و مقرب روح

لَيْسَ شَيْءٌ قَوِيٌّ يَمْنَعُنِي عَنِ الْوُقُوفِ عَلَىٰ كَشْفِ فِطْرَتِي حَتَّىٰ

کے ساتھ کہ کوئی قوی و توانا شئی بھی مجھے روک نہ سکے اپنی فطرت کے کشف اور اطلاع سے تہا آنکہ

أَقْفُ فِي الْحَضْرَةِ الَّتِي مِنْهَا أَخْرَجْتَنِي وَأَنْغَمَسَ فِي الْأَنْوَارِ الَّتِي مِنْهَا

میں جاظہروں اس بارگاہ میں کہ جہاں سے تو نے مجھے نکالا تھا اور غوطہ زن ہو جاؤں ان انوار میں جن سے تو نے



أَبْرَزْتَنِي فَأَقْوِي عَلَى مُقَابَلَةِ الْأَرْوَاحِ النَّوْمِ انِّيَاتٍ وَأَحْيِنِي

مجھے ظاہر کیا تھا پس میں قادر ہو جاؤں ارواح نرانیہ کے روبرو ہونے پر اور مجھے زندگی بخش

بِمَشَاهِدَةِ الْحُطُوطِ السُّرِّيَّاتِ إِنَّكَ أَنْتَ الْبَدِيعُ النَّوْمِ اللَّهُمَّ

سرایت کرنے والے حظوظ کے مشاہدہ کے ذریعے۔ بے شک تو ہی انکے نور والابے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَفِيرِهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر اور اپنے سفیر پر

فِي السَّفَرِ أَرْسَلَهُ فِي الرُّسُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا

سفیروں میں اور رسول پر رسولوں میں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے اس سفر

هَذَا الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَمَنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا

میں نیکی اور تقویٰ کا اور ایسے عمل کا جس پر تو راضی ہو۔ اے اللہ ہم پر آسان فرما

سَفَرَنَا وَأَطْوِلْنَا الْبُعْدَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ

ہمارا سفر اور سمیٹ دے ہمارے لیے اس کی مسافت۔ اے اللہ تو ہی ساتھی ہے سفر میں اور میرے بعد بھی

الْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ

نگران و محافظ ہے اہل و عیال میں۔ اے اللہ بے شک تیری پناہ طلب کرتا ہوں سفر کی صعوبتوں سے اور

كَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَالِدِ اللَّهُمَّ

رجح و الم سے دوچار کرنے والے منظر سے اور بری بازگشت سے مال۔ اہل اور اولاد میں۔ اے اللہ

أَطْوِلْهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي الطَّيْرَ وَالطَّيَّارَ

سمیٹ اس کے لیے دوری و مسافت اور آسان فرما ہر سفر۔ اے اللہ عطا فرما مجھے بہت تیز اڑان والی اور کثرت

لِسَفَرِ الْكَثْرَةِ فِي مَنْزِلِ مَقَامِ الْوَحْدَةِ وَالْعُرْفَانَ وَالشَّاهِدَ وَ

اڑانے والی روح جو کثرت سے سفر کر کے بے جاٹے مقام وحدت و عرفان اور شاہد و

الْمَشْهُودِ الَّذِي يَصِيرُ صَيْقَلًا تَكْدُورَةً مِنْ مَنَصَّةِ الْمَوْجِدِ

مشہود کی منزل کی طرف جو صیقل شدہ ہو تمام کدورت سے موجد کی جلوہ گاہ





فِي الْعُرْفَانِ وَالْوَحْدَةِ اللَّهُمَّ أَنْزِلْنِي مَنْزِلًا مَبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ

عرفان اور وحدت میں۔ اے اللہ مجھے اتار بابرکت منزل میں اور تو ہی بہتر ہے ایسی منازل

الْمَنْزِلِينَ اللَّهُمَّ اعْطِنَا خَيْرَ هَذَا الْمَنْزِلِ وَخَيْرَ مَا فِيهِ وَخَيْرَ مَا مِنْ شَرِّهِ

میں اتارنے والوں سے۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما اس منزل کی خیر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر اور کفایت فرما ہمیں اس کے

وَشَرِّ مَا فِيهِ يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ

شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے۔ اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں تیرے شر سے

مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَ

اور جو کچھ تجھ میں ہے اس کے شر سے اور تجھ پر چلنے والوں کے شر سے اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیر اور

أَسْوَدٍ وَمِنْ الْحَيَّةِ وَالْعُقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبُلْدِ وَالِدِ

سیاہ سانپ کے شر سے اور سانپ اور بچھو سے اور شر میں رہنے والے اور جنم دینے والے

وَمَا وَلَدَ اللَّهُ كَمَا أَخْرَجْتَنَا مِنْ مَنْزِلِنَا هَذَا سَالِمِينَ بَلِّغْنَا

اور جنم پانے والے کے شر سے۔ اے اللہ جیسے نکالا تو نے ہمیں اس منزل سے سلامتی کی حالت میں ہی پہنچا

غَيْرَةَ أَمْنِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي

دوسری منزل تک امن کی حالت میں۔ اے اللہ تو ہی ہے ساتھی سفر میں اور میرے بعد بھی خلیفہ و نگران

الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّيْعَةِ فِي السَّفَرِ وَالْكَابَةِ

میرے اہل میں۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں سفر میں ضائع ہونے سے۔ اور ٹکینے سے

فِي الْمُنْقَلَبِ فِي حِفْظِ اللَّهِ وَكَنْفِهِ نَزَّوَدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى وَ

واپسی پر "اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی پناہ میں" اللہ تعالیٰ تجھے تقویٰ والا زاویہ عطا کرے اور

جَنْبِكَ الرَّدَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ إِلَى الْخَيْرِ أَيْنَمَا

تجھے ہلاکت سے دور رکھے۔ گناہ معاف فرمائے اور خیر کی طرف متوجہ کرے جہاں کہیں بھی

تَوَجَّهْتَ اللَّهُمَّ بِكَ أَنْتَشَرْتُ وَإِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ

تو توجہ کرے۔ اے اللہ تیری توفیق کے ساتھ ہی نکلا ہوں میں۔ اور تیری طرف متوجہ ہوں اور تیرے ساتھ ہی



اَعْتَصِمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ ثِقَتِيْ وَاَنْتَ رَجَائِيْ

تمسک کیا ہے اور تجھی پر توکل کیا ہے۔ اے اللہ تو ہی میرا بھروسہ اور میری رجا ہے

اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْ مَا اَهْمَنِيْ وَمَا لَا اَهْمُ بِهِ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ

اے اللہ مجھے کفایت فرما مجھے فکر مند کرنے والے امور سے اور دیگر امور سے۔ اور جنہیں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے

مِنِّيْ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِيْ

عزت والا ہوا تیرے بڑوسی۔ اور بزرگ ہے تیری ثناء اور میں کوئی معبود برحق سوا تیرے۔ اے اللہ مجھے زاوراہ نے

التَّقْوٰى وَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَوَجِّهْنِيْ اِلَى الْخَيْرِ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ

تقویٰ کا۔ اور گناہ معاف فرما اور مجھے خیر کی طرف متوجہ فرما جہر بھی متوجہ ہوں۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْمِ

اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں سفر کی صعوبتوں سے اور بازگشت کے وقت تکلیفی سے اور جمعیت کی

بَعْدَ الْكُوْبِ وَسُوْءِ الْمُنْظَرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ

پراگندگی سے اور برے منظر سے اہل اور مال میں اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ہر

كُلِّ عَفْرِيْتٍ وَّاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ وَاَزَلَّ اَوْ اُزِلَّ وَاظْلَمَ اَوْ

سرکش کے شر سے اور پناہ طلب کرتا ہوں گمراہی سے اور گمراہ کئے جانے سے۔ لغزش کھانے اور لغزش دئے جانے سے۔

اُظْلَمَ وَاَجْهَلَ اَوْ يَجْهَلَ عَلٰى اَللّٰهُمَّ وَفَّقْنِيْ بِنِعْمَتِكَ الْاَعْلٰى كَمَا

ظلم کرنے اور ظلم کئے جانے سے جاہل ہونے اور جاہلانہ سلوک کئے جانے سے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے اپنی بلند شان نعمت کی جیسے کہ

تُحِبُّ وَتَرْضٰى بِرِضَاكَ يَا اَعْلٰى وَبِتَوَجُّهِ الْعَفَافَةِ بِالرِّضٰى بِسْمِ

تو پسند فرمائے اور راضی ہو ساتھ اپنی رضا کے اے بلند ترین شان والے۔ اور پاکدامنی کی طرف توجہ کے ساتھ خوشدلی کے اللہ

اَللّٰهُ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَهِنِ

کے نام کی برکت سے میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے تمام کلمات تامات کے طفیل اس کے غضب و عقاب سے اور اس کی

شَرِّ عِبَادَةٍ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ اَللّٰهُمَّ

مخلوق کے شر اور شیاطین کے افسوس و منتروں سے اور ان کے میرے پاس موجود ہونے سے اے اللہ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَمِنَ

میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بڑھاپے سے اور پناہ طلب کرتا ہوں دب کر مرنے سے اور غرق

الْغَرَقِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَخْبِطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ

ہونے سے اور اس سے کہ بے راہ کرے مجھے شیطان موت کے وقت اور

مِنَ الْوَقْمِ وَالْوَكْمِ وَمِنَ الْقَرْطَبَانِ وَقَلْتَبَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ

رکاوٹ اور سخت بندش سے اور بچھاڑے جانے اور الٹ پلٹ ہرنے سے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کے اہل بیت پر جو محبوب تیرے عبد خاص اور رسول،

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي كَانَ إِيْلَاجُهُ بِالْوَحْدَةِ وَإِخْرَاجُهُ إِلَى

نبی اُمّی ہیں جن کا حرم ناز میں داخل کرنا بھی وحدت کے ساتھ تھا اور ان کا برآمد کرنا بھی

الْوَحْدَةِ وَكُلُّ مِعْرَاجِهِ مَعَ الْوَحْدَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ

وحدت کی طرف تھا اور ان کا تمامی معراج بھی وحدت کی معیت میں تھا۔ پاک ہے اللہ واحد

الْأَحَدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْغَفَّارِ الصَّمِدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي

احد۔ پاک ہے غفار بے نیاز۔ پاک ہے اللہ جس نے

لَمْ يَلِدْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَمْ يُولَدْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

کسی کو نہیں جنا۔ پاک ہے اللہ جو نہیں جنا گیا۔ پاک ہے اللہ اور وہ نہیں اور نہیں ہے کوئی

كُفُوًا أَحَدٌ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ بِوَالِدٍ وَلَا مَوْلُودٍ هُوَ

اس جیسا۔ پاک ہے وہ جو نہ والد ہے اور نہ مولود فرما دیجئے وہ

اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمِدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَ

اللہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا اور

لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

نہیں اس کی مانند کوئی ایک



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَسَلَّمَ  
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَسَلَّمَ  
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَسَلَّمَ

کہ دین مان تحت اقران نبیل  
ایز ورتان ستمہ عجا رب و ہدیہ غرا ترپ الی اللہ  
مقبول بارگاہ شاہ کونین حضرت محمد رسول اللہ  
مُسْتَعِیٰ بِہ

# مجموعۃ السُّؤْلِ

الجزء العاشر عشرًا

فِي تَهْلِيلِهِ وَتَسْبِيحِهِ ﷺ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حضرت خواجہ نوجوان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور  
صوبہ سرحد پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَجْمَلِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِاَفْضَلِ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خوبصورت ترین "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" کے طفیل اور افضل ترین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِاَكْمَلِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

"بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" کے طفیل اور کامل ترین "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" کے طفیل

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَا لِكَ یَوْمَ الدِّیْنِ ۝

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو مالک ہے تمام جہانوں کا بہت رحم فرماتے والا مہربان ہے۔ مالک جزاء کے دن کا

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ

"اے ان صفات کمال کے ساتھ موصوف" تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں چلا راہ راست پر راہ

الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝

ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ الْمُبِیْنُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ سَیِّدُ

نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالیٰ شہنشاہ برحق۔ ظاہر محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو صادقین کے

الصّٰدِقِیْنَ ۝ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْمِ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

سردار ہیں۔ لا الہ الا اللہ "کا اقراری ہوں مطابق اسکی گنتی کے جو اللہ ہی کے علم میں ہے" لا الہ الا اللہ "کا اقراری ہوں

عَدَدَ مَا فِیْ حِلْمِ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَدَدَ مَا فِیْ غُفْرٰنِ اللّٰهِ لَا

مطابق اس گنتی کے جو اللہ کے علم میں ہے" لا الہ الا اللہ "کا اقراری ہوں مطابق اسکی گنتی کے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں ہے" لا

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْوٰنِ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَدَدَ مَا فِیْ

لا الہ الا اللہ "کا اقراری ہوں مطابق اس تعداد کے جو اللہ کے علو شان میں ہے۔ لا الہ الا اللہ" کہتے ہیں مطابق اس تعداد کے

بُرْهٰنِ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَدَدَ مَا فِیْ تَبْیٰنِ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

جو اللہ کے برہان میں ہے۔ لا الہ الا اللہ" کہتے ہیں مطابق اسکی تعداد کے جو اللہ کے تبیان میں ہے۔ لا الہ الا اللہ" کہتے ہیں

عَدَدَ زُهْدِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ زُهَادِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ

مطابق شمار زهد بارى تعالى کے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد اللہ تعالیٰ کے زاہدوں کے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد

أَنْبِيَاءِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ رُسُلِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ

اللہ کے انبیاء کے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد رسل اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد

صَلَاةِ عِبَادِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ جَمِيعِ عِبَادِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا

عباد صالحین کے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد تمام عباد اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ

اللَّهُ عَدَدَ كُلِّ خَلْقِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ ذُرِّيَّةِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد تمام ذرات کے۔ لا الہ الا اللہ

اللَّهُ عَدَدَ حَرَكَةِ ذَرَّةِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ مَّا سَوَى

اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد تمام ذرات کی حرکات کے۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق تعداد ان تمام اشیاء کے جو اللہ تعالیٰ کے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ كُلِّ مَّا سَوَى اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

سواہیں۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مطابق عدد تعداد ہر کچھ کے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہے نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ نہیں کوئی معبود

إِلَّا هُوَ اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

برحق مگر وہی۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو

صَاحِبِ تَهْلِيلِ الرَّحْمَنِ مِنَ الرَّبُّورِ وَالتَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَ

آقا بیان کرنے والے ہیں الوہیت رحمن کی وحدانیت کو زبور۔ تورات۔ انجیل اور

الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا

فرقان حمید اور قرآن مجید سے نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَّى وَسَلَّمْ

معبود برحق مگر اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد خاص اور رسول برحق ہیں اور صلوات و سلام

وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ نَحْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى

اور برکت نازل فرما اے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق تعداد ارادہائے احمد کے لا الہ الا اللہ۔ صلوات



وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ وَبِهِ أَحْمَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وسلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق تعداد اہمیت اور علم احمد کے لا الہ الا اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ وَجْهِ أَحْمَدُ لَا إِلَهَ

صلوٰۃ و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابقت و جاہت احمد کے لا الہ

إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ نُبِّهِ

الا اللہ صلوات و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق بیداری

أَحْمَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اور سمجھداری احمد کے لا الہ الا اللہ۔ صلوات و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ

عَدَدَ كُنْهِ أَحْمَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ

مطابق حقیقت احمد کے لا الہ الا اللہ۔ صلوات و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق

إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ كُرْهِ أَحْمَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ

مگر اللہ مطابق شدت اور تکلیف احمد کے لا الہ الا اللہ۔ صلوات و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ فِقْهِ أَحْمَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ

کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق فقہ احمد کے لا الہ الا اللہ۔ صلوات و سلام اور

بَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ شِبْهِ أَحْمَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ

برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق شبہ احمد کے لا الہ الا اللہ۔ صلوات

وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ وَهْنِ أَحْمَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں ہے معبود برحق مگر اللہ مطابق بدنی ضعف احمد کے لا الہ الا اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ وَشْنِ أَحْمَدُ لَا إِلَهَ

صلوات و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق تعداد و مترجمان والے رفقاء احمد کے لا الہ

إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ وَزْنِ أَحْمَدُ

الا اللہ۔ صلوات و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق وزن و وقار احمد کے



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ فُحْنٍ

لا الہ الا اللہ - صلوات و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق زاری اور بکاؤ احمد

أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ

کے لا الہ الا اللہ - صلوات و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق (نورانی)

لَوْنَ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

رنگت احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوات و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر

اللَّهُ عَدَدَ لُدُنِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارِكْ اللَّهُ

اللہ مطابق زم مزاجی احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوات و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ لَحْنِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَ

کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق اشارات یا ترنم و ترتیل احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوات و سلام اور

بَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ كَوْنِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى

برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق ہستی احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوات

وَسَلَّمَ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ قَدِينِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ

و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابقت کنیت و نادیت احمد کے لا الہ

إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ غَيْنِ

الا اللہ - صلوات و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق تعداد نورانی پردہ و حجاب

أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارِكْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوات و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ

عَدَدَ غُصْنِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارِكْ اللَّهُ

مطابق رباع وحدت کے شجر طوبی کی شاخ احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوات و سلام اور برکت نازل فرمائے اللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ غُصْنِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق اعداد اخلاق احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوات و سلام اور



وَبَارِكِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ لَيْلٍ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى

برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق زم نوحی احمد کے لا الہ الا اللہ صلوة

وَسَلِّمْ وَبَارِكِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ عَيْنٍ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا

و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق ذات احمد کے لا الہ الا

اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ وَحْيٍ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ

اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق وحی احمد کے - لا الہ

إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ وَشْيٍ أَحْمَدَ

الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق زب و زینب احمد کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَهْوٍ

لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق درہائے آبدار احمد کے

أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق

عَدَدَ نَطْوٍ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكِ اللَّهُ لَا

بَعْدَ هَمَّتْ يَا بَلَدِي مَرْتَبَتِ أَحْمَدَ كَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَعْوٍ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ وَبَارِكِ

معبود برحق مگر اللہ مطابق تعداد خرمہ ہائے احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرما

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ لَعْوٍ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ

لے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق (ہدایت اُمت پر) حوی احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام

وَبَارِكِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ لَعْوٍ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلَّى

اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق تکلم احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوة و

سَلِّمْ وَبَارِكِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ عَمْوٍ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق حضور احمد کے لا الہ الا اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ عَلْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق علو احمد کے لا الہ الا اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ عَصْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ

صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق ہر عضو احمد کے لا الہ الا اللہ

إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ عَطْوِ أَحْمَدَ

اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق عطا احمد کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ طَنِي

لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق صحت و عافیت

أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ

احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق سرعت سیر

طَقْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ

عَدَدَ ضَحْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ

مطابق کامل ظہور احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق

إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ صَفْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِلَّهِ

مگر اللہ مطابق خلوص اور طہارت باطن احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ شَلْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

برحق مگر اللہ مطابق اعضاء احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ شَطْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق ہر پہلو اور جانب احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوة و سلام

وَبَارِكْ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ زَهْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلِّ

اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق حسن منظر احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوة



وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَدَدَ رَهْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

وسلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق نرم زقاری احمد کے لا الہ الا اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَدَدَ رَعُو أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا

صلوٰۃ و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق نگہبانی احمد کے لا الہ الا اللہ

الله صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَدَدَ دَهْيِ أَحْمَدَ لَا

اللہ - صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق زیر کی اور طمانت احمد کے

إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَدَدَ حُلُو أَحْمَدَ

لا الہ الا اللہ - صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق شیبہ بنی کلام احمد کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَدَدَ حَطْوِ

لا الہ الا اللہ صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق تحریک

أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَدَدَ

احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ مطابق اندرونی

حَشْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

اعضائے احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ

عَدَدَ حَطْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

مطابق شدید محنت احمد کے لا الہ الا اللہ - صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ

عَدَدَ جَعْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

مطابق جمع کرنے احمد کے رکعات کاملین کو لا الہ الا اللہ - صلوات و سلام اور برکات نازل فرمائے اللہ کہ نہیں معبود برحق

إِلَّا اللهُ عَدَدَ بَعْوِ أَحْمَدَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ قَصَدْتُ

مگر اللہ مطابق غلبہ احمد کے لا الہ الا اللہ - اللہ سے اللہ تیری طرف ہی میں نے قصد کیا

وَبِإِيكَ وَقَفْتُ وَإِلَى جَنَابِكَ التَّجَاتُ وَلَكَ أَسَلْتُ وَبِحَمْدِكَ

اور تیرے ہی در پر میں اکھڑا ہوں اور تیری بارگاہ کی ہی پناہ حاصل کی ہے اور تیری ہی اطاعت کی اور ساتھ محمد



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَيْهِ تَوَسَّلْتُ وَبِأَوْلِيَائِكَ لِإِلَهِ إِلَّا

صلى اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے اور ساتھ تیرے اولیاء کرام کے توسل کیا میں نے نہیں معبود برحق مگر

اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ الْعَلِيمِ لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

اللہ۔ پاک ہے میرا رب جو عظمت کا مالک اور علم ازل والہ ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے

رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ

میرا رب جو بلند شان و برتر ہے۔ پاک ہے وہ اور عالی مرتبت ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے رب

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبِّ الْكُرْسِيِّ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ط

آسمانوں اور زمینوں کا اور رب کرسی کا اور رب عرش عظیم کا۔

لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْخَالِقِ الْبَارِي الْمُصَوِّرِ لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ پاک ہے خالق و صانع و سالم پیدا کرنے والا صورت گری فرمان والا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک

الْكَرِيمِ الرَّزَّاقِ الْغَنِيِّ لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُغْنِي الْمُعْطَى الْبَاسِطِ

ہے کریم رزاق غنی۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ پاک ہے غنی کرنے والا۔ عطا فرمانے والا۔ کٹاش دینے والا

لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَفُورِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

نہیں معبود برحق مگر اللہ پاک ہے بہت بخشنے والا۔ مہربان۔ رحم فرمانے والا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے

الْوَهَّابِ الرَّبِّ الْفَتَّاحِ لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْقُدْرَةِ وَ

بہت ہبہ فرمانے والا۔ مالک کشادگی کار فرمانے والا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے مالک قدرت اور

الْهَيْبَةِ وَالْعُظْمَةِ لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْعُظْمَةِ وَالْعِزَّةِ

ہیبت اور عظمت کا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے مالک عظمت و عزت

وَالرَّحْمَةِ لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيمِ الْحَمِيدِ الْحَكِيمِ لِإِلَهِ إِلَّا

اور رحمت کا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ پاک ہے دائمی علم والا۔ سزاوار حمد صاحب حکمت۔ نہیں معبود برحق مگر

اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَجِيدِ السَّمِيعِ الْقَادِرِ لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّافِعِ النَّافِعِ

اللہ پاک ہے صاحب مجد اور سمیع و قادر۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے رفعت و منفعت اور



الْوَاسِعُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّتَّارِ الْغَفَّارِ الْجَبَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وسعت و فرامی عطا کرنے والا نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے پردہ پرش۔ بہت بخشنے والا۔ جبار نہیں معبود برحق مگر اللہ

سُبْحَانَ الْبَصِيرِ الْخَبِيرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّبُورِ

پاک ہے دیکھنے والا۔ خبر رکھنے والا صاحب کبریا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے بہت صبر و حلم والا

الشُّكُورِ التُّورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُحْيِ الْمُحْصِ الْبَاقِي لَا

جزائے شکر دینے والا۔ فر نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے زندہ کرنے والا۔ احاطہ کرنے والا ہمیشہ رہنے والا۔ نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْجَامِعِ الرَّافِعِ الْمَرَّافِعِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

معبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے جمع کرنے والا۔ بلند کرنے والا۔ بلند بخشنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الْوَالِي الْمُتَعَالَى الْوَافِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّشِيدِ الْوَدُودِ

والی عالی مرتبت۔ صاحب وفا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے سیدھی راہ والا۔ محبت رکھنے والا

الْمُودُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحِيمِ الْكَرِيمِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ

محبوب لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب کرم۔ مالک عظمت لا الہ الا اللہ

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّشِيدِ الْحَمِيدِ الْمَجِيدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

اللہ پاک ہے صاحب رشد و ہدایت۔ سزا وار حمد۔ بزرگتر۔ لا الہ الا اللہ پاک ہے

الْبَدِيعِ الْمُنِيعِ الْوَسِيعِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُصَوِّرِ الْمُدَبِّرِ

انور کھے انداز میں پیدا کرنے والا۔ صاحب قوت غالبہ مالک وسعت۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے نقاش ازل۔ صاحب تدبیر

الْمُؤَخِّرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْمَبْجُودِ الْوَاحِدِ لَا إِلَهَ

مؤخر کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے واحد۔ صاحب مجد۔ مالک وسعت لا الہ

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْوَلِيِّ الْحَفِيِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

الا اللہ۔ پاک ہے غنی۔ متولی امور۔ شفیق۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الْفَرْدِ الصَّمِدِ الْمَجْدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْوَلِيِّ الْحَفِيِّ

یکتا و یگانہ۔ بے نیاز۔ بزرگی عطا کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے عالی مرتبت۔ قریب۔ شفیق



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَلَاذِ الْعَزِيزِ الْمُعْجِزِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے جلئے پناہ۔ عزیز۔ عزت بخش۔ عاجز کردینے والا۔ لا الہ الا اللہ

سُبْحَانَ الْمَصُورِ الْكَبِيرِ الْمَدْبُرِ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ

پاک ہے تقاض ازل۔ بڑائی بخشے والا۔ صاحب تدبیر پاک ہے اللہ۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ الْعَرْشَ يُسَبِّحُ اللَّهَ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے بتلایا کہ عرش مجید اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے

بِأَنْوَاعِ اللُّغَاتِ وَالْبَيَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مختلف اقسام کی لغات اور اسالیب بیان کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے

أَخْبَرَ أَنَّ لِلْعَرْشِ أَلْفَ لِسَانٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

بتلایا کہ عرش کی ہزار زبان ہے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

أَخْبَرَ فِي خَيْرِهِ الصَّحِيحِ أَنَّ الْعَرْشَ يُسَبِّحُ اللَّهَ بِأَلْفِ نَوْعٍ مِّنْ

خبردی حدیث صحیح کے مطابق کہ عرش اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے ہزار قسم کی تسبیح

التَّسْبِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ السَّمَاءَ

کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبردی کہ پانچواں آسمان

الْخَامِسَةَ مِنْ الْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ وَأَهْلَهَا رَافِعُونَ أَصْوَاتَهُمْ

یاقوت سرخ سے ہے اور اس کے باسی بلند کرتے ہیں اپنی آوازیں

بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

لا الہ الا اللہ اور بحمان اللہ کے ورد کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے

سَبَّحَتْ فِي كِفِّهِ الْحِطْيُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

دست اقدس میں تسبیح پڑھی کنگریوں نے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے

سَبَّحَ فِي كِفِّهِ الطَّعَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلَامًا

دست اقدس میں طعام نے تسبیح کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو سلام



وَصَلَاةٌ تُحَمِّدُ بِهَا مَنَّا حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ اللَّهُمَّ

و صلوات کہ لائق حمد پڑھائے ان کو بہت زیادہ پاکیزہ با برکت حمد کے ساتھ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مَحْمُودٍ صَلَاةٌ تُحَمِّدُ بِهَا مَنَّا حَمْدًا اجْزِيًا

صلوات و سلام نازل فرما اپنے محمود پر جو کہ حمد کرائے ان کی ہم سے بھی بہت بڑی

جَمِيلًا دَائِمًا بَدَاوَامٍ مُلْكُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نوبت صورت حمد جو ہمیشہ رہنے والی ہو ملک الہی کے دوام تک۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر

الْيَامُورُ بِقَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

جو کہ مامور ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ساتھ "اور تسبیح بیان کیجئے اللہ تعالیٰ کی جو اس کی حمد سے مقرون و متصل ہو پچھلے وقت اور سحر

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا شِئْتَ مِنْ تَقْطِيرِ تَقْدِيرِ الْحُكْمِ وَبِمَا

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بظیفیل تیری تقدیر کے حسن ترتیب کے جو تیری مشیت میں ہے اور بظیفیل

أَخْرَجْتَهُ مِنَ الْقَضَاءِ فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتِي

اس قضا کے جس کو ظاہر فرمایا لوح میں اور قلم میں کہ میری حاجت بر لائے

وَتَعَلَّمَنِي مِنَ الْمَعْلُومَاتِ وَالْمَفْهُومَاتِ وَالتَّهْلِيلَاتِ وَ

اور سکھائے مجھے معلومات و مفہومات سے اور تنہیلات و

التَّسْبِيحَاتِ كَمَا هُوَ فِي عِلْمِكَ الْحَقِّ بِكَ إِلَيْكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

تسبیحات سے جیسے کہ تیرے برحق علم میں ہے ساتھ اپنی توفیق کے طرت اپنی ذات کے۔ لا الہ الا اللہ

سُبْحَانَ السُّبُوحِ الْفُتُوحِ الْوَلُوحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَادِرِ

پاک ہے سبح صاحب علم مملکت پھرانے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب قدرت

الْمُقْتَدِرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْغُفْرَانِ الْحَلِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا

صاحب اقتدار۔ لا الہ الا اللہ پاک ہے مالک مغفرت و بخشش صاحب علم لا الہ الا

اللَّهُ سُبْحَانَ مَالِكِ الْمُلْكِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْبَارِئِ الْمُصَوِّرِ

اللہ۔ پاک ہے مالک ملک لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے سلامتی کے ساتھ پیدا فرمانے والا ناقش ازل



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْجَبَّارِ

لا الہ الا اللہ - پاک ہے عزیز و غالب - تکستگیوں کو دور کرنے والا - لا الہ الا اللہ - پاک ہے جبار

الْمُتَكَبِّرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا

صاحب کبریائی لا الہ الا اللہ - پاک ہے اللہ جو بلند تر ہے اس سے جو مشرکین بیان کرتے ہیں - لا الہ الا

اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ

اللہ - پاک ہے اللہ جو بلند تر ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ - پاک ہے اللہ

تَعَالَى عَمَّا يَشْرِكُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ السُّبُّوحِ

جو بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھراتے ہیں - لا الہ الا اللہ - پاک ہے مقدس ترین پاکیزہ ترین

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ - پاک ہے رب ملائکہ اور روح کا - لا الہ الا اللہ

سُبْحَانَ ذِي الْأَرْوَاحِ وَالنَّعْمَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ

پاک ہے مالک ظاہری اور باطنی نعمتوں کا - لا الہ الا اللہ - پاک ہے شہنشاہ

الْمَقْصُودِ الْمَوْجُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

جو مقصود حقیقی ہے - دائمی حقیقی وجود والا ہے لا الہ الا اللہ پاک ہے وہ جو کرم بہت رحم کرنے والا مہربان ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيَّبِ الْمَعْلَمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ - پاک ہے امن دینے والا - تمہما فی کرنے والا - تعلیم دینے والا - لا الہ الا اللہ

سُبْحَانَ الْغَفَّارِ الْوَهَّابِ الْقَهَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّشَاقِ

پاک ہے بہت بخشنے والا - عطا کرنے والا مالک قہر - لا الہ الا اللہ - پاک ہے بہت روزی رسال

الْفَتَّاحِ الْعَلِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَابِضِ الْبَاسِطِ الرَّافِعِ

حاکم - دائمی علم والا - لا الہ الا اللہ - پاک ہے تنگی لینے والا فراخی پیدا کرنے والا - بلندی عطا کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمِعْزِ الْمَذِلِّ السَّمِيعِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ - پاک ہے عزت دینے والا - ذلت دینے والا - سنے والا لا الہ الا اللہ





سُبْحَانَ الْبَصِيرِ الْحَكِيمِ الْعَدْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّطِيفِ

پاک ہے دیکھنے والا۔ صاحبِ حکم اور سراسر عدل۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحبِ لطیف

الْخَبِيرِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْخَلِيمِ الْغَفُورِ الشَّكُورِ

وہا بجز مالکِ عظمت۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحبِ علم۔ مالکِ مغفرت۔ شکر کی بہت زیادہ جزا دینے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ الْخَفِيظِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

والا لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے عالی مرتبت۔ صاحبِ کبریا۔ حفاظت فرمانے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الْمُقَيِّتِ الْحَسِيبِ الْجَلِيلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَرِيمِ الرَّقِيبِ

صاحبِ اقتدار۔ حساب لینے والا۔ صاحبِ جلالت۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحبِ کرم۔ نگہبان۔

الْحَسِيبِ الْجَلِيلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَرِيمِ الرَّقِيبِ الْمَجِيبِ

حساب لینے والا۔ صاحبِ جلالت لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحبِ کرم۔ نگہبان۔ قبول کرنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَاسِعِ الْحَكِيمِ الْوَدُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے وسعت والا۔ صاحبِ حکمت۔ مودت والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الْمَجِيدِ الْبَاعِثِ الشَّهِيدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَعْظَمَ اللَّهُ

دامنی بزرگی والا۔ (قبروں سے) اٹھانے والا۔ مشاہدہ فرمانے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے اللہ کتنا عظیم ہے اللہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَحْلَمَ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے اللہ۔ کتنا حلیم ہے اللہ۔ اے اللہ صلوٰۃ کاملہ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ تَعْدَادِ كَرَامِ اللَّهِ وَنِعْمَةِ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق کتنی و شمار اللہ تعالیٰ کے اکرام و انعام کے

اللَّهُ فِي عِلْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو اس کے علم میں ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حَسَنَاتِ صَفْوَةِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر مطابق اعداد حسنات ان لوگوں کے جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقِيَامِ وَالْحَرَكَاتِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد قیام اور حرکات کے

وَالْقُعُودِ وَالسَّكَنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور قعدوں اور سکناات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مُخَلِّلِ الْمَنَسُوجَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آپ کی آل پر مطابق تعداد مٹی ہوئی اشیاء کی درمیانی مٹالی جگہوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّقْطِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد نقاط

وَالكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور کلمات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْهَوَاجِسِ وَالنِّيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد (عباد کے) قلبی خیالات اور نیات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق مخلوقات کے سانہوں کی مقدار کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

عَدَدَ كُلِّ صَامِتٍ وَنَاطِقٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مطابق تعداد ہر خاموش اور ہر متکلم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ تَسْبِيحَاتِ سُكَّانِ السَّبْعِ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ان تسبیحات کے جو ساتوں آسمانوں کے ساکنین نے کی ہیں

الطَّرَائِقِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْمَتِينِ الْوَلِيِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب قوت۔ پائیدار۔ محبوب۔ لا الہ الا اللہ



سُبْحَانَ الْحَمِيدِ الْمُحْصَى الْمُبْدِيِّ لِأَلَلهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُبْعَدِ الْمَحْجَى

پاک ہے سزاوار حمد۔ احاطہ کرنے والا۔ آغاز فرمانے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے لڑانے والا۔ زندہ کرنے والا

الْمُمَيَّتِ لِأَلَلهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ لِأَلَلهِ إِلَّا

مارنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے یکتا۔ دائمی حیات والا ہمیشہ قائم رہنے والا۔ لا الہ الا

اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُقَدِّمِ الْمُؤَخِّرِ الْأَوَّلِ لِأَلَلهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْآخِرِ

اللہ۔ پاک ہے سبقت دینے والا۔ مؤخر کرنے والا۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے سب سے آخر

الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ لِأَلَلهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَالِيِ الْمُسْتَعَانَ الْعُتَّقِ

ظاہر۔ باطن و مخفی۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے والی۔ مطلب الامانت والا شان۔

لِأَلَلهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْبَرِّ التَّوَّابِ الْمُنْتَقِمِ لِأَلَلهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے ممن۔ بہت توبہ قبول کرنے والا۔ انتقام لینے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الْعَفْوِ الرَّءُوفِ الرَّحِيمِ لِأَلَلهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَالِكِ الْمَلِكِ

درگزر کرنے والا۔ صاحب رأفت و رحمت۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے ملک اکائات کا مالک۔

لِأَلَلهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لِأَلَلهِ إِلَّا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے جلال و اکرام کا مالک۔ لا الہ الا اللہ

سُبْحَانَ الْمُقْسِطِ الْجَامِعِ لِأَلَلهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْمَغْنِيِّ

پاک ہے صاحب عدل۔ جمع فرمانے والا (روزِ حشر) لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے بذات خود صاحب غنا اور دوسروں کو غنی کرنے والا

لِأَلَلهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُعْطِيِّ الْمَانِعِ لِأَلَلهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے عطا کرنے والا اور محروم رکھنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الصَّارِ النَّافِعِ التَّوْبِ لِأَلَلهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْهَادِيِ الْبَدِيعِ

مالک ضرر اور منفعت اور سراسر توبہ۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے ہدایت دینے والا۔ انوکھی ایجادات والا

الْبَاقِي لِأَلَلهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَارِثِ الرَّشِيدِ الصَّبُورِ لِأَلَلهِ

ہمیشہ رہنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے سب متروکات کا مالک۔ صاحب رشد۔ بہت بردبار۔ لا الہ



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَكِيمِ الْقَدِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

إِلَّا اللهُ پاک ہے صاحب حکمت۔ بے ابتداء۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

السَّمِيعِ الْبَصِيرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْمَتِينِ لَا إِلَهَ إِلَّا

واہمی سمع و بصر والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب قوت مضبوط و مستحکم وجود والا۔ لا الہ الا

اللَّهُ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَمُوتُ وَلَا يَفُوتُ أَبَدًا اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ

اللہ۔ پاک ہے جو موت سے منزہ ہے اور کبھی فوت نہیں ہوگا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُومِ الزَّاهِرَةِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد روشن ستاروں کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ لَا إِلَهَ إِلَّا

لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے توبہ قبول کرنے والا۔ شدید عذاب والا۔ لا الہ الا

اللَّهُ سُبْحَانَ الْفَرْدِ الصَّمِدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْقَدِيمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

اللہ۔ پاک ہے یکتا و یگانہ۔ بے نیاز۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو قدیم ہے ہر شئی سے

وَبَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ لَا

اور ہر شئی کے بعد بھی موجود رہے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے قیامت کے دن کا مالک۔ لا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

اللہ۔ اللہ ہر چیز اپنے مرتبہ ذات میں فنا پذیر ہے ماسوائے اس کی ذات اقدس کے۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

فَنَ لَا غَافِرَ لِدُنُوْبِ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْبَاعِثِ

وہ کہ نہیں گناہ بخشتے والا مگر وہی۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے (روز حشر) اٹھانے والا

الْوَارِثِ الْوَهَّابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَدْلِ الْمُؤْمِنِ

متردات کا مالک حقیقی۔ بہت عطا کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے سراسر عدل یامن دینے والا

الْمُهَيَّبِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السُّلْطَانِ الْبَاسِطِ لَا إِلَهَ إِلَّا

تکبران۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے سلطان حقیقی و معیت رزق بخشتے والا۔ لا الہ الا



اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُحْصَى الْمُبْدَى لِأَلِهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُنْتَقِمِ

اللہ۔ پاک ہے احاطہ کرنے والا۔ آغاز فرمانے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب انتقام

الْمُنْعِمِ الْعَفْوِ لِأَلِهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَسِيبِ الْمُقَيَّتِ الْحَفِيفِ

وصاحب انعام۔ درگزر فرمانے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے حساب لینے والا، صاحب اقتدار مخالفت زمانے

لِأَلِهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَافِظِ الْقَاهِرِ لِأَلِهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب حفظ۔ مالک قہر۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الْقَابِضِ الرَّافِعِ الْخَافِضِ لِأَلِهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ التُّورِ الْمُقْسَطِ

تنگی پیدا کرنے والا۔ رفعت اور پستی دینے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے سرسبز نور صاحب عدل

الْجَامِعِ لِأَلِهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَانِعِ الضَّارِّ النَّافِعِ لِأَلِهِ إِلَّا

جمع فرمانے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے روکنے والا۔ ضرر اور نفع کا مالک۔ لا الہ الا اللہ

اللَّهُ سُبْحَانَ الْأَجْوَدِ الْمُقَدِّمِ الْوَاسِعِ لِأَلِهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

اللہ۔ پاک ہے بہت جود و نزال والا۔ سبقت دینے والا۔ صاحب وسعت لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الرَّاحِمِ الرَّحْمَنِ السَّتَّارِ لِأَلِهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَالِكِ الرَّحِيمِ

رحم کرنے والا۔ بے غایت رحمت والا۔ پردہ پوش۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب ملک۔ دائمی رحمت والا

الْعَفَّارِ لِأَلِهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَلِيمِ الرَّءُوفِ الْوَهَّابِ لِأَلِهِ

راہل ایمان کے لیے بخشنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب علم۔ صاحب رأفت۔ بہت عطا کرنے والا۔ لا الہ

إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْجَابِرِ الْكَاشِفِ الْكُرُوبِ لِأَلِهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

الا اللہ۔ پاک ہے شکستہ دور کرنے والا۔ رنج و الم دور کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

ذِي الْكُرَمِ الْوَهَّابِ الْعَطِيَّاتِ لِأَلِهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الشَّدِيدِ

صاحب کم و جود بہت بخشنے والا عطیات کا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے سخت

الْعِقَابِ لِأَلِهِ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَافِرِ الذَّنُوبِ وَالْخَطِيئَاتِ

عقاب والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے ذر ذر اور خطاؤں کا بخشنے والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَقِّ النَّاصِرِ الْمُبِينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

لا اِلاَّ اللّٰہ - پاک ہے خدائے برحق۔ ناصر اور توفیق بخشنے والا۔ لا اِلاَّ اللّٰہ - پاک ہے

الْغَفَّارِ الْمُسْتَعَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَدْمُ صَفِيُّ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نُوحٌ

صاحب مغفرت عظیمہ اور مطلوب التوفیق۔ لا اِلاَّ اللّٰہ اُمّ اللّٰہ کے چنے ہوئے ہیں۔ نہیں معبود برحق مگر اللّٰہ۔ نوح

نَبِيُّ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اللّٰہ تعالیٰ کے راز دار ہیں۔ نہیں معبود برحق مگر اللّٰہ ابراہیم اللّٰہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ نہیں معبود برحق مگر اللّٰہ۔

إِسْمَاعِيلُ ذَبِيحُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُوسَىٰ كَلِيمُ اللَّهِ لَا إِلَهَ

اسماعیل اللّٰہ کے لیے ذبح کئے ہوئے ہیں۔ لا اِلاَّ اللّٰہ اللّٰہ موسیٰ اللّٰہ تعالیٰ کے کلیم ہیں۔ نہیں معبود برحق

إِلَّا اللَّهُ دَاوُدَ خَلِيفَةُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِيسَىٰ رُوحُ اللَّهِ لَا

مگر اللّٰہ۔ داؤد اللّٰہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ نہیں معبود برحق مگر اللّٰہ۔ عیسیٰ اللّٰہ تعالیٰ کی پسندیدہ روح ہیں۔ نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ حَبِيبُ

معبود برحق مگر اللّٰہ محمد اللّٰہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نہیں معبود برحق مگر اللّٰہ محمد اللّٰہ تعالیٰ کے حبیب ہے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ شَفِيعُ اللَّهِ حَقًّا حَقًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نہیں معبود برحق مگر اللّٰہ محمد اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ برحق شفیع ہیں۔ اے اللّٰہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ آيَاتِ الْبَاهِرَاتِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر واضح آیات کی تعداد اور ظاہر بینات کے الفاظ

وَالْأَنْفَاسِ الظَّاهِرَاتِ وَالْأَنْفَاسِ الظَّاهِرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور نفوس ظاہرہ کے انفاس کی مقدار کے مطابق۔ اے اللّٰہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اللَّحَظَاتِ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد (مخفوق کے) دیکھنے اور

الْأَنْفَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

سانس لینے کے۔ اے اللّٰہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَنْوَاعِ وَالْأَجْنَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر مطابق تعداد انواع اور اجناس کائنات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْخَطَرَاتِ وَ

سیتنا محمد پر اور سیتنا محمد کی آل پر مطابق تعداد خیالات اور

الْأَوْجَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اندیشہ ہئے خلق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور سیتنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَسْتَانَ وَالْأَضْرَاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد کی آل پر مطابق تعداد (مخوق کے) دانوں اور ڈاڑھوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَفْرَادِ الْجَنَّةِ

سیتنا محمد پر اور سیتنا محمد کی آل پر مطابق تعداد جنتی اور انسانی

وَالنَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

افراد کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّبَاتِ وَالزُّرُوعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مطابق تعداد نباتات کے اور کھیتیوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ الْفُرُوعِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق شاخوں کے پتوں کی تعداد کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ

سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور سیتنا محمد کی آل پر مطابق تعداد ہر

مَخْصُوصٍ وَمَرْفُوعٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

صاحب خصوصیت کے اور بلند مرتبت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مَوْصُولٍ وَمَقْطُوعٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیتنا محمد کی آل پر مطابق تعداد ہر دولت وصل سے مشرف کے اور محروم وصل کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ مُفْرَدٍ وَمَجْمُوعٍ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ہر مفرد اور جمع کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الثَّبَاتِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ثباتات

وَالرُّهُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور تمام پھولوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

عَدَدَ الْأَزْمَنَةِ وَالشُّهُورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ مَا أَكْرَمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ

مطابق تعداد تمام زمانوں کے اور مہینوں کے۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے اللہ وہ کتنا صاحب کرم ہے نہیں ہجو

إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ حَقًّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

برحق مگر اللہ یکتا و بے ہمتا۔ محمد اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ

پاک ہے شہنشاہ۔ مرامر تقدس۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے ملک ظاہر و محسوس اور غیر محسوس ملک کا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّءُوفِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

مالک لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب رؤفت۔ بہت مہربان۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الْغَفُورِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَرِيمِ الْحَكِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا

بہت بخشنے والا۔ رحم فرماتے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب کرم عمیم صاحب حکمت و دانش۔ لا الہ الا

اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْوَفِيِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ

اللہ۔ پاک ہے صاحب قوت ذاتیر صاحب وفاء۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب لطفت۔ ظاہر و باطن کی خبر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّمَدِ الْمَعْبُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَفُورِ الْوَدُودِ

رکھنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے بے نیاز معبود۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے بخشنے والا مخلوق سے سب محبت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَكِيلِ الْكَفِيلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّقِيبِ الْحَفِيفِ

رکھنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے کارساز۔ ذمہ دار۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے نگران۔ محافظ





لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ

لا إله إلا الله - پاک ہے ہمیشہ رہنے والا۔ بذات خود موجود۔ لا إله إلا الله - پاک ہے زندہ کرنا والا۔ موت دینے والا۔ لا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ

لا إله إلا الله - پاک ہے زندہ و پائندہ۔ لا إله إلا الله - پاک ہے عدم سے وجود میں لانے والا۔ بے عیب پیدا کرنا والا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ

لا إله إلا الله - پاک ہے عالم مرتبت و صاحب عظمت لا إله إلا الله - پاک ہے یکتا و یگانہ۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ

لا إله إلا الله - پاک ہے ایمان دینے والا۔ سبحان - لا إله إلا الله - پاک ہے محبوب

الشَّهِيدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ

اور مشاہدہ فرمانے والا۔ لا إله إلا الله - پاک ہے صاحب حلم اور صاحب کرم لا إله إلا الله - پاک ہے

الْأَوَّلِ الْقَدِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ

سب سے اول۔ بے ابتداء۔ لا إله إلا الله - پاک ہے سب سے اول۔ سب سے آخر۔ لا إله إلا الله - پاک ہے

الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْهَادِيَ الْوَاحِدَ أَحَدًا

سب سے ظاہر۔ سب باطن و مخفی۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ یگانہ و بے ہمتا جو اکیلا ہے معبود برحق ہے۔ یگانہ

صَمَدًا وَتَرَا حَيًّا قَيُّومًا ذَا أَلْبَابٍ أَلَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَا أَوْلِيًّا

بے نیاز۔ یکتا۔ زندہ و پائندہ دائمی جس کی نہ بیوی ہے اور نہ بچے اور نہیں

يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِيرًا تَكْبِيرًا اللَّهُمَّ

اس کا کوئی شریک ملک میں اور نہیں اس کا کوئی مددگار ضعف و ناتوانی کی وجہ سے اور اس کی بڑائی بیان کیجئے جیسے کرتے ہیں بڑائی بیان

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوَضُوءِ وَ

کرنے کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو وضو اور

التَّيْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

تیمم کو جاری کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو صاحب



التَّوَالٍ وَالتَّكْرُوهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جو در توال اور صاحب شرف و کرامت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کی آل پر جو اعمال صالحہ کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْأُرَاءِ النَّاجِحَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو کامیابی بخشنے والی آراء کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْأَفْعَالِ

و نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو وزنی اور باوقار افعال

الرَّاحِجَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

صَاحِبِ الرَّغَائِبِ وَالتَّوَافِلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو پسندیدہ اخلاق والے اور ارباب توافل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَقَامَاتِ السَّيِّئَةِ وَالمَحَافِلِ اللَّهُمَّ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو بند شان مقامات اور محافل والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصَّلَوَاتِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو فرض نمازوں

الْمَفْرُوضَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَاحِبِ الزَّكَاةِ الْمَكْتُوبَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جو فرض زکوٰۃ والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصِّيَامِ وَاليَقِيَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد کی آل پر جو محبوب روزہ دار اور شب بیدار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْأَشْهُرِ الْحَرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر جو حرمت والے مہینوں کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّلَامِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب سلامتی کے موجب ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو بہترین

خَيْرِ الْكَلَامِ بِبَشْرٍ صَدْرِ السَّلَامِ أَوْ بِسْمَاعٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالصَّوْتِ

کلام والے ہیں جو مشتمل ہے۔ اسلام کے لیے شرح صدر پر یا لا الہ الا اللہ کے سنائے پر یا اس کے ذکر

أَوْ بِأَلْسِنَةٍ إِلَّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر یا اللہ کرنے والے کے الفاظ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ قَوْلٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

آل پر جو محبوب اس قول والے ہیں "نہیں معبود برحق مگر اللہ وہی رحمن رحیم ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا رَحْمَتِ النَّفُوسِ لَا

نہیں معبود برحق مگر اللہ جو فضل عظیم کا مالک ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو نفوس کا پیدا کرنے والا ہے۔ نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَرِيفُ الْقَوْمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَرْدُ الْوَتْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا

معبود برحق مگر اللہ صاحب شرافت امیر و حاکم۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ منفرد۔ اکیلا۔ نہیں معبود برحق مگر

اللَّهُ عَادِلٌ الشَّاكِرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الدَّائِمُ

اللہ جو عادل جزائے شکر دینے والا ہے نہیں معبود برحق مگر اللہ جو پورا کرتا ہے ہر ارادہ کا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو

الْمُؤَيَّدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَافِعُ الْكُرْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَافِرُ الذُّنُوبِ لَا إِلَهَ

ہمیشہ توفیق دینے والا ہے نہیں معبود برحق مگر اللہ جو دور کرنے والا ہے رنج و الم کا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو بخشنے والا ہے گناہوں کا۔ نہیں معبود برحق

إِلَّا اللَّهُ دَافِعُ الرَّتْبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَلِكُ الْمَوْلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِاللَّهِ

مگر اللہ جو باندہ کرتا ہے مراتب کا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو بادشاہ و مددگار ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ ساتھ توفیق اللہ تعالیٰ کے

الْوَلِيِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الدَّيَّانُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْخَلَّاقُ الْمَنَّانُ لَا إِلَهَ

جو متولی امور خلائق ہے نہیں مہبود برحق مگر اللہ جو بہت جزا دینے والا ہے۔ نہیں مہبود برحق مگر اللہ جو خلاق اور بہت احسان فرماتا ہے۔ نہیں مہبود برحق

إِلَّا اللَّهُ الْحَنَّانُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ بِكُلِّ مُّفْرِنٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مگر اللہ جو بہت مہربان ہے۔ نہیں مہبود برحق مگر اللہ جس کا علم ہر شئی کو محیط ہے نہیں مہبود برحق مگر اللہ جو

لِكُلِّ حَسَنَةٍ مُّوْتِمِنٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

واسطے ہر اچھائی کے امانتدار ہے۔ نہیں مہبود برحق مگر اللہ جو درجات کا بلند کرنے والا ہے۔ نہیں مہبود برحق مگر اللہ

أَحْسَنُ الْبَرَكَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ كُلِّ نِقَاءٍ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي

جو سب سے اچھی برکتوں والا ہے۔ نہیں مہبود برحق مگر اللہ سب سے زیادہ ہے پاکیزگی اللہ تعالیٰ کی لا الہ الا اللہ

الْجَنَّةِ لِقَاءُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ

جنت میں ہے اللہ کا دیدار۔ لا الہ الا اللہ جو شہنشاہ۔ منسلک خاطر کو دور کرنے والا ہے نہیں کوئی مہبود برحق مگر اللہ واحد

الْقَهَّارُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ السَّتَّارُ لَا

فہار۔ نہیں مہبود برحق مگر اللہ غالب۔ بہت بخشنے والا نہیں مہبود برحق مگر اللہ جو کرم گستر اور پردہ پوش ہے۔ نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَبِيرُ الْمَتَعَالُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُ الْيَلِّ وَالنَّهَارِ لَا

مہبود برحق مگر اللہ جو صاحب کبریاہ اور عالیشان ہے۔ نہیں مہبود برحق مگر اللہ جو رات اور دن کا پیدا کرنے والا ہے۔ نہیں

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَعْبُودُ بِكُلِّ مَكَانٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَذْكُورُ بِكُلِّ

مہبود برحق مگر اللہ جو لائق پرستش ہے ہر مکان میں۔ نہیں مہبود برحق مگر اللہ جو ذکر کیا جاتا ہے ساتھ ہر

لِسَانٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَعْرُوفُ بِكُلِّ أَحْسَانٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُلُّ يَوْمٍ

زبان کے۔ نہیں مہبود برحق مگر اللہ جو جانا پہچانا ہے ساتھ ہر احسان کے نہیں مہبود برحق مگر اللہ ہر دن وہ

هُوَ فِي شَأْنٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيْمَانًا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَانًا مِنَ اللَّهِ

نئے فعل میں ہے۔ لا الہ الا اللہ (کہتے ہیں) اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہوئے۔ لا الہ الا اللہ کا قول، اللہ کی طرف سے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيْمَانًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

امان ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ نہیں مہبود برحق مگر اللہ نہیں انحراف (بدی سے) اور نزوت (نیکی) پر



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقًّا حَقًّا

مگر اللہ کی توہین سے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ اور ہم نہیں عبادت کرتے مگر اسی کی لا الہ الا اللہ حق ہے حق

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيْمَانًا وَوَحْدًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْبُدًا أَوْ مَقَالًا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ (کتے ہیں) از روئے ایمان اور خلوص قلب کے۔ لا الہ الا اللہ (کتے ہیں) بطور عبادت اور ظاہری کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَلَطُّفًا وَرَفَقًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لا الہ الا اللہ (کتے ہیں) واسطے حاصل کرنے لطف اور مہربانی کے۔ لا الہ الا اللہ ہے ہر چیز سے پہلے۔ لا الہ الا اللہ ہے

بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْقَى رَبُّنَا وَيَفْنَى وَيَمُوتُ كُلُّ شَيْءٍ

ہر شئی کے بعد۔ لا الہ الا اللہ ہمیشہ رہے گا رب ہمارا اور فانی اور مردہ ہو جائے گی ہر چیز

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

نہیں معبود برحق مگر اللہ بادشاہ۔ برحق۔ ظاہر۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ شہنشاہ برحق

الْيَقِينُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ

یقینی۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ عالیشان مالک عظمت۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ بردبار۔ کرم گستر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ

نہیں معبود برحق مگر اللہ ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب۔ نہیں معبود برحق

إِلَّا اللَّهُ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا

مگر اللہ جو سب سے زیادہ عزت و کرامت والا ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں معبود برحق مگر

اللَّهُ حَيُّبُ التَّوَابِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَاحِمُ الْمَسَاكِينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هَادِي

اللہ جو توبہ کرنے والوں کا محبوب ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو مساکین پر رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو ہادی ہے

الْمُضِلِّينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَلِيلُ الْخَائِرِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَانُ الْخَائِفِينَ

گمراہ کرنے والوں کا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو رہنما ہے ہیرت زدگان کا نہیں معبود برحق مگر اللہ جو امان ہے خوفزدگان کے لیے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غِيَاثُ الْمُسْتَغِيثِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ النَّاصِرِينَ لَا إِلَهَ

نہیں معبود برحق مگر اللہ جو فریادوں سے فریادوں کا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو بہترین مددگار ہے نہیں معبود

إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الْغَافِرِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الْحَافِظِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

برحق مگر اللہ جو بہترین معفرت فرمانے والا ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو بہترین محافظ ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ

خَيْرُ الْوَارِثِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

جو بہترین مالک ہے منورکات کا۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو بہترین حکم دینے والا ہے۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ جو بہترین روزی رساک

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ الْيَامِ وَاللَّهُ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

لا الہ الا اللہ کہتے ہیں دنوں اور مہینوں کی گنتی کے مطابق نہیں معبود برحق مگر اللہ جو بہترین فتح و کھلاش دینے والا ہے۔ نہیں معبود

إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَصَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ

برحق مگر اللہ بیکاز و بیکتا ہے اور اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اپنے عبد خاص کی نصرت فرمائی اور اپنے لشکر کو عزت دی اور ہر

وَحْدَهُ وَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَهْلُ التَّعْمَةِ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ

کفار کو ایسے شکست دی۔ اور نہیں کوئی چیز بعد اس کے نہیں معبود برحق مگر اللہ جو صاحب نعمت ہے اسی کے لیے فضل و شرف ہے اور اسی کے لیے ہے

الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ اللَّيَالِي وَاللَّهُ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ

ابھی ثناء۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں راتوں اور زمانوں کی گنتی کے مطابق۔ لا الہ الا اللہ (کا اعتراف ہے)

أَمْوَاجِ الْبُحُورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ الرِّيَاحِ فِي الْبَرَارِيِّ وَالصُّحُورِ لَا إِلَهَ

سمندروں کی موجوں کی تعداد کے مطابق۔ لا الہ الا اللہ (کا اعتراف ہے) مطابق تعداد آندھوں کے خشکیوں میں اور صحراؤں میں۔ لا الہ

إِلَّا اللَّهُ مِنْ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمٍ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ الشُّوكِ

لا اللہ (کا اذعان ہے) آج کے دن سے صور میں پھونکنے جانے کے دن تک۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد تمام کانٹوں۔

وَالنَّبَاتِ وَالشَّجَرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ الشَّعْرِ وَالْمَدْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ

نباتات اور درختوں کے۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد تمام بالوں کے اور ریشموں کے۔ لا الہ الا اللہ مطابق تعداد

الْوَرْدِ وَالشَّمْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ خَوَاطِرِ الظُّنُونِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ

گلاب کے پھولوں اور تمام پھولوں کے۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد خیالات و ظنون کے۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد

لَمَحِّ الْعَيُونِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ خَيْرٍ مِمَّا يَجْمَعُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

آنکھوں کے جھپکنے کے لا الہ الا اللہ ہے مطابق بہتر اشیاء کے ان سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ

عَدَدَ أَوْ رَاقِ الْأَشْجَارِ إِلَّا لِلَّهِ عَدَدَ قَطْرَاتِ الْأَمْطَارِ إِلَّا لِلَّهِ

ہے مطابق تعداد برگھائے درختوں کے۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد بارشوں کے قطرات کے۔ لا الہ الا

اللَّهُ عَدَدَ قَطْرَاتِ الْبِحَارِ إِلَّا لِلَّهِ عَدَدَ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

اللہ ہے مطابق تعداد سمندروں کے قطرات کے۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد تمام شب و روز کی گھڑیوں کے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ أَنْفَاسِ الْمَخْلُوقِينَ إِلَّا لِلَّهِ عَدَدَ ذَرَّاتِ

لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد تمام مخلوقات کے سانسوں کے۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد تمام زمینوں

الْأَرْضِينَ إِلَّا لِلَّهِ عَدَدَ اللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا

کے تمام ذرات کے۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد راتوں کے جب وہ تاریک ہوں اور صبحوں کے جب

تَنْفَسُ إِلَّا لِلَّهِ عَدَدَ أَمْوَاجِ الْعُيُونِ فِي الدَّارِينَ إِلَّا لِلَّهِ

وہ روشن ہوں۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق تعداد چشموں کی امواج کے دونوں جہان میں۔ لا الہ

إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَجَرَى بِهِ قَلْمُهُ وَنَفَذَتْ بِهِ

لا اللہ ہے مطابق تعداد ان اشیاء کے جن کا صرف اسی کو علم ہے اور جن کیساتھ اس کا قلم قدرت جاری ہوا اور

مَشِيَّتُهُ إِلَّا لِلَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَبِنَاءِ عَرْشِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ

جن کے ساتھ نافذ ہوئی مشیت اس کی۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق شمار اس کی مخلوق کے اور وزن عرش کے اور اس کی رضا و نوا کے

وَمَدَادِ كَلِمَاتِهِ إِلَّا لِلَّهِ الْمَوْجُودُ فِي كُلِّ مَكَانٍ إِلَّا لِلَّهِ

اور اس کے کلمات کی روشنائی کے۔ نہیں موجود برحق مگر اللہ جو موجود ہے ہر مکان میں۔ نہیں موجود برحق مگر اللہ

الْمَوْجُودُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا لِلَّهِ الْأَمَانُ الْأَمَانُ مِنْ كُلِّ

جو موجود ہے آسمان اور زمین میں (بغیر احتیاج کے)۔ نہیں موجود برحق مگر اللہ۔ امان دے امان دے ہر

زَوَالِ إِيْمَانٍ إِلَّا لِلَّهِ مَلَأَ جَمِيعَ الْمَلُوءِ وَالْجَوْمِ مِنَ الْأَرْضِينَ

زوال ایمانی سے۔ لا الہ الا اللہ ہے مطابق پوری تمام بھری ہوئی اشیاء کے اور نفا کے تمام زمینوں

وَالسَّمَوَاتِ وَاللُّوْحِ وَالْقَلَمِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَالْجَنَانِ وَالْبَيْرَانِ

آسمانوں اور لوح و قلم اور عرش و کرسی اور جنات اور آنتھائے



وَالْحَشْرُ وَالْمِيزَانُ يَزَنُ بِمِثْقَالِهَا وَذَرَّاتِهَا وَعَدَدَ مَا قِيلَ وَمَا يُقَالُ

دوزخ اور حشر اور میزان کے جو ہموزن ہوں ان تمام کے مثاقیل اور ذرات کے اور مطابق شمار ان اقوال کے جو کہئے جائے اور مطابق آئے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ

جو کہئے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا

اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ

اللہ تعالیٰ نے "نہیں کوئی شئی مگر تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ لیکن تم نہیں سمجھتے

تَسْبِيحَهُمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُسَبِّحُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

ان کی تسبیح کو اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ

اور وہی عزیز حکیم ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "تسبیح کنی اللہ کے لیے ہر اس شئی نے جو آسمانوں میں ہے اور

الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي

زمین میں اور وہی غالب حکمت والا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو آسمانوں

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقَالَ

میں ہیں اور جو زمین میں ہیں جو شہنشاہ۔ بہت پاکیزہ غالب۔ حکمت والا ہے اور فرمایا

اللَّهُ تَعَالَى يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ ملک اسی کا ہے اور

الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى سَبِّحْ اسْمَ

حمد اسی کے لیے ہے اور وہی ہر چیز پر ہمیشہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے "پاکیزگی بیان کرو اپنے

رَبِّكَ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ سُبْحَانَ

رب اعلیٰ کے نام کی۔ اے اللہ صلوات کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا " پاک ہے

اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اللہ۔ اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور میں معبود برحق مگر اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے اور صلوات نازل فرما سیدنا





مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جنہوں نے فرمایا "پاک ہے اللہ اور اس کی حمد کے ساتھ مشغول ہیں اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

جنہوں نے فرمایا "نہیں معبود برحق مگر اللہ تعالیٰ یکتا ہے۔ اسی کے لیے ملک ہے اور وہ مستحق حمد ہے

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

اور وہی ہر شئی پر کامل قدرت والا ہے اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى عَلَى

جو مشیت ہو اللہ تعالیٰ کی۔ نہیں طاقت اور نہ قوت مگر ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو بلند شان صاحب عظمت ہے۔ اور رحمت نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا پاک ہے اللہ عالی شان مالک عظمت اور اس کی حمد کے ساتھ متکلم ہیں۔

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ مَنْ قَالَ لَا

میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا "جو شخص لا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ

اللہ الا اللہ و اللہ اکبر کہے اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرماتا ہے کہ واقعی نہیں معبود برحق مگر میں۔ میں بہت بڑا ہوں

وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

اور بندہ جب کہے "نہیں معبود برحق مگر اللہ یکتا ہے ہمتا۔ اللہ فرماتا ہے" نہیں معبود برحق مگر میں اکیلا

وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

نہیں کوئی شریک میرے لیے اور جب بندہ کہے "نہیں معبود برحق مگر اللہ۔ اسی کے لیے ہے ملک اور وہی ہے

الْحَمْدُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ

مستحق حمد کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "نہیں معبود برحق مگر میں۔ ملک میرا ہی ہے اور میں ہی سزاوار حمد ہوں اور جب بندہ کہے "نہیں معبود

إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ

برحق مگر اللہ اور نہیں طاقت اور نہ قوت مگر ساتھ اللہ کے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ میں معبود برحق مگر میں اور نہیں طاقت



وَلَا قُوَّةَ إِلَّا لِلَّهِ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ سُبْحَانَ

اور قوت مگر ساتھ میرے اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا "تسبیح ہے

اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي

اللہ تعالیٰ کے لیے مطابق تعداد ان اشیاء کے جو آسمان میں پیدا کیں اور تسبیح ہے اللہ کے لیے مطابق تعداد زمین

الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا يَبِينُ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ

کی مخلوق کے اور تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مطابق ان اشیاء کے جو دونوں کے درمیان ہیں اور تسبیح ہے اللہ کے لیے مطابق

مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا

تعداد ان کے جنہیں وہ پیدا کرے گا اور اللہ تعالیٰ کیسے بڑی ہے مانند اس کے اور حمد کا اثبات ہے اس کیلئے مثل اس کے اور قرآن ہے اسکا کہ نہیں

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ سُبْحَانَ الرَّفِيعِ الْقَوِيِّ الْحَلِيمِ

طاقت اور قوت مگر ساتھ اللہ تعالیٰ کے "مانند اس کے۔ پاک ہے صاحب رفعت۔ صاحب قوت۔ بار بار

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ مَنْ يَمُنُّ وَلَا يَمُنُّ عَلَيْهِ سُبْحَانَ

پاک ہے اللہ عالی شان صاحب عظمت۔ پاک ہے وہ جو احسان فرماتا ہے اور اس پر احسان نہیں کیا جاتا۔ پاک ہے

مَنْ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ سُبْحَانَ مَنْ يُبْرَأُ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَيْهِ

وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس پر پناہ نہیں دی جاسکتی۔ پاک ہے وہ کہ برأت کا اظہار کیا جاتا ہے طرف اس کے طاقت و قوت سے

سُبْحَانَ مَنْ التَّسْبِيحُ مِنْهُ عَلَى مَنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ سُبْحَانَ مَنْ كُلُّ شَيْءٍ

پاک ہے تسبیح سے اس کی جانب سے اور اس کے جس نے اس پر اعتماد کیا۔ پاک ہے وہ کہ تسبیح و پاکیزگی ہے اسکی طرف سے کہ ہر شئی

يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَبِحَمْدِكَ يَا مَنْ يُسَبِّحُ لَهُ

تسبیح کرتی ہے جو متصل و مقرون ہے اس کی حمد کے ساتھ۔ پاک ہے تو۔ نہیں مورد برحق مگر تو اور تیری حمد کیساتھ منکلس ہیں اے کہ تسبیح

الْجَمِيعِ سُبْحَانَ الْمُخْلِصِ لِكُلِّ مَسْبُوحٍ سُبْحَانَ الْعَالِمِ بِكُلِّ مَكْنُونٍ

کتنی ہے اس کی سبھی کائنات۔ پاک ہے وہ جو مخلص ہے ہر تسبیح کتنے دانے کا۔ پاک ہے وہ جو علم رکھنے والا ہے ہر چھپی شئی کا

سُبْحَانَ مَنْ أَجْرَى الْمَاءَ فِي الْبِحَارِ وَالْعَيُونَ سُبْحَانَ الْبَيْسَرِ لِكُلِّ

پاک ہے جس نے جاری فرمایا پانی کو سمندروں اور چشموں میں۔ پاک ہے جو آسان کرنے والا ہے ہر



مَعْسُورٍ سُبْحَانَ الْمُنْفِيسِ عَنْ كُلِّ مَدْيُونٍ سُبْحَانَ الْمَقْرِجِ عَنْ

مشکل امر کا۔ پاک ہے جو تخفیف کرنے والا ہے ہر مقروض سے۔ پاک ہے جو دور کرنے والا ہے رنج و الم

كُلِّ مَحْزُونٍ سُبْحَانَ مَنْ كَانَ خَزَائِنَهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالنُّونِ ط

ہر رنجیدہ کا۔ پاک ہے وہ جس کے خزانے کاف اور نون کے درمیان ہیں یعنی کن کے۔

سُبْحَانَ مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ سُبْحَانَ

پاک ہے وہ جو ارادہ کرے کسی شئی کا اور فرمائے اسے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ کہ

الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الْأَرْضِ مُلْكُهُ وَقُدْرَتُهُ وَفِي الْبِرِّ

آسمان اور بلندی میں ہے عرش اس کا اور زمین میں بھی اسے ملک اس کا اور قدرت اس کی اور خشکی میں ہے

سَبِيلُهُ وَفِي الْبَحْرِ سِرُّهُ وَفِي الْهَوَى رُوحُهُ وَفِي النَّارِ سُلْطَانُهُ

راہ اس کی اور تری میں ہے راز اس کا اور ہوا میں ہے روح مخصوص اس کی اور آگ میں ہے غلبہ و تسلط اس کا

وَفِي الْأَرْحَامِ عِلْمُهُ وَفِي الْقُبُورِ قَضَاءُهُ سُبْحَانَ الْأَبَدِيِّ الْأَبَدِ

اور ارحام کو محیط ہے علم اس کا اور قبروں میں ہے قضاہ اس کی۔ پاک ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے

سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ سُبْحَانَ الْفَرْدِ اللَّهُ الصَّمَدِ سُبْحَانَ لَمْ يَلِدْ

پاک ہے یگانہ و یکتا۔ پاک ہے ایلا اور بے جفت۔ اللہ بے نیاز۔ پاک ہے جس نے کسی کو نہیں جنا

وَسُبْحَانَ لَمْ يُولَدْ سُبْحَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سُبْحَانَ مَنْ رَفَعَهُ

پاک ہے جو نہیں جنا گیا۔ پاک ہے جس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ پاک ہے وہ جس نے بلند فرمایا

السَّمَاءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ سُبْحَانَ مَنْ بَسَطَ الْأَرْضَ عَلَى مَاءٍ جَدِيدٍ اللَّهُمَّ

آسمان کو بغیر ستون کے۔ پاک ہے جس نے پھیلا یا زمین کو بنجد پانی پر۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْزَلْتَ عَلَيْهِ

رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن پر نازل کی گئی ہے (یہ آیت)

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پاکیزگی بیان کرو اپنے رب اعلیٰ کے نام کی جس نے وجود عطا کیا پس درست اور مناسب بنایا۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ فِي خَيْرِهِ الصَّحِيحِ أَنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی (جیسا کہ) حدیث صحیح میں ہے کہ

غَدَاةَ الْمَلَكَةِ التَّسْبِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

ملائکہ کی غذا اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی

أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَكَةِ السَّمَاءِ الدَّرِّيَّةِ سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ

ہے کہ پہلے آسمان کے ملائکہ کی تسبیح یہ ہے "پاک ہے مالک ملک و ملکوت کا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ

اے اللہ صلوات کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ

أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَكَةِ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَ

دوسرے آسمان کے ملائکہ کی تسبیح یہ ہے "پاک ہے مالک عزت کا اور

الْجَبْرُوتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

غلیبہ و قمر کا۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس

الَّذِي أَخْبَرَ أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَكَةِ السَّمَاءِ الثَّلَاثَةِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي

محبوب نے خبر دی ہے کہ تیسرے آسمان کے ملائکہ کی تسبیح یہ ہے "پاک ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا جس پر

لَا يَمُوتُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کبھی موت نہیں آسکتی۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے

أَخْبَرَ فِي خَيْرِهِ الْمَدُوحِ أَنَّ تَسْبِيحَ مَلَكَةِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ سُبُوحِ

خبر دی اپنی قابل ستائش حدیث میں کہ چوتھے آسمان والوں کی تسبیح یہ ہے "بہت بے عیب ہے

قُدُّوسِ رَبِّنَا وَرَبِّ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

بہت مقدس ہے رب ہمارا اور رب ملائکہ اور روح کا۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ فِي خَيْرِهِ الْبَارِ أَنَّ تَسْبِيحَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے خبر دی اپنی حدیث میں جو سراپا حسن و نکون ہے کہ تسبیح

مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ سُبْحَانَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الثَّلْجِ وَالنَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پانچویں آسمان کے ملائکہ کی یہ ہے " پاک ہے وہ جس نے جمع کر دیا ہے برف اور آگ کو" اے اللہ صلوات نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے خبر دی کہ تسبیح چھٹے آسمان کے ملائکہ

السَّمَاءِ السَّادِسَةِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ

کی یہ ہے " پاک ہے شہنشاہ جو بہت مقدس ہے جو رب ہے ہر شئی کا اور طرف اسی کے

النُّشُورِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ہر شئی کو اٹھایا جانے لے اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے

أَخْبَرَنَا تَسْبِيحَ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ اللَّهُمَّ

خبر دی کہ ساتویں آسمان کے فرشتوں کی تسبیح یہ ہے " پاک ہے نور کا پیدا کرنے والا" اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا تَسْبِيحَ

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے خبر دی کہ تسبیح

مَلَائِكَةِ الْبِحَارِ سُبْحَانَ مَنْ يُذْهِبُ بِاللَّيْلِ وَيَأْتِي بِالنَّهَارِ اللَّهُمَّ

سمندروں کے فرشتوں کی یہ ہے " پاک ہے وہ جو لے جاتا ہے رات کو اور لاتا ہے دن کو" اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَرْبَعِينَ عَالَمًا

صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے خبر دی کہ اللہ عزوجل ایسے چالیس جہان کا مالک ہے

وَعَالَمَ الدُّنْيَا مِنْهَا عَالَمٌ وَاحِدٌ بِلَا أَرْتِيَابٍ وَأَخْبَرَنَا أَنَّ لِلَّهِ ثَلَاثِينَ

کہ عالم دنیا ان میں سے ایک ہے بلا تنگ و شبہ اور جنہوں نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے تین سو

عَالِمِ حُفَاةٍ عَرَاةٍ لَا يَدُرُونَ مَنْ خَلْفَهُمْ وَسِتُّونَ عَالَمٍ يَلْبَسُونَ

جہان کا جن کے باسی برہنہ اور جسم برہنہ ہیں جو نہیں جانتے اپنے پیچھے والوں کو اور ساٹھ جہان ہیں ایسے کہ جن کے باسی

الثِّيَابِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ فِي كِتَابِكَ

کپڑے پہنتے ہیں۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن پر تو نے اپنی کتاب منیر میں نازل فرمایا



الْمُنِيرِ الْاِلَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

کیا نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے اور وہی باریک بین باخبر ہے " اور صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ تَسْبِيحٌ كُلُّهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ

محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ ان سب کی تسبیح یہ ہے " سبحان اللہ والحمد للہ اللہ

اَكْبَرُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ - اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ وَهُوَ بِوَادِ الْعَقِيقِ تَسْبِيحٌ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ

محمد پر جنہوں نے سیکہ وادی عقیق میں کھتے سنی تسبیح آسمانی ملائکہ کی

بِالتَّحْقِيقِ سُبْحَانَ اللَّهِ كُلِّمَا سَبَّحَ اللَّهُ مَسْبُوحًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كُلِّمَا حَمِدَ

بدرے یقین و وثوق کے ساتھ تسبیح ہے اللہ کی ہر بار کہ تسبیح کے اللہ کی کوئی تسبیح کہنے والا اور محمد ہے اللہ کے لیے ہر بار کہ

اللَّهُ حَامِدًا وَلَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ كُلِّمَا هَلَّلَ اللَّهُ مَهْلَلًا وَاللَّهُ اَكْبَرُ كُلِّمَا

حمد کرے اس کی کوئی حمد کرنے والا - اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ہر بار کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیل کہنے والا تمہیل کہے اور اللہ اکبر ہے ہر بار کہ

كَبَّرَ اللَّهُ مُكَبِّرًا سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَعْفَرَ اللَّهُ

اس کی کبریا بی بیان کرے کوئی اللہ اکبر کہنے والا - پاک ہے اللہ عالی شان عظیم اور اسی کی حمد ہے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں

وَسُبْحَانَ الْوَاسِعِ الْوَارِثِ الَّذِي يُدْرِكُ وَلَا تُدْرِكُ لَهُ

پاک ہے صاحب وسعت و وارث - پاک ہے جو سب کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور نظریں اس کا احاطہ نہیں

الْاَبْصَارُ سُبْحَانَ الْعَظِيمِ الْحَكِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَتَّانِ الْمَتَّانِ

کر سکتیں - پاک ہے عظیم حکیم - پاک ہے مہربان صاحب احسان -

سُبْحَانَ الْاَزَلِ الْقَدِيمِ الْاَبَدِ سُبْحَانَ الْمُبْدِي الْمُعِيدِ سُبْحَانَ

پاک ہے بے ابتداء قدیم ابدی - پاک ہے ابتداء پیدا کرنے والا - دوبارہ موجود کر نوالا - پاک ہے

الْخَالِقِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ الْعَظِيمِ الْاَعْظَمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ

خالق عظیم - پاک ہے عظیم جو عظیم ترین ہے - بے عیب ہے اللہ اور اسی کی حمد کے ساتھ منہیں ہیں - پاک ہے



الْمُعْطَى الْوَهَّابِ سُبْحَانَ الْفَتَّاحِ الْعَلِيمِ سُبْحَانَ الْمَجِيبِ لِمَنْ دَعَاهُ

عطا کرنے والا۔ ہبہ کرنے والا۔ پاک ہے کائنات فرماتے والا علیم۔ پاک ہے قبول کرنے والا ارباب دعا کی دعاؤں کو

سُبْحَانَ الْخَالِقِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا مَقَرَّ وَلَا مَدْجًا إِلَّا إِلَيْهِ سُبْحَانَ

پاک ہے خالق عظیم۔ پاک ہے وہ جس سے جائے فرار اور جائے پناہ نہیں مگر طرف اسی کے۔ پاک ہے

الْعَلِيِّ الْأَعْلَى سُبْحَانَ الْكَرِيمِ الْأَكْرَمِ سُبْحَانَ الْجَلِيلِ الْأَجَلِّ سُبْحَانَ

بلند شان والا سب سے بالاتر۔ پاک ہے کریم جو بزرگترین ہے۔ پاک ہے جلیل جو سب سے بزرگتر ہے۔ پاک ہے

الْفَرْدِ الْوَتَرِ سُبْحَانَ الْخَالِقِ التَّوَّابِ سُبْحَانَ التَّوَّابِ اللَّهُ شَدِيدُ

یکتا و یگانہ۔ پاک ہے خالق جو سراسر نذر ہے۔ پاک ہے توبہ قبول کرنے والا۔ پاک ہے اللہ جو سخت عذاب

الْعِقَابِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَلِكِ سُبْحَانَ الْقَادِرِ الْجَبَّارِ سُبْحَانَ مَنْ

والا ہے۔ پاک ہے ملک کائنات کا شہنشاہ۔ پاک ہے صاحب قدرت۔ جبار۔ پاک ہے وہ کہ جس کی طرف

إِلَيْهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ سُبْحَانَ خَالِقِ الظُّلُمَاتِ وَالتَّوَّابِ سُبْحَانَ

لوٹیں گے سبھی امور۔ پاک ہے تاریکیوں اور روشنیوں کا خالق۔ پاک ہے

خَالِقِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُنِيرِ سُبْحَانَ الرَّفِيعِ الْأَعْلَى سُبْحَانَ هَادِي

شمس و قمر منیر کا خالق۔ پاک ہے بلند مرتبت۔ بالاتر۔ پاک ہے ہدایت دینے والا

مَنْ يَشَاءُ سُبْحَانَ الْغَفُورِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

جنہیں چاہے۔ پاک ہے بخشنے والا مہربان۔ پاک ہے رؤوف رحیم۔

سُبْحَانَ التَّوَّابِ الْمُبِينِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ سُبْحَانَ

پاک ہے نذر مبین۔ پاک ہے وہ کہ نہیں مخفی رہتی اس پر کوئی شئی۔ پاک ہے

رَبِّ الْعَالَمِينَ قُدُّوسٌ رَبُّ الْأَرْبَابِ سُبْحَانَ رَبَّنَا الْأَعْظَمِ

رب تمام جہانوں کا۔ بہت مقدس ہے مالک سب مالکوں کا۔ پاک ہے ہمارا رب اعظم

قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ سُبْحَانَ مَنْ لَا وَصْفَ لَهُ

بہت مقدس ہے رب ملائکہ اور روح کا۔ پاک ہے وہ کہ نہیں وصف کر سکے اس کا

الْوَاصِفُونَ عَظَمَةَ وَ مُمْتَهَاءَ سُبْحَانَ مَنْ عَدِمَتْ لَهُ الرِّقَادُ

توصیف و تعریف کرنے والے از روئے اس کی عظمت کے اور بے غایت کمال کے پاک ہے وہ کہ نہیں اس کے لیے نیند

وَذَلَّلَتْ لَهُ الْأَعْنَاقُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْكَرِيمِ سُبْحَانَ الثَّوَرِ الْمُبِينِ

اور فرمانبردار ہیں اس کی سبھی گردنیں۔ پاک ہے اللہ کریم۔ پاک ہے نور مبین

سُبْحَانَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ لَهُ الْأَنْعَامُ

پاک ہے وہ جس کے جلوے آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ پاک ہے وہ کہ تسبیح کہتے ہیں اس کے لیے چار پائے

فِي سَكَرِيهَا وَيُسَبِّحُ الْوَحُوشُ مِنْ رَأْسِهَا سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ لَهُ الدِّيدَانُ

اپنی سبھوں میں اور تسبیح کہتے ہیں اس کی جنگلی جانور اپنی بند چوٹیوں پر۔ پاک ہے وہ کہ تسبیح کہتے ہیں اس کی کیڑے مکوڑے

فِي صَفْحِهَا وَصَفْحِهَا سُبْحَانَ الَّذِي يَجُوزُ وَهُوَ مَلِكٌ جَبَّارٌ سُبْحَانَ

اپنی بلوں اور صفوں میں۔ پاک ہے وہ جو درگزر فرماتا ہے حالانکہ شہنشاہ جبار ہے۔ پاک ہے

الْمُنْتَقِمِ مَنْ أَعْدَائِهِ سُبْحَانَ الْمُعْطِيِّ لِمَنْ يَشَاءُ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ

انتقام لینے والا اپنے اعدا سے۔ پاک ہے جو عطا کرتا ہے جسے چاہے۔ پاک ہے وہ کہ جس کی

كَمِثْلِهِ شَيْءٌ سُبْحَانَ الَّذِي يُجِيبُ السَّائِلِينَ سُبْحَانَ قَابِضٍ

مثل کوئی شئی نہیں۔ پاک ہے سائلین کے سوال پورے کرنے والا۔ پاک ہے سرکشوں کو اپنے

الْجَبَّارِ سُبْحَانَ الَّذِي عَلَىٰ وَلَا يَعْلُوهُ أَحَدٌ سُبْحَانَ الْحَيِّ الْعَظِيمِ

تفنی میں لینے والا۔ پاک ہے جو عالی و غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں ہوتا۔ پاک ہے حی عظیم

سُبْحَانَ الْحَقِّ الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ سُبْحَانَ

پاک ہے برحق خداوند صاحب عزت اور کریم۔ پاک ہے عزیز و حکیم۔ پاک ہے

رَبِّ كُلِّ مَوْمِنٍ وَكَافِرٍ سُبْحَانَ مَنْ يَضَعُ مِنْ هَيْبَتِهِ الْحَوَامِلُ مَا

رب ہر مومن اور کافر کا۔ پاک ہے وہ کہ گرا دیتی ہیں اس کی ہیبت سے حمل والیاں

فِي بَطُونِهَا سُبْحَانَ الْقَادِرِ الْمُقْتَدِرِ الْكَرِيمِ إِلَّا كَرَمِ سُبْحَانَ

اپنے حملوں کو۔ پاک ہے صاحب قدرت۔ صاحب اقتدار۔ کریم جو سب سے بڑا کریم ہے۔ پاک ہے





الْجَلِيلِ الْأَعْظَمِ سُبْحَانَ مَنْ عَادَ فَقَهَرَ سُبْحَانَ الْمُطَّلِعِ عَلَى

جلالت والا جو سب سے عظیم ہے۔ پاک ہے وہ جس نے اعراض کیا پس قہر کا نشانہ بنایا پاک ہے جو مطلع ہے

مَنْ خَافَ وَخَسِرَ سُبْحَانَ الَّذِي بَسَطَ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ طُولًا

خوفزدگان اور ارباب نقصان پر۔ پاک ہے وہ جس نے پھیلا یا ساتوں آسمانوں کو طول اور

وَعَرْضًا سُبْحَانَ الَّذِي سَطَحَ الْأَرْضَ وَأَطَّلَعَ الْكَوَاكِبَ وَ

عرض میں۔ پاک ہے جس نے زمین کو بچھوٹا بنایا اور ستاروں کو طلوع کیا اور

أَظْهَرَهَا سُبْحَانَ الَّذِي أَرَسَى الْجِبَالَ فِيهَا سُبْحَانَ الْعَلِيِّ

ظاہر کیا۔ پاک ہے جس نے پہاڑوں کو مضبوط و مستحکم کیا اس میں۔ پاک ہے علی عظیم

الْعَظِيمِ سُبْحَانَ الْجَلِيلِ الْحَلِيمِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَصِفُ الْوَاصِفُونَ

پاک ہے جلیل حلیم۔ پاک ہے وہ کہ نہیں بیان کر سکتے اس کی حمد و ثنا، کرنیوالے

كُنْهَ صِفَاتِهِ وَهُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا سُبْحَانَ

اس کی صفات کی حقیقت کو اور وہی غیب کا علم رکھنے والا ہے پس نہیں غلبہ دیتا اپنے غیب پر کسی کو اور کسی دیکھ رہے کو پاک ہے

الْمُلْتَجِبِ بِنُورِ جَمَالِهِ سُبْحَانَ الْمَصُورِ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ

وہ جو شور آفاق ہے (آفاق میں) اپنے نور جمال کے ساتھ۔ پاک ہے ارحام میں صورت گری کرنے والا حسب منشاء

سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ شَانُكَ سُبْحَانَكَ سَيِّدِي مَا أَعْلَى مَكَانُكَ

پاک ہے تو کس قدر عظیم ہے شان تیری۔ پاک ہے تو اے میرے آقا کتنا بلند ہے مرتبہ و مقام تیرا

وَسَيِّدِي أَرْحَمُ بِخَلْقِكَ سُبْحَانَ مَنْ يَرْزُقُ كَيْفَ يَشَاءُ سُبْحَانَ

اے میرے آقا اپنی مخلوق پر رحم فرما۔ پاک ہے جو رزق دیتا ہے جیسے چاہے۔ پاک ہے

مَنْ يَرْزُقُ وَلَا يَرَى سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ لَهُ الْخَلَائِقُ أَجْمَعُونَ سُبْحَانَ

جو رزق دیتا ہے اور دیکھا نہیں جا سکتا۔ پاک ہے وہ جن کے لیے سبھی مخلوق تسبیح کہتی ہے۔ پاک ہے وہ جو

مَنْ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ سُبْحَانَ مَنْ يَرْزُقُ السَّمَاءَ سُبْحَانَ الْجَوَادِ الْمَفْضَلِ

رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ پاک ہے جو رزق دیتا ہے (اہل) اسماء کو۔ پاک ہے صاحب جود اور صاحب فضل

سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ لَهُ الطَّيْرُ فِي أَوْكَارِهَا سُبْحَانَ الَّذِي هُوَ رَازِقُ الطَّيْرِ

پاک ہے جس کی تسبیح کرتے ہیں پرندے اپنے گھونسلوں میں۔ پاک ہے جو پرندوں کا روزی رساں ہے

يَا رَحِيمَ سُبْحَانَ الَّذِي هُوَ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى سُبْحَانَ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ سُبْحَانَ

اے رحیم پاک ہے وہ جو بلند مرتبت بالاتر ہے۔ پاک ہے سمیع و علم۔ پاک ہے وہ

الْمُحْتَجِبِ مَنْ خَلَقَهُ سُبْحَانَ رَبِّنَا وَتَعَالَى سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ

جو بالاتر ہے مخلوق کے وہم و گمان سے پاک ہے رب ہمارا اور بالاتر ہے۔ پاک ہے میرا رب عظیم۔ پاک ہے

رَبِّي الْأَعْلَى سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ سُبْحَانَ

میرا رب اعلیٰ پاک ہے شہنشاہ جو سراسر تقدس ہے۔ پاک ہے صاحب ملک۔ پاک ہے

ذِي الْعِزَّةِ وَالْعُظْمَى وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْجَلَالِ وَالْجَبَالِ وَالْكَمَالِ وَ

مالک عزت و عظمت اور ہیبت و قدرت کا اور جلال و جمال اور کمال و

الْبِقَاءِ وَالْتِنَاءِ وَالضِّيَاءِ وَالْإِلَاءِ وَالتَّعْبَاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوتِ سُبْحَانَ

بقا اور تناء و ضیاء کا اور مالک ظاہری اور باطنی نعمتوں کا اور بڑائی و تسلط و غلبہ کا۔ پاک ہے

الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَكُلِّ مَخْلُوقٍ حَيٍّ وَيَمُوتُ وَهُوَ يَنْتَقِلُ

وہ شہنشاہ زندہ و پائندہ جس پر موت نہیں آسکتی اور ہر مخلوق حیات سے تنصیف ہے اور موت سے بھی اور وہ منتقل

مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ سَيِّدُ الْوَرَىٰ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہوتی ہے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف۔ سب مخلوق کے سردار۔ اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو خوبصورت

الصَّفْحِ الْجَمِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

انماز میں درگزر کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعَطَاءِ الْجَزِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

جو بہت بڑی جزاء کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعِزِّ الْمُنِيِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد کی آل پر جو محفوظ عز و جاه والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَالتَّشْرِيعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب صاحب شریعت ہیں اور احکام شرع کو نافذ کرائے۔ اے اللہ

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوَسِيْلَةِ وَالْفَضِيْلَةِ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو وسیلہ اور بزرگتر مقام کے مالک ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعِلَافَةِ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مخصوص امتیازی علامت والے ہیں

وَالدِّيَانَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور دیانت والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو

صَاحِبِ الْوِلَايَةِ وَالْعِنَايَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

صاحب ولایت و تصرف ہیں اور صاحب شفقت اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصِّفَاتِ الْحُسْنٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

جو محبوب حسین صفات والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبَهَاءِ وَالسَّنَاءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر جو محبوب رونق اور روشنی والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَاحِبِ الْحُجَّةِ وَالْقُرْبِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

جو حجت و برہان والے ہیں اور مقرب۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الدِّينِ وَالْعَوَائِدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

جو بانی ہیں دین و مذہب کے اور مرتب منافع کے مالک۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقُرْآنِ اَمِيْنٍ بِرِسَالَتِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

کی آل پر جو محبوب صاحب قرآن ہیں اور امین ہیں احکام رسالت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَشَّرَهُ بِرَتْلِ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا تَعْلِيمًا

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ساتھ اس قول کے "مٹھ مٹھ کر پڑھو قرآن مجید کو بطور ترتیل کے

بِهِ لِقِرَائَتِكُمْ تَقْرِيْبًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

واسطے تعلیم دینے اس کی قراءت کی تمہیں بقدر امکان۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي قَالَ زَيْنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس محبوب نے فرمایا مزین کر دو قراءت قرآن کو اپنی مترنم آوازوں کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

صَاحِبِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو حقیقی مفسر قرآن ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

صَاحِبِ تَشْهِيْرِ الْفُرْقَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محبوب فرقان کو مشہور و معروف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَاحِبِ الْهُدَايَةِ وَالرِّشَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

جو محبوب ہدایت و رشد کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرَّحْمِ بِالْعِبَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

جو محبوب اپنے غلاموں پر رحم فرمائے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ ظَهْرَةِ الْبَدَنِ وَالرُّوحَانِيَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پر جو محبوب بدنی اور روحانی تطہیر کا سامان کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ هِدَايَةِ الْجَنَّةِ وَالْإِنْسِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب جنت و انس کے ہادی ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ دَارِ السَّلَامِ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مالک ہیں جنت کے (بازن اللہ) اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ بَيْتِنَا الْعِظَامِ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مالک ہیں عظمتوں والے شہر کے۔ اے اللہ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ مَدِينَةِ السَّلَامِ

صلوٰۃ نازل فرمائی کہ محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں سلامتی والے شہر کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْهُدَايَةِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرمائی کہ محمد پر اور آپ کی آل پر جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف

فی اللہِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمُنَهَاءِ

رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات نازل فرمائی کہ محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب نہایت و غایت تک

فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

پہنچنے والے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اے اللہ صلوات نازل فرمائی کہ محمد پر اور آپ کی آل پر جو مالک ہیں

الْفَنَاءِ فِي اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

مقام فنا فی اللہ کے۔ اے اللہ صلوات نازل فرمائی کہ محمد پر اور آپ کی آل پر جو مالک ہیں

الْبِقَاءِ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مقام بقا باللہ کے۔ اے اللہ صلوات نازل فرمائی کہ محمد پر اور آپ کی آل پر کہ پیدا

خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ إِنْسَانٍ أَسْكَلَ عَلَى شَكْلِهِ وَهُوَ بِأَقَامَةِ الْإِفِّ وَ

فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ان کی شکل پر منمشکل کر کے جبکہ وہ الف کی سیدھ میں ہے حالت قیام میں اور

بِإِجْلَاسِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لفظ محمد کی صورت، حالت قعود میں۔ اے اللہ صلوات نازل فرمائی کہ محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

صَاحِبِ اللَّطِيفَةِ الْقُدْسِيَّةِ الْمَكْسُورَةِ بِالْأَكْسِيَّةِ الْمُنُورَةِ التُّورَانِيَّةِ

جو لطیفہ قدسیر کے مالک ہیں جو ملبوس ہے منور و نورانی پردوں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَرْمَلِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرمائی کہ محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد صحراؤں کی

الصَّحَارَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ریت کے ذرات کے، اے اللہ صلوات و سلام نازل فرمائی کہ محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

عَدَدِ ثَقَلِ الْجِبَالِ وَالْأَجَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مطابق ثقل و وزن پہاڑوں اور پتھروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالتَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور آپ کی آل پر اہل جنت اور اہل نار کی تعداد کے مطابق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ الْأَبْرَارِ وَالْفُجَّارِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر نیکو کاروں اور فاجروں کی تعداد کے مطابق۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ مَا نَزَلَ مِنْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ان نطرات کے جو نازل ہوئے

أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَىٰ آخِرِهَا مِنْ قَطْرِ الْأَمْطَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ابتداء کائنات سے انتہا تک برسے والی بارشوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ مَا نَبَتْ مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَىٰ آخِرِهَا

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد اگنے والے نباتات اور اشجار کے

مِنَ النَّبَاتِ وَالْأَشْجَارِ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

دُنْيَا کی ابتداء سے انتہا تک ایسی صلوٰۃ جو دائم ہو اللہ کے ملک کے دوام کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ مَا خَلَقْتَ وَمَا نَتَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق شماران کے جو تو پیدا فرما چکا اور جو

خَالَقَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پیدا فرمائے گا قیامت تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مَبْنِيَّةً وَ

سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد اس مخلوق کے جو پیدا فرمائی آسمان کی چھت بنانے سے قبل اور

الْأَرْضُ مَدْحِيَّةً وَالْجِبَالُ مَرْسِيَّةً وَالْعَيُونُ مَنفَجْرَةٌ وَالْأَنْهَارُ

زمین کافرش بچھانے اور پہاڑوں کے گاڑنے اور چشموں کے پھوٹنے اور دریاؤں کے جاری



مَنْهَرَةٌ وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةٌ وَالْقَمَرُ مُضِيئًا وَالْكَوَاكِبُ مُسْتَبِيرَةٌ وَ

ہونے اور سورج کے روشن ہونے اور چاند کی نور افشانی اور کواکب کی تابانی اور سمندروں کی

إِبْحَارٌ مُجْرِيَةٌ وَالْأَشْجَارُ مُتَهَرَّةٌ لِلَّهِمْ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

روانی اور درختوں کی بار آوری سے قبل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَحْمَدُكَ وَيَشْكُرُكَ وَيَهْلِكُكَ وَيَبْجِدُكَ وَيَشْهَدُ

آل پر مطابق شمار ان کے جو تیری حمد اور شکر اور تہلیل و تمجید کریں گے اور گواہی دیں گے

أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کہ تو ہی اللہ ہے کہ نہیں مبود برحق مگر اللہ۔ پاک ہے صاحب کبریا بلند مرتبت لا الہ الا اللہ

سُبْحَانَ الْقَاضِي الْحَاجَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پاک ہے حاجات کا پورا کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے رحمن رحیم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّي

لا الہ الا اللہ پاک ہے مالک عرش عظیم کا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے میرا رب

الْأَعْلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْبُرْهَانَ السُّلْطَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّمِيعِ

اعلیٰ لا الہ الا اللہ پاک ہے سراسر دلیل محکم اور تسلط و علمبر۔ لا الہ الا اللہ پاک ہے سميع

الْبَصِيرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيمِ

و بصیر لا الہ الا اللہ پاک ہے یکتا صاحب قہر۔ لا الہ الا اللہ پاک ہے علیم

الْحَكِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّتَّارِ الْغَفَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحْمَنِ

و حکیم لا الہ الا اللہ پاک ہے پردہ پوش۔ بختیے والا۔ لا الہ الا اللہ پاک ہے غایت رحمت والا

الدَّيَّانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْكَبِيرِ الْأَكْبَرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلِيمِ

بہت جزاء دینے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب کبریا جو سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاک ہے صاحب علم دائم اور

الْعَلَّامِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الشَّافِي الْكَافِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّمَدِ الْوَاحِدِ

بہت بڑے علم والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے شفاء کا مالک۔ کفایت کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ پاک ہے بے نیاز۔ یکتا۔







بَيِّدَهُ الْخَيْرَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْيَهُ الْمَصِيرُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ

اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر شئی پر کامل دسترس رکھتا ہے۔ اور اسی کی طرف باز گشت ہے، وہی سب سے اول۔ سب سے آخر

الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ

سب سے زیادہ ظاہر اور سب سے زیادہ مخفی ہے اور وہی ہر چیز کا ذاتی علم رکھنے والا ہے۔ نہیں ہے اس کی مانند کوئی شئی وہی

الْبَصِيرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَمِيدِ الْمَجِيدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَكِيمِ

سننے دیکھنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے لائق حمد۔ بزرگی والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب حکمت

الْقَدِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَادِرِ السَّاتِرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّمِيعِ

بالغہ۔ بے ابتداء۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب قدرت پروردہ پرورش۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے سننے

الْعَلِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَلَّامِ

جاننے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے غنی عظمت والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے بہت علم والا

السَّلَامِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ النَّصِيرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ

سراسر سلامتی۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے شہنشاہ مددگار۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے غنی غایت

الرَّحْمَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَرِيبِ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

رحمت والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے نیکیوں کو قریب کرنے والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے

الْوَلِيِّ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّبُورِ السَّاتِرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

نیکیوں کا مالک۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے بہت بردبار پروردہ پرورش۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک

الْخَالِقِ النُّورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْمُعْجِزِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

عدم سے وجود کی طرف لانے والا۔ سراسر نور۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے غنی جو عاجز دینے بس کر سکتے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک

الْفَاضِلِ الشَّكُورِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْقَدِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

صاحب فضل اور جزائے شکر والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے غنی قدیم۔ لا الہ الا اللہ

سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ الْمُبِينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْخَالِصِ الْمَخْلُصِ

پاک ہے جلال مبین والا۔ لا الہ الا اللہ۔ پاک ہے صاحب خلوص اور خالص کرنے والا



لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّادِقِ الْوَعْدِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَقِّ

لا اِلاَ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ پاک ہے سچے وعدے والا۔ لا اِلاَ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ۔ پاک ہے جو سراسر حق

الْمُبِينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ ذِي الْقُوَّةِ الْمَتِينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

واضح ہے۔ لا اِلاَ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ۔ پاک ہے غیر متزلزل قوت والا۔ لا اِلاَ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ۔ پاک ہے

الْقَوِي الْعَزِيزِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّتَّارِ الْعَيُوبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ

قوی عزیز۔ لا اِلاَ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ۔ پاک ہے عیبوں کو چھپانے والا۔ لا اِلاَ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ۔ پاک ہے

ذِي الْغَفْرَانِ الْمُسْتَعَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا

غفران کا مالک مدد چاہا ہوا۔ لا اِلاَ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ۔ پاک ہے مالک تمام جہانوں کا۔ لا اِلاَ اِلٰہَ اِلَّا

اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحْمَنِ السَّتَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الرَّحِيمِ الْغَفَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللّٰہُ پاک ہے نہایت رحمت والا۔ پردہ پوش۔ لا اِلاَ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ۔ پاک ہے دائمی رحمت والا مغفرت فرمایا والا۔ لا اِلاَ اِلٰہَ اِلَّا

اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْحَقِّ الْوَكِيلِ الْعَلِيِّ

اللّٰہُ۔ پاک ہے عزیز مہربان فرمانے والا۔ لا اِلاَ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ۔ پاک ہے حق تعالیٰ۔ کارساز۔ بلند شان

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْأَوَّلِ الْقَدِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْأَوَّلِ الْأَخِيرِ

لا اِلاَ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ۔ پاک ہے جو سب سے اول۔ بے ابتداء ہے۔ لا اِلاَ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ۔ پاک ہے جو سب سے اول اور سب سے آخر ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ

اے اللّٰہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد ان صلوات کے

عَلَيْهِ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جو ان پر بھیجیں تو نے اور تیرے تمام ملائکہ نے۔ اے اللّٰہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ

آل پر مطابق تعداد ان لوگوں کے جنہوں نے درود بھیجا ان پر تیری مخلوق میں سے اور جنہوں نے درود نہیں بھیجا۔ اے اللّٰہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْجِبَالِ وَالرِّمَالِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد۔ پہاڑوں۔ ریت کے دانوں



وَالْحَصَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اور نکلویں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر درختوں

الشَّجَرِ وَأَوْرَاقِهَا وَالْمَدَارِ وَاتَّقَالِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور ان کے پتوں کی گنتی اور ٹوہیلوں اور ان کے وزن و ثقل کی مقدار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ وَمَا تَخَلَّقَ فِيهَا وَمَا يَمُوتُ فِيهَا اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر تمام سالوں اور ان میں پیدا ہونے والوں اور مرنے والوں کی تعداد کے مطابق۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَخَلَّقَ كُلَّ يَوْمٍ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر مطابق تعداد اس مخلوق کے جو پیدا فرماتا ہے ہر

وَمَا يَمُوتُ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

دن اور جو مرنے سے ہر دن قیامت تک کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

سیدنا محمد کی آل پر مطابق تعداد ان بادلوں کے جو چلتے ہیں آسمانوں و زمین کے درمیان۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ اللہ۔

وَاللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا

واللہ اکبر کہتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا۔ نہیں معبود برحق مگر میں اور میں

أَكْبَرُ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ

کبریائی کا مالک ہوں۔ اور جب بندہ کہے "لا الہ الا اللہ وحدہ" تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا نہیں معبود برحق

إِلَّا أَنَا وَحْدِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي

مگر میں تنہا۔ اور جب بندہ کہے "لا الہ الا اللہ لا شریک لہ" تو فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَا شَرِيكَ لِي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

نہیں معبود برحق مگر میں۔ نہیں کوئی شریک میرا۔ اور جب کہے "لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد"

قَالَ صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا إِلَى الْمَلِكِ وَلِي الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

فرماتا ہے سچ کہا میرے بندے نے نہیں معبود برحق مگر میں میرا ہی ہے ملک اور میں ہی سزاوار حمد ہوں اور سب کے لا الہ الا اللہ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ صَدَقَ عَبْدِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا لِي سُبْحَانَ

لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا نہیں قوت اور طاقت مگر ساتھ میرے۔ پاک ہے

اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ

اللہ اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے۔ تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی مخلوق کی

اللَّهُ رَضِيَ نَفْسَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ بِمَا دَاكَ كَلِمَاتِهِ

تعداد کے مطابق تسبیح ہے اللہ کے لیے اس کی خوات کی رضا مندی کے مطابق۔ تسبیح ہے اللہ کے لیے عرش کے وزن کے مطابق۔ تسبیح ہے اللہ کی اس کے

سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کلمات کی روشنائی کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُسَبِّحُكَ وَيُهَلِّدُكَ وَيُكَبِّرُكَ وَيُعْظِمُكَ وَيُبِحِّدُكَ

کی آل پر مطابق ان کے جو تیسری تسبیح و تہلیل۔ تحمیر و تعظیم۔ تمجید و تحمید

وَيُبِحِّدُكَ وَيُكَبِّرُكَ وَيُحَدِّدُكَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ

اور تحمیر و خدمت۔ بحالانے ہیں۔ پاکیزگی بیان کرنے ہیں اللہ کی اور اس کی حمد سے متنبس ہیں۔ پاک ہے اللہ شہنشاہ

سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ سُبْحَانَ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ سُبْحَانَ

جبار۔ پاک ہے واحد قہار۔ پاک ہے عزیز و غفار۔ پاک ہے کبیر متعال۔ پاک ہے

خَالِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سُبْحَانَ الَّذِي كَانَ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ وَهُوَ شَدِيدُ

خالق رات اور دن کا۔ پاک ہے وہ جو ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا اور وہ سخت

الْحَمَالِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

عذاب اور عقاب والا ہے۔ پاک ہے اللہ اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے اور نہیں

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ سُبْحَانَ رَبِّيَ

طاقت اور نہ قوت مگر ساتھ اللہ بلند شان عظیم کے۔ پاک ہے رب میرا جو بلند مرتبت اور بالاترین اور عطا کرنے والا ہے۔ پاک ہے رب میرا

الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْكَرِيمِ الْوَهَّابِ سُبْحَانَكَ مَا عِبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

جو بلند شان بالاترین اور عطا کرنے والا ہے پاک ہے تو نہیں عبادت کی ہم نے جیسے کہ حق عبادت کا ہے۔

سُبْحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ سُبْحَانَكَ مَا ذَكَّرْنَاكَ حَقَّ ذِكْرِكَ

پاک ہے تو نہیں پہچانا ہم نے تجھے جیسے کہ حق پہچاننے کا ہے۔ پاک ہے تو نہیں ذکر کیا ہم نے تیرا جیسے کہ حق ذکر کرنے کا

سُبْحَانَكَ مَا شَكَرْنَاكَ حَقَّ شُكْرِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

ہے۔ پاک ہے تو۔ میں شکر کیا ہم نے تیرا جیسے کہ حق شکر کرنے کا ہے۔ پاک ہے تو اے اللہ اور تیری حمد سے تنہا ہیں اور بابرکت ہے نام تیرا

وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ شَأْنُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ سُبْحَانَ يَا ذَا الْهَيْبَةِ وَالْعُظْمَةِ

اور بلند و بالا ہے بزرگی تیری اور بزرگتر ہے شان تیری اور نہیں معبود برحق سوا تیرے۔ پاک ہے تو اے مالک عظمت اور ہیبت کے۔

سُبْحَانَ يَا ذَا الْوَحْدَةِ وَالْكَثْرَةِ سُبْحَانَ ذِي شَانٍ فَوْقَ شَانٍ سُبْحَانَ

پاک ہے تو اے وحدت و کثرت کے مالک۔ پاک ہے ذیشان جس کی شان بلند ہے ہر شان سے۔ پاک ہے

مَنْ أَوَّلُهُ عِلْمٌ وَآخِرُهُ حِلْمٌ سُبْحَانَ مَنْ لَا أَوَّلَ لَهُ وَلَا آخِرَ لَهُ سُبْحَانَ

وہ کہ جس سے پہلا طور علم کا ہے اور آخری طور برد باری کا ہے۔ پاک ہے وہ کہ جس کی ذات کی نہ ابتداء ہے اور نہ انتہاء۔ پاک

الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ

شہنشاہ مقدس۔ پاک ہے ملک ظاہر اور ملک باطن کا مالک۔ پاک ہے مالک عزت

وَالْعُظْمَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْجَلَالِ وَالْجَبَالِ وَالْكَمَالِ وَالْبِقَاءِ وَ

عظمت کا۔ قدرت و ہیبت۔ جلال و جمال۔ کمال و بقاء کا اور

الشَّأْنِ وَالضِّيَاءِ وَالْإِلَاءِ وَالنَّعْمَاءِ وَالْكَبِيرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ

شہنشاہ و ضیاء اور ظاہری و باطنی نعمتوں اور کبریاء و جبروت کا۔ پاک ہے شاہنشاہ

الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ سُبْحَانَ قُدُّوسٍ رَبَّنَا وَرَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

جو زندہ و پائندہ ہے جو نہ سوتا ہے اور نہ اس پر موت آسکتی ہے۔ بہت بے عیب۔ بہت مقدس۔ رب ہمارا اور رب ملائکہ اور روح

سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَزَلْ رَبًّا رَحِيمًا وَلَا يَزَالُ كَرِيمًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ

کا۔ پاک ہے وہ جو ہمیشہ سے ہے رب رحیم اور ہمیشہ رہے گا کریم۔ نہیں معبود برحق مگر اللہ بردبار



الْكَرِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ

صاحب جود دائم۔ پاک ہے اللہ اور بابرکت ہے اللہ مالک ساتوں آسمانوں اور مالک عرش

الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَزَلْ كَانَ كَمَا هُوَ الْأَنْ

عظیم کا اور حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ پاک ہے وہ کہ ہمیشہ سے اسی طرح ہے جیسے کہ اب ہے

سُبْحَانَ مَنْ لَا يَزَالُ يَكُونُ كَمَا هُوَ الْأَنْ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَتَغَيَّرُ فِي ذَاتِهِ وَلَا

پاک ہے وہ جو ہمیشہ اسی طرح رہے گا جیسے کہ وہ اب ہے۔ پاک ہے وہ کہ نہیں تغیر قبول کرتی ذات اس کی اور نہ

فِي صِفَاتِهِ وَلَا فِي أَسْمَائِهِ حُدُوثَ الْأَكْوَانِ وَالْأَلْوَانِ سُبْحَانَ الدَّائِمِ الْقَائِمِ

صفات اور نہ اسماء اس کے مانند حدوث و تغیر کے جو مخلوقات اور رنگتوں میں ہے۔ پاک ہے وہ جو دائم و قائم ہے

سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ هُوَ الَّذِي يَمِيتُ الْخَلَائِقَ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

پاک ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے نہیں مرے گا۔ وہی ہے جو مارے گا تمام مخلوق کو اور وہ زندہ ہے میں مرے گا

سُبْحَانَ الْأَوَّلِ الْمَبْدِيِّ سُبْحَانَ الْأَخِرِ الْبَاقِي سُبْحَانَ مَنْ يُسَلِّي قَبْلَ أَنْ يُسْئَلِي

پاک ہے اول جو ابتدا میں ایجاد کرنے والا ہے۔ پاک ہے آخر جو باقی رہنے والا ہے۔ پاک ہے جو موسم سے پہلے اس کے کوئی

سُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ لَهُ وَلَا نِدَّ وَلَا ضِدَّ لَهُ بَلَا رَبِّ اللَّهُمَّ

موسم ہو۔ پاک ہے وہ کہ اس کا نہ شریک ہے اور نہ وزیر نہ مد مقابل اور نہ مخالفت ہے اس کے لیے یقیناً۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ وَنَذِيرِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب نیکو کاروں کو نثارت دینے والے ہیں اور شرکین

الْمُشْرِكِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَلَاصَةً

کو ڈرانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب خلاصہ

الْكُونِينَ وَفُرْشِدِ الثَّقَلَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کونین ہیں اور جن و انس کے مرشد و ہادی ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هَادِي السَّبِيلِ وَقَاتِلِ الْكُفَّارِ الْعَتَلِ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْكُفْرَةَ

آل پر جو محبوب ہادی ہیں سبیل نیر کے اور قاتل ہیں مغرور و متکبر کفار کے۔ اے اللہ لعنت فرما کفار پر



الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيَكْفُرُونَ بِرُسُلِكَ وَيَقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ

جو روکتے ہیں تیری راہ سے اور جھٹلاتے ہیں تیرے رسولوں کو اور جنگ کرتے ہیں تیرے دوستوں کے ساتھ

اللَّهُمَّ خَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزَلَ أقدَامَهُمْ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ بِأَسْكَ الَّذِي

اے اللہ مخالفت پیدا فرما باہم ان کے کلمہ میں اور متزلزل کر ان کے اقدام اور نازل فرما ان پر اپنا عذاب شدید جو

لَا تَرُدُّعَنِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

دور نہیں کیا جا سکتا مجرم لوگوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور ان کی

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَا يَنْطِقُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل پر جن کی زبان پر نہیں جاری ہوتا مگر جو وحی کیا جاتا ہے طرف ان کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ قَامَ اللَّيْلَ بِأَمْرِ رَبِّهِ الْجَلِيلِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو رات بھر قیام کرتے رہے اپنے رب جلیل کے امر سے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ جَاءَ لِلْأَمْرِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی طرف آئے ہر چھوٹے

الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ إِلَيْهِ جَبْرَيْلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور بڑے امر کے لیے حضرت جبرئیل۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ هَاجَرَ بِأَمْرِ رَبِّهِ لِشَرِّ الْكُفَّارِ الذَّلِيلَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے ہجرت فرمائی اپنے رب کے امر سے بسبب ذلیل کفار کی شرانگیزی سے۔ اے اللہ

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ لَمْ يَتَعَلَّمْ حَرْفًا وَعَلِمَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے نہیں پڑھا ایک حرف (کتب میں) اور جان لیا

مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ماکان و ما یكون کو یعنی جو ہو چکا اور جو ہونا ہے قیامت تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ جَمَعَ اللَّهُ اسْمَهُ بِاسْمِهِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ اللَّهُمَّ رَبِّ

کی آل پر جس محبوب کے اسم گرامی کو اللہ نے اپنے مقدس نام کے ساتھ ملا دیا ہے اذان و اقامت میں۔ اے اللہ اس

هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةَاتِ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ ابْنِ مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ

کامل واکل دعوت (اعتقاد و عمل) کے اور قائم ہونے والی نماز کے عطا کر محمد کو مقام وسیلہ و فضیلت

وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَنِي وَأَمْرُنَا

اور بلند تر درجہ اور قائم فرما ان کو مقام محمود میں جس کا تو نے انہیں وعدہ دیا ہے اور نصیب فرما ہمیں ان کی شفاعت

شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخَلِّفُ الْبَيْعَادُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

قیامت کے دن۔ بیشک تو وعدہ کا خلاف نہیں کرتا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن ضَمَّ إِلَيْهِ بِاسْمِهِ فِي الْوُجُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کا نام نامی اللہ نے اپنے اسم گرامی کے ساتھ ملا دیا ہے لوح

الدَّحْفُوظِ لِلشَّرَفِ وَالْكَرَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

محفوظ میں ان کے شرف اور کرامت کے اظہار کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن أَمَرَهُ اللَّهُ بِالذِّكْرِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

سیدنا محمد کی آل پر جنہیں اللہ نے حکم دیا ہے ذکر کرنے کا صبح و شام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن أَمَرَهُ اللَّهُ بِالسُّجُودِ وَالتَّسْبِيحِ لَيْلًا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہیں اللہ نے حکم دیا ہے سجدہ و تسبیح کا شب

طَوِيلًا سُبْحَانَ مَنْ هُوَ بِأَقْسَبِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَفْنَى سُبْحَانَكَ يَا مَنْ تَقَدَّسَ

دراز میں۔ پاک ہے جو ہمیشہ باقی ہے۔ پاک ہے جو فنا نہیں ہوگا۔ پاک ہے تو اے کہ مقدس ہے

عَنِ الْأَشْبَاهِ ذَاتُكَ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ تَنْزَعُ عَنْ مُمْتَابِهِ الْأَمْثَالَ صِفَاتُهُ

مشابہہ و نظیر سے ذات اس کی۔ پاک ہے تو اے کہ منزہ ہے امثال کی مشابہت سے صفات اس کی۔

وَسُبْحَانَكَ يَا مَنْ شَهِدَتْ بِرُبُوبِيَّتِهِ مَصْنُوعَاتُهُ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ دَلَّتْ عَلَيَّ

پاک ہے تو اے کہ گواہی دی ہے اس کی ربوبیت کی اس کے مصنوعات نے۔ پاک ہے تو ایک دلالت کرتی ہیں اس کی

وَحَدَايَتِهِ آيَاتُهُ سُبْحَانَكَ يَا وَاحِدًا لَمْ يَلِدْ قَلَّةٌ سُبْحَانَكَ يَا مُوجِدٌ مِنْ

وحدانیت پر آیات اس کی۔ پاک ہے تو ایک یکتا ہے نہ بسبب قلت کے۔ پاک ہے تو موجود ہے





غَيْرِ عِلَّةٍ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ هُوَ بِالْبُرِّ مَعْرُوفٌ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ هُوَ بِالْإِحْسَانِ

بغیر علت وجود کے۔ پاک ہے تو ایک ساتھ نیکی کے معروف ہے۔ پاک ہے تو ایک ساتھ احسان کے

مَوْصُوفٌ سُبْحَانَكَ يَا مَعْرُوفٌ بِبَلَاغِيَةِ سُبْحَانَكَ يَا مَوْصُوفٌ بِبَلَاغِيَةِ

موصوف ہے۔ پاک ہے تو اے کہ معروف ہے بغیر کسی غایت و انتہا کے۔ پاک ہے تو ایک موصوف ہے (ساتھ کمالات) بغیر کسی

سُبْحَانَكَ يَا أَوَّلُ قَدِيمٍ بِبَلَاغِيَةِ سُبْحَانَكَ يَا آخِرُ كَرِيمٍ بِبَلَاغِيَةِ سُبْحَانَكَ

انتہا اور حد آخری کے۔ پاک ہے تو ایک اول و قدیم ہے بغیر ابتدا کے۔ پاک ہے تو ایک آخر ہے بغیر انتہا کے۔ پاک ہے تو

يَا مَنْ لَا يَنْسَبُ إِلَيْهِ الْبَنُونَ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا تُعِينُهُ تَزَايِدُ الْأَوْقَاتِ وَلَا

ایک نہیں نسبت کی جاسکتی طرف اس کے اولاد کی۔ پاک ہے تو ایک جس کی اعانت نہیں کر سکتا اوقات میں اضافہ اور نہ

تُهَيِّنُهُ السَّنُونَ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ كُلُّ الْمَخْلُوقَاتِ تَحْتَ قَهْرِ عَظَمَتِهِ وَأَمْرِهِ

اسے کمزور کر سکتے ہیں (گزرنے والے) سال۔ پاک ہے تو ایک تمام مخلوق اس کے قہر عظمت کے ماتحت ہے۔ اور امر و حکم اس کا

يَدِينُ الْكَافِرِينَ وَالنُّونَ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ يُدَكِّرُهُ أَنْسَ الْمَخْلُصُونَ سُبْحَانَكَ

کاف اور نون دن اے درمیان ہے۔ پاک ہے تو ایک اسی کے ذکر سے مانوس ہیں اہل اخلاص۔ پاک ہے تو

يَا مَنْ هَدَى لِأَهْلِ طَاعَتِهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سُبْحَانَكَ يَا مَنْ أَبَاحَ أَهْلَ

اے کہ جس نے ہدایت دی اہل طاعت کو صراط مستقیم کی۔ پاک ہے تو اے کہ مباح ٹھہرائیں جس نے اپنے اہل

مُحِبَّتِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ يَرَى حَرَكَةَ أَرْجُلِ الْعَمَلِ فِي اللَّيْلِ

محبت کے لیے جنات النعیم۔ پاک ہے تو اے کہ دیکھتا ہے چیونٹی کے پاؤں کی جنبش کو سخت تاریکی

الْبَهِيمِ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ يَعْلَمُ عَدَدَ أَنْفَاسِ الْمَخْلُوقَاتِ بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ

رات میں۔ پاک ہے تو اے کہ جانتا ہے تمام مخلوقات کے سانسوں کی تعداد اپنے علم قدیم کے ساتھ

سُبْحَانَكَ يَا مَنْ يُسَبِّحُهُ الطَّائِرُ فِي وَكْرِهِ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ يُبْجِدُهُ الْوَحْشُ

پاک ہے تو اے کہ تسبیح کہتے ہیں اس کی پرندے اپنے گھونسلوں میں۔ پاک ہے تو اے کہ بزرگی بیان کرتے ہیں اس کی

فِي قَفْرِهِ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ يُسَبِّحُهُ الْعَبْدُ فِي سِرِّهِ وَجَهْرَهُ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ

جھکی جاڑ اپنے ویرانوں میں۔ پاک ہے تو اے کہ تسبیح کہتا ہے اس کی ہر بندہ خفیہ اور علانیہ۔ پاک ہے تو اے کہ



هُوَ حَيُّ بِعَمَلِ الْمُؤْمِنِينَ بِنَائِدِهِ وَنَصِيرِهِ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ تَطْمِينُ

میں طے ہے اہل ایمان کے ہر عمل کو اپنی تائید و نصرت کے ساتھ۔ پاک ہے تو اسے کہ اطمینان پاتے ہیں

الْقُلُوبُ الْوَجَلَةَ بِذِكْرِهِ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا سُبْحَانَكَ

خوفزدہ دل اس کے ذکر سے۔ پاک ہے تو اسے کہ جس نے احاطہ کر رکھا ہے ہر شئی کا از روئے علم کے۔ پاک ہے

يَا مَنْ غَفَرَ ذُنُوبَ الْمُذْنِبِينَ كَرَمًا وَحِلْمًا سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ

تو اسے کہ جس نے بخشا گناہگاروں کے گناہوں کو از روئے کرم اور بردباری کے۔ پاک ہے تو اسے کہ نہیں مانند اس کے

شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ الْعِزَّةُ إِلَّا يَا سُبْحَانَ الَّذِي

کوئی شئی اور وہی ہے سنتے دیکھنے والا۔ پاک ہے وہ کہ نہیں عزت حقیقی دائمی مگر اسی کے لیے۔ پاک ہے وہ جس نے

تَعَطَّفَ الْكُرْمَ وَتَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي خَيْرُ الْمَجْدِ وَالْمَجْدُ وَدِبْهُ سُبْحَانَ

کرم و عنایت کو اپنا یا اور اسی سے اس کی بزرگی نمایاں ہوئی۔ پاک ہے وہ کہ سب سے بہتر بزرگی والا ہے اور اسی کے ذریعے بزرگ ترین مانا ہے

الَّذِي يَنْبَغِي لَهُ التَّسْبِيحُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مُتَوَاتِرًا دَائِمًا مِنَ الدَّهْرِ إِلَى الدَّهْرِ

پاک ہے وہ کہ اسی کے لائق ہے تسبیح میں مہمور رہتی ہونا منحصر ہے دراصل لیکر وہ تسبیح متواتر اور دائم ہے زمانہ کی ابتداء سے انتہاء تک

بِأَلْوَانِ التَّسْبِيحِ خَالِصًا لِدُرِّكَ وَضِيَاءً بِنَاصِعِ التَّوَجُّيدِ وَإِخْلَاصِ

ساتھ ہر قسم کی تسبیحات کے خالص تیرے ذکر کے لیے اور روشنی حاصل کرتے ہوئے خالص توجیہ۔ کامل

التَّغْرِيدِ وَالْمُحَاضِ التَّحْمِيدِ بِطُولِ التَّعْبُدِ وَالتَّعْبِيدِ لَمْ تَعْنُ فِي قُدْرَتِكَ

تغریب اور مکمل تحمید کے ساتھ ساتھ دلازی تعبد اور غلامی و نیاز مندی کے۔ تو نہیں اعانت کیا گیا اپنی قدرت میں

وَلَمْ تُشَارِكْ فِي الْهَيْبَةِ وَلَمْ تُعَلِّمْ لَكَ مَا يَبْدُو وَمَاهِيَةٌ فَتَكُونُ لِلْأَشْيَاءِ

اور نہیں مشارکت کیا گیا اپنی الوہیت میں اور نہیں جانی گئی واسطے تیرے بیچو گئی کیفیت اور نہ ماہیت تاکہ تو ہو کے مختلف اشیاء

الْمُخْتَلِفَةِ مَجَانِسًا وَلَمْ تُعَايِنَ إِذَا حُبِسَتْ الْأَشْيَاءُ عَلَى الْغَرَائِمِ الْمُخْتَلِفَاتِ

کے لیے ہمجنس اور نہیں مشاہدہ کیا گیا تیرا جبکہ روکی گئیں اشیاء مختلف ذمہ داروں اور ضمانتوں پر (کی جواب طلبی) پر

وَلَا تُحْرِقُ الْأَوْهَامَ حَجَبِ الْغُيُوبِ إِلَيْكَ فَاعْتَقِدْ مِنْكَ مُحَدِّدًا فِي عَظَمَتِكَ

اور نہیں بھاڑتے اوہام غیب کے حجابات کو تیری طرف توجہ کے وقت تاکہ میں اعتقاد رکھ سکوں تیری عظمت میں



وَلَا يَبْلُغُكَ بَعْدَ الْهَمِّ وَلَا يَنَالُكَ غَوْصُ الْفِطْنِ وَلَا يَنْتَهِي إِلَيْكَ بَصَرُ

کسی حد و نہایت کا اور نہیں پہنچتا تجھ تک بعید ترین ہمتیں۔ اور نہیں پاسکتی تجھے فطانت کی گرائی اور نہیں پہنچتی تجھ تک دیکھنے

الْمُتَظَرِّينَ فِي مَجْدِ جَبْرُوتِكَ إِرْتَفَعَتْ عَنْ صِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ صِفَاتُ

والوں کی نگاہ تیری جبروتی بزرگی کی وجہ سے۔ بالاتر ہیں مخلوقات کی صفات و ثناء سے تیری صفات قدرت

قُدْرَتِكَ وَعَنْ ذِكْرِ الدَّاكِرِينَ كِبْرِيَاءُ عَظَمَتِكَ فَلَا يَنْتَقِصُ مَا أَرَدْتَ

اور اہل ذکر کے ذکر سے تیری کبریائی عظمت پس نہیں نقصان پذیر ہو سکتا جس کے بڑھنے کا تو ارادہ کرے

أَنْ يَزِدَّ أَدَا وَلَا يَزِدَّ أَدَمَا أَرَدْتَ أَنْ يَنْتَقِصَ وَلَا أَحَدٌ شَهْدَاكَ حِينَ

اور نہیں بڑھتا جس کے نقصان کا تو ارادہ فرمائے اور نہ کسی نے تیرا مشاہدہ کیا جبکہ

فَطَرْتَ الْخَلْقَ وَلَا نَدَا وَلَا ضَدًّا حَضَرَكَ حِينَ بَرَأْتَ النُّفُوسَ كَلَّتْ

تو نے مخلوق کو پیدا کیا اور نہ کوئی مخالفت اور نہ مقابل تیرے سامنے موجود تھا جبکہ تو نے نفوس کو پیدا فرمایا۔ تنگ ہو چکی ہیں

الْأَلْسُنُ عَنْ تَفْسِيرِ صِفَتِكَ وَأَنْحَسَرَتِ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِكَ

زبانیں تیری صفت کی تفسیر سے اور تنگ چکے ہیں عقول تیری حقیقت کی معرفت سے

وَكَيْفَ يُوصَفُ مَعْرِفَتِكَ وَصِفَتِكَ يَا رَبِّ وَأَنْتَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ

اور کیسے کی جا سکتی ہے تیری تعریف اور توصیف اے رب جبکہ تو اللہ ملک جبار

الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الَّذِي لَمْ تَزَلْ أَرْزُلِيَا أَبَدِيًّا سَرْمَدِيًّا دَائِمًا فِي

قدوس اور سراسر سلامتی ہے جو ہمیشہ رہا ازلی ابدی سرمدی دائمی طور پر

حُبِّ الْغُيُوبِ وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ وَلَمْ يَكُنْ

غیب کے پردوں میں جتنا ہے تیرا شریک نہیں ہے۔ نہیں ان پردوں میں کوئی سوا تیرے اور نہیں

لَهُ سِوَاكَ حَارَتْ فِي بَحَارِ مَمْلُوكَتِكَ أَفْكَارُ ذَوِي التَّبْصِيرِ وَتَحَيَّرَتْ

اس کا اہل ماسوا تیرے۔ حیرت زدہ ہیں تیری سلطنت قاہرہ کے سمندروں میں ارباب بصیرت کے افکار اور سرگردان

فِي جَبْرُوتِكَ عَمِيقَاتُ مَذَاهِبِ التَّفْكِيرِ وَتَوَاضَعَتِ الْمُلُوكُ لِهَيْبَتِكَ

ہیں تیری شان جبروت کی گہرائیوں میں راہیں عقل و فکر کی اور سرا گلندہ ہیں شمشاہ تیری ہیبت کی وجہ سے

وَعَدَّتِ الْوَجُوهَ بِدَلَّةِ الْإِسْتِكَانَةِ لِعِزَّتِكَ وَأُنْقَادَ كُلِّ شَيْءٍ لِعِظَمَتِكَ

اور جھکے ہیں چہرے مسکنت اور محتاجی کے ساتھ تیری عزت و غلبہ کے سامنے اور فرمانبردار ہے ہر شئی تیری عظمت کی وجہ سے

وَأَسْتَسْلِمُ كُلُّ شَيْءٍ لِقَضَائِكَ وَبِقُدْرَتِكَ وَخَضَعْتُ لَكَ الرَّقَابُ

اور تسلیم کر لیا ہے ہر شئی نے تیری قضاء اور قدرت کو۔ اور جھکی ہیں تیرے لیے سب گروہیں

وَكُلُّ دُونَ ذَلِكَ تَجْبِيرٌ بِتَجْبِيرِ اللُّغَاتِ وَضَلَّ هُنَالِكَ التَّدْبِيرُ فِي

اور سبھی کے لیے بغیر اس کے چارہ نہیں ہے ساتھ خبر دئے جانے لغات اور لہجوں کے اور گم گشتہ راہ مقصود ہے وہاں پر تدبیر

تَصَارِيفِ الصِّفَاتِ فَمَنْ تَفَكَّرَ فِي ذَلِكَ رَجَعَ طَرَفُهُ خَاسِئًا حَسِيرًا

تیری صفات کے تصرفات میں پس جو فکر کرے گا ان میں لوٹے گی نگاہ اس کی بے نیل مرام ٹھکی ہاری

وَعَقْلُهُ مَبْهُوتًا وَتَفَكُّرُهُ مَتَحِيرًا أَسِيرًا اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ لَا قَابِضَ

اور عقل حیران و مبہوت اور سوچ و فکر اس کی ہیرت زدہ جکڑی ہوئی۔ اے اللہ تیرے ہی لیے ہے حمد تمام تر تیریں قبض

لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطٍ لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَنْ أَضَلَّتْ وَلَا مُضِلَّ

کرنے والا اس کا کوئی بھی جس کو تو پھیلائے اور نہیں پھیلانے والا اس کا کوئی بھی جسے تو تنگ اور محدود کر دے نہیں ہادی اس کا جسے

لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُقْرَبَ

تو گمراہ کرے اور نہیں گمراہ کرنے والا۔ اے جس کو تو ہدایت دے اور نہیں عطا کر تو لا کوئی جو تو روک لے اور نہ روکنے والا جو عطا کرے نہ قرب کرنے والا

لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعِدٍ لِمَا قَرَّبْتَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا وَإِنَّمَا

جسے دور کر دے اور نہ دور کرنے والا جسے قرب سے سرفراز کرے۔ اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے بہت زیادہ۔ و اعم

مُتَقَارِبًا مُتَوَالِيًا مُتَوَاتِرًا مُتَضَاعِفًا مُتَسَقِمًا مُسْتَوْثِقًا يَدُومٌ وَلَا يَبِيدُ

مسل۔ پے در پے۔ متواتر۔ روز افزوں با ہم مرتبط اور مستحکم و مضبوط جو ہمیشہ رہے اور کبھی ختم نہ ہو

غَيْرِ مَفْقُودٍ فِي الْمَلَكُوتِ وَلَا مَطْمُوسٍ فِي الْمَعَالِمِ وَلَا مُنْتَقِصٍ فِي

سبھی جہان میں کہیں معدوم نہ ہو اور نہ بے نور و بے نشان ہو اپنے مقامات علم میں۔ اور نہ کم ہونے والی ہو

الْعُرْفَانِ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَكَارِمِكَ الَّتِي لَا تُحْصَى فِي اللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ

عرفان و آگہی میں پس تیرے ہی لیے حمد ہے تیری ان بزرگیوں پر جن کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا رات میں جبکہ پیٹھ

وَالصُّبْحُ إِذَا اسْفَرَوْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَارِ وَالْعُدُودِ وَالْأَصَالِ وَالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

پہرے اور نہ صبح میں جب روشن ہو اور نہ برد بحار میں نہ صبحوں اور شاموں میں

وَالظَّهيرة وَالْأَسْحَارِ وَفِي كُلِّ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّهُمَّ لَكَ

نہ پچھلے پہرول اور اگلے پہرول میں اور نہ دوپہروں اور سحرول میں اور نہ ہی رات اور دن کے اجزا میں سے کسی جز میں۔ اے اللہ تیرے لیے

الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرًا مِّمَّا نَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا وَوَلَكَ

یہی حمد ہے جیسے کہ تو فرماتا ہے اور اس سے بہتر جو ہم کہتے ہیں۔ اے اللہ تیرے لیے حمد ہے بطور اور ایسی نیکو کے اور تیرا ہی

الْمِنَّةُ فَضْلًا اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَوَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ وَوَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ

احسان ہے بطور فضل و کرم کے۔ اے اللہ تیرے لیے حمد تمام تر۔ اور شکر تمام تر تیرا ہی ہے ملک بھل طور پر

وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَدَكَ

تیری ہی ہے مخلوق سبھی۔ تیرے ہاتھ میں ہی ہے خیر سبھی اور تیری طرف ہی راجع ہیں امور تمام کے تمام پس تیرے ہی لیے ہے

الْحَمْدُ عَلَى مَا لَا اسْتِطَاعَةَ أَحْصَاءَهُ وَلَا تَعْدِيدَهُ مِنْ عَوَائِدِ فَضْلِكَ

حمد ان نعمات پر جن کے احاطہ اور گنتی کی میں استطاعت نہیں رکھتا یعنی تیرے فضل کے منافع

وَعَوَائِفِ رِزْقِكَ وَالْوَانِ مَا أَوْلَيْتَنِي بِهِ مِنْ رِّفْدِكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ

تیرے رزق کے عطیات اور مختلف اقسام کے عطا کردہ تحائف پر۔ پس بیشک تو ہی اللہ

اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْفَاشِي فِي الْخَلْقِ حَمْدُكَ وَالْبَاسِطُ بِالْجُودِ

ہے کہ نہیں مبعود برحق مگر تو۔ عام ہے مخلوق میں حمد تیری اور کشادہ ہے ساتھ جو درود نوال کے

يَدُكَ وَلَا تُضَادُّ فِي حُكْمِكَ وَلَا تُتَارَعُ فِي سُلْطَانِكَ وَمُلْكِكَ وَأَمْرِكَ وَ

ہاتھ تیرا نہیں مقابلہ کیا جا سکتا تیرے حکم میں اور نہیں نزاع کیا جا سکتا تیری سلطنت اور ملک اور امر میں اور

تَمْلِكُكَ مِنَ الْأَنْامِ مَا تَشَاءُ وَلَا يَهْدِيكَ مِنْكَ إِلَّا مَا تَرِيدُ اللَّهُمَّ لَكَ

تو مالک ہے مخلوق میں اسی کا جو چاہے اور نہیں مالک تجھ سے مگر اسی کی جو تو چاہے۔ اے اللہ تیرے لیے

الْحَمْدُ وَإِلَيْكَ الْمَشْتَكِي وَبِكَ الْمُسْتَعَانُ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَالْأَحْوَلُ

حمد ہے اور تیری طرف ہی شکایت ہے عم روزگار کی اور تجھ سے فریادری کی درخواست ہے اور تو ہی طلب الاعانت ہے اور نہیں

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا اَدْبَابُ مَعَدَّوَامِكَ وَوَلَكَ

طاقت اور قوت مگر ساتھ تیرے۔ اے اللہ تیرے ہی لیے ہے حمد جو دائم ہو تیرے دوام کے مطابق اور تیرے ہی لیے ہے

اَلْحَمْدُ حَمْدًا اَخَالِدُ اَمَعَ خُلُودِكَ وَوَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا اَلَا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ

حمد جو ہمیشہ کے لیے ہے تیرے خلود کے مطابق اور تیرے ہی لیے ہے حمد جس کی انتہاء نہیں تیری

مَشِيَّتِكَ وَوَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا اَدْبَابًا لَا يَرِيْدُ قَائِلُهُ اِلَّا رِضَاكَ وَوَلَكَ الْحَمْدُ

مشیت کے بغیر اور تیرے ہی لیے ہے حمد دائمی کہ نہیں ارادہ کرتا اس کا ادا کرنے والا مگر تیری رضا کا اور تیرے ہی لیے ہے

حَمْدًا اَعْتَدَ كُلُّ طَرْفَةٍ عَيْنٍ وَتَنْفَسٍ كُلِّ نَفْسٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ

حمد ہر آنکھ چھیننے کے وقت اور ہر سانس لینے کے وقت۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

اَلْحَمْدَ بِاسْتِقَامَةِ التَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّحْمِيْدِ بِتَحْمِيْدِكَ اَلْحَمْدُ وَ

توفیق حمد کا ساتھ درستگی تسبیح و تہلیل کے اور لائق حمد بننے کا بسبب تیری حمد بجا لانے کے اور

التَّهْلُلُ بِتَهْلِيْلِكَ وَالتَّكْبِيْرُ بِتَكْبِيْرِكَ الْكَبِيْرُ وَالتَّكْمِلُ بِتَكْمِيْلِكَ الْاَكْمَلُ

نورانی بننے کا بسبب تیری تہلیل کے اور بڑا بننے کا بسبب تجھ کبیر کی کبر بانی بیان کرنے کے اور کامل بن جانے کا ساتھ تیرا کمال اکمل بیان

وَاَلْاَكْبَارُ بِتَكْبِيْرِكَ الْاَكْبَرُ وَالتَّعْظُمُ بِتَعْظِيْمِكَ الْعُظِيْمُ وَالتَّوْبُوْرُكَ

کرنے کے اور بڑائی کا بسبب تیری بڑائی بیان کرنے کے اور عظمت کا بسبب تیری عظمت عظیمہ بیان کرنے کے اور نور کا بطفیل تیرے نور انور کے

اَلْاَنْوُرُ وَالرَّءْفُ بِرَأْفَتِكَ الرَّءْفَةُ وَالرَّحْمُ بِرَحْمَتِكَ الرَّحْمَةُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور رافت کا بسبب تیری رافت کامل کے اور رحم کا بطفیل تیری رحمت کامل کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرَّدِّ اِنَّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب چادر اورھنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْاِزَارِ اِنَّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب تمہد باندھنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصِّدْقِ وَالتَّصْدِيْقِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب خود سچے ہیں اور حق کی تصدیق کرنے والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب صاحب

النُّوَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

انوار ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

الْخِلاَفَةِ الْعُظْمَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

خلافت عظمیٰ کے مالک ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْأَسْبَقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پر جو محبوب افضل ترین مقام کے مالک ہیں۔ لے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّرَايَا وَالْعَطَايَا وَالْغُرُورِ وَالْجِهَادِ وَالْمَغْنَمِ وَ

آل پر جو محبوب شکروں والے ہیں اور عطیات والے غزوات و جہاد والے ہیں اور غنائم اور

الْمُقْسِمِ وَالْحَبِيبِ وَالْحَلِقِ وَالْتَلْبِيَةِ صَاحِبِ الصَّفَا وَالْمُرُودِ صَاحِبِ

ان کی تقیسات والے۔ حج و حلق والے ہیں اور تلبیات والے صفا و مرود والے ہیں اور

رَمِي الْجَمْرَاتِ وَصَاحِبِ الْوُقُوفِ بِالْعَرَفَاتِ صَاحِبِ الْبُودَانِ وَ

رمی جمرات والے۔ عرفات میں پھرنے والے ہیں ولدان اور

الْحُورِ وَالْغُرْفِ وَالْقُصُورِ وَاللِّسَانِ الشُّكُورِ وَالْقَلْبِ الْمَشْكُورِ وَ

حوروں والے ہیں اور محلات اور بالا خانوں والے ہیں۔ شکر گزار زبان اور لائق شکر دل اور

الْعِلْمِ الْمَشْهُورِ وَالْبَيْنِينَ وَالْبَنَاتِ صَاحِبِ الرَّأْيِ الْمَنْصُورِ وَالْبَدَنِ

مشہور پرچم والے۔ بیٹوں اور بیٹیوں والے۔ منصور و غالب رائے والے ہیں اور بہت

الصَّبْرِ وَالْإِسْمِ الْمَذْكُورِ صَاحِبِ الزَّمْرِمِ وَالْمَقَامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

بردار بدن والے اہرزبان پر اور ہرزمان میں انوکھے کئے جانے والے نام والے ہیں اور زمزم مقام البرہیم اور مشعر حرام

صَاحِبِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَاحِبِ السُّلْطَانِ وَصَاحِبِ الْقُدْحِ وَالرُّكُوتِ وَ

والے۔ شہر رمضان والے اور عظیم سلطنت و تصرف والے ہیں پیالے اور چھاگل والے۔



صَاحِبِ الْجِسْمِ الطَّاهِرِ وَالْكَرِيمِ الظَّاهِرِ صَاحِبِ الْقَلْبِ الْقَنُوعِ وَ

پاک جسم اور غالب کرم والے ہیں تقاعد پیشہ اور صاحب

الْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ صَاحِبِ اللَّفْظِ الرَّجِيزِ وَالْجَاهِ الْجَرِيضِ صَاحِبِ

خضوع و خشوع قلب والے - محقر الفاظ اور جامع معانی والے اور عظیم مرتبہ والے

الْعُرْضِ الْمَبْصُورِ وَالسِّرِّ الْمَكْنُونِ صَاحِبِ الْيَوْمِ الْأَزْهَرِ اللَّهُمَّ

مخفوظ عزت اور مخفی لازوں والے اور روشن ترین دن والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ قَابِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرمائیے محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب اللہ تعالیٰ سے دو ہاتھ

قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کی مقدار بلکہ اس سے بھی زیادہ قرب والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرمائیے محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرِّيَاسَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پر جو آقا صاحب ریاست (ظاہرہ و باطنہ) ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرمائیے محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ دَنِي فَتَدَلِّي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل پر جو محبوب "دنی فتدلی" کے قرب والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرمائیے

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَنَافِعِ الْمَجْمُوعِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مجتمع منافع والے ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحُجَّجِ الْقَطْعِيَّةِ

و سلام نازل فرمائیے محمد پر اور آپ کی آل پر جو قطعی دلائل والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرمائیے محمد پر اور آپ کی آل پر جو

الْأَسْمَاءِ وَالْمَسْبِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اسماء و مسبیات کے عالم و ماک ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرمائیے محمد پر اور آپ کی





سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّحْمِيدَاتِ الَّتِي لَا نَهَايَةَ لَهَا اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

آل پر جو ایسی حمدوں کے مالک ہیں جن کی حدود و غایت نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے

فِي بِلَادِكَ وَصَنِيْعِكَ اِلَى خَلْقِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ فِي بِلَادِكَ وَصَنِيْعِكَ

تیری نعمتوں پر اور مخلوق کے ساتھ بھلائیوں پر اور تیرے ہی لیے حمد ہے تیرے انعام پر اور بھلائیوں پر

اِلَى اَهْلِ بِيُوْتِنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ فِي بِلَادِكَ وَصَنِيْعِكَ اِلَى اَنْفُسِنَا

جو ہمارے گھرانوں پر ہیں اور تیرے ہی لیے حمد ہے تیری نعمت پر اور احسان پر جو خصوصاً ہماری ذاتوں پر ہے اور تیری

خَاصَّةً وَ لَكَ الْحَمْدُ بِمَا هَدَيْتَنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ بِمَا اَكْرَمْتَنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ

حمد ہے بسبب تیری ہدایت کے اور تیرے ہی لیے حمد ہے بسبب تیرے اکرام کے اور تیری حمد ہے بسبب تیری پروردگاری کے اور

بِمَا سَتَرْتَنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ وَ لَكَ الْحَمْدُ بِالْاَهْلِ وَالْمَالِ وَ لَكَ الْحَمْدُ

تیری حمد ہے بسبب قرآن (عطا کرنے) کے اور تیری حمد ہے بسبب اہل و مال (عطا کرنے) کے اور تیری حمد ہے

بِالْمَعَاوَةِ وَ لَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى وَ لَكَ الْحَمْدُ اِذَا رَضِيتَ يَا اَهْلَ التَّقْوَى

عفو و درگزر پر اور تیری حمد ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور تیرے ہی لیے حمد ہے جب کہ تو راضی ہو جائے اے اہل تقویٰ

وَ اَهْلَ الْمَغْفِرَةِ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ مَا حَمَدْتَّ بِهِ نَفْسَكَ وَ حَمْدَكَ

اور مالک مغفرت۔ اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے مثل اس کے جو تو نے اپنی آپ کی ہے۔ اور حمد

بِهِ الْحَامِدُونَ وَ مَجْدَكَ بِهِ الْمُبَجِّدُونَ وَ كِبْرَكَ بِهِ الْمَكْبُرُونَ وَ هَلْلَكَ

کرنے والوں نے کی ہے۔ اور تیری بزرگی بیان کی ہے اہل تجحید نے اور کبریائی بیان کی اہل تجحیر نے اور تمہیل کی ہے

بِهِ الْمَهْلِكُونَ وَ وَحْدَكَ بِهِ الْمُوَحِّدُونَ وَ قَدْرَكَ بِهِ الْمُقَدِّرُونَ وَ

تیری اہل تمہیل نے اور وحدانیت بیان کی ہے اہل توحید نے اور پاکیزگی بیان کی ہے اہل تقدیس نے اور

عَظَمَكَ بِهِ الْمُعْظِمُونَ وَ سَبَّحَكَ بِهِ الْمُسَبِّحُونَ حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ مِثْرُ

عظمت بیان کی ہے اہل تعظیم نے اور تسبیح کسی ہے اہل تسبیح نے حتیٰ کہ ہو تیرے لیے صرف میری طرف سے

وَ حُدَى وَ اَحَدُكَ فِي كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ اَوْ اَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حَمْدًا مِثْلَ

اتنی حمد (چرچائیکہ ہر ہر فرد کائنات سے) اور حمد کروں تیری ہر طرف آنکھ بھینکنے کی مقدار میں بلکہ اس سے بھی زیادہ مثل حمد

حَمْدُ جَمِيعِ الْعَامِدِينَ وَتَوْحِيدُ اصْنَافِ الْمَوْحِدِينَ وَالْمُخْلِصِينَ

تمام حمد کرنے والوں کے اور تمام مخلصین و موحدین کی توحید کے اور

وَتَقْدِيسِ اجْناسِ الْعَارِفِينَ وَثَنَاءِ جَمِيعِ الْمَهْلِيِّينَ وَالْمُصَلِّينَ وَ

تمام عارفین کی تقدیس کے اور تمام اہل تہلیل اور ارباب صلوات و

الْمَسْبُوحِينَ وَمِثْلَ مَا أَنْتَ بِهِ رَبُّ عَالَمٍ عَارِفٌ وَأَنْتَ مُحَمَّدٌ وَحُبُّ

تسبیح کی ثناء کی مانند اور مثل ان کلمات کے جن کے ساتھ منصف ہو کر توب اور عالم و عارف ہے اور محمد و محبوب

وَمَحْجُوبٌ مُّحْتَجِبٌ مِّنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ مِّنَ الْحَيَوَانَاتِ وَ

اور مخفی ہے اور بالاتر ہے بوجہ نورانیت کے نگر خلق کی رسائی سے جاندار ہوں یا

النباتات والجادات والبرایا وأسئلك إلهي بسرائلك وأرغب

نباتات اور جمادات و دیگر مخلوقات اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے میرے الہ تیرے شایان حاجات و مطالب کا اور

إليك في بركة ما أنطقني به من حمدك فما أيسر ما كلفتني به من

رحمت کرتا طواف تیری بیسب تیری حمد کی برکت کے جس کے ساتھ تو نے مجھے ناطق فرمایا پس کس قدر قلیل ہے نسبت

حَقِّكَ وَأَعْظَمَ مَا وَعَدْتَنِي بِهِ عَلَى شُكْرِكَ ابْتَدَأْتَنِي بِالنِّعَمِ فَضْلاً

تیرے حق کے جس کا تو نے مجھے مکلف ٹھہرایا اور کس قدر عظیم ہے وہ انعام جس کا تو نے وعدہ دیا ہے شکر کرنے پر۔ ابتدا میں دین نعمتیں از روئے

وَطَوَّلاً وَأَمَرْتَنِي بِالشُّكْرِ حَقّاً وَعَدَلًا وَعَدْتَنِي عَلَيْهِ أضعافاً

فضل اور تقویت کے اور حکم دیا شکر گزاری کا از روئے استحقاق اور عدل کے جس پر وعدہ فرمایا کئی گنا بدلہ اور

مَزِيداً وَأَعْطَيْتَنِي مِنْ رِزْقِكَ إِخْتِيَاراً وَرِضَاءً وَسَأَلْتَنِي مِنْهُ شُكْرًا

مزید کا اور عطا کیا مجھے اپنے رزق سے اپنی پسند اور رضامندی کے مطابق اور طلب کیا اس کی وجہ سے معمولی

يَسِيرًا صَغِيرًا إِذْ نَجَّيْتَنِي وَعَافَيْتَنِي مِنْ جُهْدِ الْبَلَاءِ وَلَمْ تَسْلَمْ مِنِّي

اور قلیل شکر۔ جبکہ نجات اور عافیت بخشی سخت مشقت سے اور نہ سپرد کیا

لِسُوءِ قَضَائِكَ وَبَلَاءِكَ وَجَعَلْتَ مَلْبَسِي الْعَافِيَةَ وَأَوْلَيْتَنِي بِالْبَسْطَةِ

سوء قضاء اور محنت شاقہ کے اور بنایا عافیت کو میرا لباس اور عطا فرمایا

وَالرَّخَاءِ وَسَوَّعْتَ لِي فِي الدَّارِ بِنَ قَصْدِ الْفِعْلِ تَيْسِيرًا وَضَاعَفْتَ

اور سہولیات کا اور خوشگوار فرمایا میرے لیے دارین میں میاں زروی اور اعتدال علی کو ازینے تیسیر کے اور کئی کتاب لڑھایا

لِي أَشْرَفَ الْفِعْلِ وَالْمَزِيدَ مَعَ مَا وَعَدْتَنِي بِهِ مِنَ الْمَحَبَّةِ الشَّرِيفَةِ

میرے لیے اچھے فعل کو اور مزید عطا کیا بج اس محبت شریف کے

وَأَبَشَّرْتَنِي بِهِ مِنَ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ وَأَصْطَفَيْتَنِي بِأَعْظَمِ التَّيْبِينِ

جس کا وعدہ دیا مجھے اور بلند درجہ کے جس کی بشارت دی مجھے۔ اور منتخب فرمایا مجھے واسطے امتی ہونے کے تمام انبیاء

دَعْوَةً وَأَرْفَعَهُمْ دَرَجَةً وَأَفْضَلَهُمْ لِنَاشْفَاعَةٍ وَأَوْضَحَهُمْ حُجَّةً

سے عظیم تر دعوت والے اور سب سے بلند تر درجہ والے اور سب سے افضل ترین شفاعت اور واضح ترین محبت و

وَأَقْرَبَهُمْ مَنَزَلَةً مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَ

برہان والے اور قریب ترین منزلت و مقام والے نبی محمد کا رحمت نازل کرے اللہ تعالیٰ ان پر اور سلامتی اور تمام انبیاء

الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَ

اور مرسلین پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔ اللہ کے لیے حمد ہے مطابق تعداد اس کی مخلوق کے۔ اور

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مَلَأَ مَا فِي الْأَرْضِ

حمد ہے اللہ کی مطابق زمین و آسمان کے موجودات کے۔ اور حمد ہے اللہ کی مطابق زمین و آسمان کی

وَالسَّمَاءِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْطَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدُ كُلِّ شَيْءٍ

پری کے اور حمد ہے اللہ کی مطابق ان اشیاء کے جن کو محیط ہے کتاب اس کی اور حمد ہے اللہ کے لیے مطابق تعداد ہر شے کے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مَلَأَ كُلَّ شَيْءٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور حمد ہے اللہ کیلیے مطابق پری ہر شے کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الضَّرِيفِ الشَّرِيفِ وَعَالِي القَدْرِ الْبَنِيْفِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد کی آل پر جو مالک ہیں شرافت والے مقام کے اور بلند و بالا قدر و منزلت کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحُجْرَةِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب حجرہ والے

وَوَيْلٌ لِلنَّظَرَةِ وَعَظِيمِ الْفَطْرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور رحمت و عنایت کے مالک اور عظیم فطرت و اصلیت والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرَّوضَةِ الرَّكِيَّةِ الصَّفِيَّةِ الْهَيْبَةِ الرَّضِيَّةِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں پاکیزہ۔ چیدہ و پسندیدہ۔ خوش منظر روضہ کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَضْرَةِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مقدس بارگاہ والے

وَالْجَوْهَرَةِ الْبَاصِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور پر بصیرت جو ہر والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبُقْعَةِ الَّتِي فَاقَتْ الْجَنَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کی آل پر جو محبوب مالک ہیں اس قطعہ زمین کے جو جنات پر فوقیت رکھتا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَرْيَةِ وَالْخِطَابَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں بستی (مدینہ) کے اور خطابت کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرَّؤْفَةِ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو قرب منزلت کے مالک ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمْنَا رَسُولٍ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب سب سے بزرگتر رسول ہیں

صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ أَخْرَجَ رِزْقُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

شریعت کے مالک اور آخری رسول اور اللہ کے مال معزز ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبَعُوثِ وَالْجَنُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر جو محبوب افواج و عساکر والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ اللِّوَاءِ الْمُنِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب روشن پرچم والے ہیں۔ اے اللہ صلوات



وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْأَسْرَارِ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب صاحب اسرار ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّعْلِينِ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب صاحب تعلین ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْآيَاتِ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب صاحب آیات ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الدَّلَالِ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مختلف انداز میں رہنمائی فرماتے والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْإِشَارَاتِ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب اشارات والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْكِرَامَاتِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کرامات و کمالات والے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعَلَامَاتِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب واضح علامات و

الْبَاهِرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

انبیازات والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

الْبَيِّنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

واضح معجزات والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

الْخَوَارِقِ الْعَادَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مخارق عادات (معجزات) والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الصَّرَاعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پر جو محبوب تیری بارگاہ میں اُمت کیلئے ہزاری کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّيْفِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُرْبَةِ وَالْقُرْبَةِ وَ

آل پر جو محبوب صاحب سیف ہیں۔ اے اللہ ہم تیری پناہ ڈھونڈتے ہیں رنج و الم اور تکلیف سے اور

أَحْفَظُنِي يَا حَفِيفُ يَا وَكِيلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي

محفوظ فرما مجھے اے حفیظ۔ اے کارساز آگے سے۔ پیچھے سے اور دائیں

وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِي بِوَجُودِ شَهُودِ حَفِيفٍ حَفِظُونَهُ

و بائیں سے۔ اور اوپر سے اور نیچے سے بسبب موجود کرنے والوں اور محافظوں کے جو حفاظت کریں اس بندہ کی

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَأَعِيدْ نَفْسِي وَرُوحِي وَبَدَنِي وَأَهْلِي وَأَوْلَادِي وَمَالِي وَ

اللہ کے امر سے۔ اور میں پناہ میں دیتا ہوں اپنے نفس روح اور بدن نیز اہل و اولاد اور مال و

عِيَالِي وَمَا أُغْلِقْتُ عَلَيْهِ أَبْوَابِي وَأَحَاطَتْ بِهِ جُدْرَانِي وَجَمِيعَ مَا أَتَقَلَّبُ

عیال کو اور جو چیز میرے دروازے کے اندر آجائے اس کے بند ہونے پر اور جس کو محیط ہیں میری دیواریں اور وہ تمام نعمتوں

فِيهِ مِنْ نِعْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِحْسَانِهِ وَجَمِيعِ أُمُورِي وَخَوَاتِيمِ عَمَلِي بِاللَّهِ

اور احسانات اللہ کے جن میں میں گردش کر رہا ہوں اور تمام اپنے معاملات اور آخری اعمال کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں

وَبِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلْيَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ

اور اس کے اسماء حسنی اور صفات عالیہ کی پناہ میں ہر مخلوق کے شر سے اور رات میں وارد

طَارِقٍ إِذَا طَرَقَ قَلْبُ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ

ہونے والے ہر شر سے جبکہ وہ آجائے۔ فرما دیجئے میں پناہ طلب کرتا ہوں رب کے رب کی اس کی مخلوق کے شر سے

عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا

اور تاریخی پھیلانے والے کے شر سے جبکہ وہ ڈوب جائے اور گانٹھوں میں پھونکنے والے کے شر سے اور حاسد کے شر سے جبکہ

حَسَدٌ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ وَبَلَاءٍ وَأَفَةٍ وَعَاهَةٍ وَمِحْنَةٍ وَعِلَّةٍ وَ

حسد کے اور ہر شر والے شر سے اور ہر بلاء و آفت سے اور عیب و نقص۔ محنت اور بیماری اور

أَمْرَاضٍ وَأَسْقَامٍ وَالْأَلَمِ وَأَوْجَاعٍ وَمُصِيبَةٍ وَحَادِثَةٍ وَزَلْزَلَةٍ وَوَبَاءٍ

امراض و اسقام سے اور آلام و اوجاع سے۔ مصیبت و حادثہ اور زلزلہ و وباء سے

وَعَرِقٌ وَحَرَقٌ وَجُوعٌ وَعَطِشٌ وَغَمٌ وَهَمٌّ وَضَلَالَةٌ وَغَارَةٌ وَمَنْ

غرق ہونے - جلنے اور بھوک - پیاس اور غم و اندوہ اور گمراہی اور لوٹ مار اور

مصابب الدنیا و احزانہا و شدۃ فی الدارین و احترزت من جمیع

دنیا کے تمام مصائب اور غمگینیوں اور شدت و مشقت سے دارین میں اور پرہیز کیا میں نے اپنے تمام

اعدائی بوجہ الذی لا الہ الا هو الباقی بعد فناء خلقہ ایہا الہرید

اعدا سے بظہیر اس ذات کے کہ نہیں مبودر حق مگر وہی جو باقی رہتے والابے مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی اے ارادہ کرنے والے

بناسوء ایہا المحیی لنا شر ایہا المکید بنا اساءة انی اعود بالرحمن

برائی کا ساتھ ہمارے اے بھڑکانے والے ہمارے لیے عذاب برا اے مکر کرنے والے ساتھ برائی کے لیے میں اللہ رحمن کی پناہ طلب کرتا ہوں

منک ان کنت تقیاً استترت منک بستر النبوة والامان الذی ستر

تجھ سے اگر ہے تو خوف تھلا رکھنے والا - میں پردہ طلب کرتا ہوں تجھ سے ساتھ ستر نبوت کے اور امان خداوندی کے جس ساتھ اللہ تعالیٰ

اللہ بہ الانبیاء من الفراعنة جبرائیل عن یمینی ومیکائیل عن

نے چھائے رکھا انبیاء علیہم السلام کو وقت کے فرعونوں سے جبرائیل میرے دائیں ہو اور میکائیل میرے بائیں

یساری ومحمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم امامی والشیخ محی الدین

اور محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میرے سامنے ہوں اور شیخ محی الدین

الشیخ عبد القادر جیلانی میرے مقتدا اور امام ہوں اور اللہ تعالیٰ کفایت کرے مجھے میرے اعداء کی طرف سے

اللہم انی اعود بک من المقت والمسکنة واعوذ بک من مدک

اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیری ناراضگی سے اور مسکنت و فقر سے اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیرے عذاب سے

واعوذ بک من ذک والکفنی یا کافی یا شافی الانکار والاعداء والاسواء

اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں تیرے ٹھکرانے سے اور مجھے کفایت فرما لے کافی لے شفا عطا کرنے والے برے کاموں - دشمنوں اور بری

بعوائد فوانزلنا هذا القرآن علی جبل کرایتہ خاشعاً متصدعاً

عادات سے بظہیر منافع اور فرامد اس قول کے اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو البتہ دیکھتا تو اس کو خشوع کرنے اور ریزہ ریزہ ہونے



مَنْ خَشِيَ اللَّهَ يَأْخُذُ بِأَوَّلِ يَأْخِرِ يَظَاهِرُ بِبَاطِنِ يَأْقِدُ بِمُقِيمِ يَأْقُو بِمُقِيمِ

اللہ تعالیٰ کے خوف سے "اے اول۔ اے آخر۔ اے ظاہر۔ اے باطن۔ اے قدیم۔ اے دائم۔ اے مضبوط اور مستحکم۔ اور اولے

اِطْمَسُ بِطَلْسَمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شَرَّ سَوِيدٍ آءِ قُلُوبِ أَعْدَانِنَا

مٹا دے ہم اللہ الرحمن الرحیم کے بسم کی برکت سے اس شر کو جو ہمارے اور تیرے اعداء کے دلوں کی

وَأَعْدَانِكَ وَدُقْ أَعْنَاقَ رُءُوسِ الظَّالِمَةِ بِسُيُوفِ نَشَاتٍ قَهْرِكَ وَ

گمراہیوں میں ہے اور کچل دے ظالموں کے سرواڑوں کی گردنیں ساتھ اپنے قہر اور

سَطْوَتِكَ وَأَحْبَبْنَا بِحُبِّكَ الْكَثِيفَةَ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَقَدْرَتِكَ

سطوت کی کثرت و فراوانی والی تلواروں کے۔ اور پوشیدہ فرما ہمیں اپنے گاڑھے مجاہدات میں اپنی طاقت اور قوت اور

عَنْ لِحَظَاتٍ لِمَحَابَتِ لِمَعَاتِ أَبْصَارِهِمُ الضَّعِيفَةَ بِعِزَّتِكَ وَسَطْوَتِكَ

قدرت کے ساتھ ان اعداء کی کمزور نگاہوں کے دیکھنے اور چھکنے اور ان کی روشنی سے بطفیل اپنی عزت اور سطوت کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب خود استعمال

الْمَغْفِرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کرنے والے ہیں (دوران جنگ) اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَاحِبِ الْفَرَجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جو محبوب کشائش والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَوْلِ وَالْقَلَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى


آل پر جو محبوب مؤثر قول والے ہیں اور قلم علم والے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبَشِّرِنَا رَسُولِ صَاحِبِ الْبَيْتِ الْمُحَرَّمِ عَامِرِ كَعْبَةِ اللَّهِ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب ہمارے مبشر رسول ہیں۔ بیت حرام والے اور کعبۃ اللہ کو آباد فرمانے والے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب رکن





الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

(حجر اسود) اور مقام ابراہیم کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَوْقِفِ الْمُعْظَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پر جو محبوب عظمت والے موقف (مقام محمود) کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ نُورِ جُمَّلَةِ الْعَالَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ تمام عالم کے انوار کا سرچشمہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْوَرْدِ الْمُسْتَنِيمِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ مانوس گھاٹ رحمت کوثر کے مالک ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْجَنَّةِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ جنات نعیم

التَّيْمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَرَّهَانَ

والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ اصفیاء کیلئے

الْأَصْفِيَاءِ رَسُولِ صَاحِبِ الْوَحْيِ سَيِّدِ الْقَوْمِ عَرَبِيِّ يَتِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

برہان و دلیل ہیں صاحب وحی رسول ہیں۔ قوم کے سردار ہیں عربی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں (وہ) یتیم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْلَى مِنْ عِبَادِ اللَّهِ رَسُولٌ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ تمام بندگان خداوند تعالیٰ سے اس کے قریب تر ہیں۔ رسول

صَاحِبِ الدَّارَيْنِ خَادِمِ طَيْبِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دونوں جہان کے مالک۔ خادم ربارگاہ الوہیت اللہ کے ہاں طیب و پاکیزہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سُلْطَانِ الْأَنْبِيَاءِ رَسُولِ صَاحِبِ الْفُرْقَانِ مَدْرَنِيٌّ

اور آپ کی آل پر جو محبوب انبیاء کے بادشاہ۔ رسول صاحب فرقان۔ مدنی۔

لَكَيْ شُكْرُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سراج الأولیاء رسول صاحب الحلة والمیزان ابطحی قریب اللہ اللہم

جو محبوب اللہ کے دونوں کے لیے روشن چراغ۔ رسول۔ امتیازی پوشاک اور میزان والے ہیں بطن و کمر والے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ اے

صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اهل التقوی رسول

اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کر اہل تقوی۔ رسول۔

صاحب الطریقة شفاء فصیح اللہ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد

طریقت والے۔ سراپا شفاء اللہ کی طرف سے عطا کردہ فصاحت کے مالک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وعلی آل سیدنا محمد امنا بک انت نبینا رسول صاحب الحقیقة نظری

اور آپ کی آل پر۔ اے محبوب ہم آپ پر ایمان لائے تم ہمارے نبی۔ رسول صاحب حقیقت۔ قبیلہ مضر کے فرد

بشیر اللہ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد امام

اللہ کے بشیر بنا کر بھیجے ہوئے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب تمام

الامم رسول صاحب المعرفة برهان رحمة اللہ اللہم صل وسلم علی

امم کے امام۔ رسول صاحب معرفت اور اللہ کی رحمت کی برہان ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کبیرنا رسول صاحب الجنة ظاہر

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ہمارے بڑے بزرگ رسول۔ مالک جنت۔ ظاہر

کریم اللہ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی

اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے صاحب جو دو کرم کی اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

الدین صادقنا رسول صاحب القیمة ناطق شفیع اللہ اللہم صل

ہمارے سامنے دین کی صداقت بیان کرنے والے رسول۔ روز قیامت کے باذن اللہ مالک۔ ناطق بالحق۔ اللہ کی طرف سے شفیع بنائے ہوئے۔

وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فقیہنا رسول صاحب

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ہمارے سمجھانے والے رسول۔ صاحب

الصراط مبلغ عاقب اللہ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل

صراط۔ مبلغ۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ آخِرِ الزَّمَانِ رَسُولُ صَاحِبِ الْإِجْتِهَادِ مُنْتَقِمٌ مُكْرَمٌ

آل پر جو محبوب آخر الزمان نبی ورسول ہیں۔ صاحب اجتہاد۔ انتقام لینے والے (اللہ کے لیے) اللہ تعالیٰ کے ہاں

اللَّهُ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُشَفَّعٌ

صاحب تحريم و تنظيم۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کرانت کے شفیع

الْأُمَّةِ يُعِينُنَا بِالشَّفَاعَةِ رَسُولُ صَاحِبِ النَّبُوَّةِ مُحَرَّمُ نَبِيِّ اللَّهِ اللَّهُمَّ

بنائے جاچکے ہیں۔ ہماری امانت فرمائیں گے شفاعت کے ساتھ۔ رسول۔ صاحب نبوت۔ صاحب حرمت و احترام نبی خدا تعالیٰ۔ لے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِنْدُ الْعَاصِمِينَ

اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب سہارا ہیں گناہگاروں کی مغفرت و بخشش

رَسُولُ صَاحِبِ الْجَنَّةِ فَارِقُ جَهَنَّمَ سُلْطَانُ تَهَامِيٍّ مُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهُمَّ

کا۔ رسول۔ صاحب جنت۔ جہنم سے جدا اور دور کرنے والے۔ شاہنشاہ تمامہ والے اللہ کی توفیق سے ایمان دینے والے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْهَمَمِ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب بلند تر بہتوں والے

السَّمَائِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَاحِبِ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو محبوب علوم لدنیہ کے مالک ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَكَارِمِ وَالْجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب اعلیٰ اخلاق اور جو دلوال کے مالک ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقَبِيْضَةِ الْأَصْلِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ملک و ملک خداوند تعالیٰ پر اعلیٰ اور حقیقی قبضہ والے ہیں (بازن اللہ تعالیٰ) لے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبُهْجَةِ السَّنِيَّةِ اللَّهُمَّ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب اعلیٰ بہار اور رونق والے ہیں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الرَّتْبَةِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب بلند تر مرتبہ کے

الْعَلِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

مالک ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب مالک ہیں وہاں کے

الرُّبُعَةِ الْعُذْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مفقوت کے اذریچہ وہاں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَكَانَةِ الْعُلْيَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

پر جو محبوب بلند تر مرتبہ کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَنْزِلَةِ الرَّفِيعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ کی آل پر جو محبوب قریب ترین منزلت کے مالک ہیں (عند اللہ)۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعِلْمِ الْمَخْرُوجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں علم مخزون کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْأَمْرِ النَّافِذِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ نافذ اور مؤثر حکم والے ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْقُرْبَاتِ مِنَ التَّوَابِلِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب فرمتی اور نقلی عبادات

وَالْفَرَائِضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَاحِبِ الْوِلَايَةِ الصُّغْرَى وَالْكُبْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو محبوب کہ مالک ہیں ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ مَنْ يُطِيعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں اس مقام و منصب کے "جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی"۔ اے



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
بَابُ التَّوْبَةِ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ مَا أَنْتُمْ

اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو مالک ہیں اس منصب خلیل کے " جو دیں تمہیں

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأْتُوا اللَّهَ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَى

رسول علیہ السلام پس اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے باز رہو " لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَقِّ الرَّبَّانِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب حق ربانی و خاص کے مالک ہیں۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ وَلِيِّنا رَسُولُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر لے محبوب ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں آپ ہمارے مددگار

صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ بَاطِنِ خَلِيلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

رسول اور صاحب شفاعت۔ باطن اور اللہ کے خلیل ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتَ الْاَفْلاكَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں اس منصب کے "اگر آپ موجود نہ ہوتے تو میں افلاک پیدا نہ کرتا"

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَسَنِ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں اچھے اعمال کے اور

وَالْاِحْسَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بہترین کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

صَاحِبِ الذُّوقِ وَالشُّوقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جو محبوب ذوق و شوق والے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ مَا فَوْقَ الْفَوْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں بندے سے بلند تر کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ قِفِّ يَاحُ مُحَمَّدُ فَإِنَّ اللَّهَ يُصَلِّي

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کا یہ منصب ہے "ٹھہریے لے محمد کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر صلوات

عَلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

بیجھ رہا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ

هُوَ صَاحِبُ الْخَلْقِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

صاحب خلق عظیم ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب خیر و بھلائی اور بر و احسان والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ ابْنِي بَكْرٍ وَعُمَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مصاحب ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ عنہما۔ اے اللہ صلوات

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ عُثْمَانَ وَحَيْدَرَ ط

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب حضرت عثمان اور حضرت حیدر کر رضی اللہ عنہما کے مصاحب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب

الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

عرب و عجم کے مالک ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْفَقْرِ وَالرُّعْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آل پر جو محبوب صاحب فقر اور صاحب رعب ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّخَاوَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ کی آل پر جو صاحب سخاوت ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْيَقِينِ وَالتَّبَكُّيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب صاحب یقین اور صاحب تکلیف و تربت ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمُرُوَّةِ وَالْفَتْوَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مروت اور جو انوری والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ وَاحْفَظْنِي يَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ملک و ملکوت کے مالک ہیں اور محفوظ رکھے مجھے اے

مَوْلَايَ مِنْ أَقَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَا تَقْضُحْنِي يَا سَيِّدِي عَلَى رِعْوِي

میرے مولا دنیوی اور اخروی آفات سے اور مجھے رسوا نہ کرنا لے میرے آقا سب مخلوقات

الْخَلَائِقِ خَاصَّةً فِي يَوْمِ الْمَوْعُودِ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسُنْدِي أَمْ مَنْ ذَا الَّذِي

کے سامنے یوم موعود میں۔ لے میرے الہ۔ سردار اور سند و سہارے کون ہے دوسرا کہ جس سے

أَسْأَلُهُ وَأَنْتَ الرَّبُّ الْمَوْجُودُ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسُنْدِي إِلَىٰ مَنْ أَتَوَّجَّهُ وَأَنْتَ

سوال کروں میں حالانکہ تو پروردگار موجود ہے۔ لے میرے الہ۔ آقا اور سہارے کس کی طرف میں توجہ کروں۔

الْحَقُّ الْمَعْبُودُ يَا سَيِّدَ الْأَسْيَادِ إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسُنْدِي أَمْ مَنْ يُعْطِينِي

حالانکہ تو معبود برحق ہے لے سب آقاؤں کے آقا۔ لے میرے الہ اور آقا اور سہارے کون ہے وہ جو عطا کرے مجھے

وَأَنْتَ صَاحِبُ الْجُودِ يَا مَنْ إِذَا دُعِيَ أَجَابَ إِلَهِي أَنْ رَبِّكَ تُعَذِّبُنَا وَ

حالانکہ تو صاحب جود و عطا ہے ایک جب اس سے دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے۔ لے میرے الہ کیا ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ تو ہمیں عذاب دیگا

تُوحِيدِكَ فِي قُلُوبِنَا وَمَا أَخَالَكَ تَفَعَّلُ وَلَيْنُ فَعَلْتَ أَنْتَ جَمْعُ نَامِعِ قَوْمٍ

حالانکہ تیری توحید ہمارے قلوب میں ہے۔ میں نہیں خیال کر سکتا کہ تو ایسے کرے گا اور اگر تو ایسا کرے تو کیا ہیں اکٹھا کرے گا اس قوم

طَالَمَا بَغَضْنَا هُمْ لَكَ فَبِالْمَكْنُونِ مِنْ أَسْمَائِكَ وَمَا وَارَتْهُ الْحُجُبُ مِنْ

کے ساتھ کہ بسا اوقات ہم نے اس سے بغض رکھا تیری خاطر تو بطفیل اپنے اسم میں سے پوشیدہ اسم کے اور بطفیل اپنی نورانیت اور

بَهَائِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِهَذِهِ النَّفْسِ الْهَلُوعِ وَلِهَذَا الْقَلْبِ الْجَزُوعِ الَّذِي لَا

رونی کے جسے مجاہدات نے ہم سے اوجھل کر رکھا ہے مغفرت فرما اس حلیص نفس کے لیے اور بے صبر قلب کے لیے جو نہیں صبر کرتا

يَصْبِرُ لِحَرِّ الشَّمْسِ فَكَيْفَ يَصْبِرُ لِحَرِّ تَارِكِ يَا حَلِيمٌ يَا عَظِيمٌ يَا كَرِيمٌ يَا رَحِيمٌ

سُودِ كِي حَرَاتِ پَر تُو كَس طَرَح صَبْر كَرِي كَا تَبْرِي آگ كِي تَبَشِ پَر۔ لے حلیم۔ لے عظیم۔ لے کریم۔ لے رحیم

إِلَهِي أَنْتَ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنْتَ الَّذِي

لے میرے الہ تو ہی ہے کہ نہیں جس کی مانند کوئی شے اور جو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور تو ہی ہے

تَعْلَمُ السِّرَّ وَالْإِعْلَانَ وَمَا فِي الْقُلُوبِ إِلَهِي أَنْتَ الَّذِي تَعْفُو عَنِ الْمَعَاصِي

جو جانتا ہے مخفی اور علانیہ کو اور دلوں میں چھپی چیزوں کو۔ اے میرے اللہ تو ہی ہے جو عفو فرماتا ہے گناہوں کو

بَعْدَ أَنْ يَغْرُقَ فِي الدُّنُوبِ إِلَهِي أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ

بعد غرق ہوجانے بندوں کے اپنے گناہوں میں۔ اے میرے اللہ تو ہی ہے جس نے فرمایا ہے نہ ناامید ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنْتَ بِقَوْلِكَ

سے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بخشتا ہے تمام گناہ بیشک وہی بخشنے والا مہربان ہے اور تو اپنے قول میں

صَادِقٌ لَسْتَ بِمَكْدُوبٍ نَجِّنِي يَا اللَّهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ وَالْغَمِّ وَأَنْتَ

سچا ہے تیری طرف کذب کی نسبت نہیں کی جاسکتی۔ نجات دے مجھے اے اللہ عظیم کرب اور غم و اندوہ سے اور تو ہی

عِيَاثُ كُلِّ مَكْرُوبٍ وَمَصْرُوفٍ وَمَظْلُومٍ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

زیادرس ہے ہر دردمند اور مبتلائے حوادث اور مظلوم کا اور تو ہی ہر چیز پر مکمل قدرت والا ہے۔

إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ فِي ظُلْمَةِ الْقُبُورِ وَضِيْقَهَا إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ

اے میرے اللہ امان دینا۔ امان دینا قبروں کی تاریکیوں اور تنگیوں میں۔ اے اللہ امان دینا۔ امان دینا

عِنْدَ سُؤْلِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَهَيْبَتِهِمَا إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ عِنْدَ وَحْشَتِهِ

منکر و نکیر کے سوال کے وقت اور ان کی ہیبت و وحشت کے موقع پر۔ اے اللہ امان دینا۔ امان دینا قبر کی

الْقُبُورِ وَشِدَّتِهَا إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ فِي يَوْمِ كَانَ مَقْدَرُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

ہولناکی اور شدت کے وقت۔ اے میرے اللہ امان دینا۔ امان دینا اس دن میں کہ جس کی مفادہ پچاس ہزار سال ہے

إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ نَفَخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَ

اے میرے اللہ امان دینا۔ امان دینا جس روز پھونکا جائے گا صور میں پس بیہوش ہو جائیں گے آسمانوں اور

مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ

زمینوں والے مگر جن کے متعلق چاہے گا اللہ (کہ بیہوش نہ ہوں) اے میرے اللہ امان دینا۔ امان دینا جس دن جھوڑی جائیگی زمین

زُلْزَلَهَا إِلَهِي الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ إِلَهِي الْأَمَانَ

جیسے کہ حق ہے جھنجھوڑنے کا۔ اے میرے اللہ امان دینا۔ امان دینا جس دن پھٹ پڑے گا آسمان ساتھ بادل کے۔ اے میرے اللہ امان دینا





الْأَمَانَ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَظَى السَّجْدِ لِكُتُبِ الرَّحْمَى الْأَمَانَ الْأَمَانَ

امان دینا جس دن اگلے تعلق توڑنے فرمایا کہ ہم لپٹیں گے آسمان کو مانند لپٹے جانے کتابوں کی جلد بندی والے چڑے کے۔ اے میرے الا الامان الا

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

جس دن بدل دی جائے گی زمین دوسری زمین میں اور آسمان بھی اور ظاہر ہو جائیں سبھی اللہ واحد قہار کے سامنے

إِلَهَى الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاؤُهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ

اے میرے الا الامان - الامان جس دن دیکھے ہر آدمی جو اس نے آگے بھیجا اور کسے گنا کا سر لے

يَلِيَّتَنِي كُنْتُ تَرَابًا إِلَهَى الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اے میرے الا الامان - الامان جس دن نہ نفع دے گا مال اور نہ بیٹے (کسی کو)

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِلَهَى الْأَمَانَ الْأَمَانَ يَوْمَ ينادى مُنَادٍ

مگر جو حاضر ہوا بارگاہ خداوندی میں ساتھ قلب سلیم کے۔ اے میرے الا الامان - الامان جس دن نداء دے گا ندا دینے والا

مِنْ بَطْنَانِ الْعَرْشِ آيِنَ الْعَاصُونَ وَآيِنَ الْمَذْنُبُونَ وَآيِنَ الْخَالِفُونَ

عرش کے نیچے سے کہاں ہیں گنہگار۔ کہاں ہیں ارباب ذنوب اور کہاں ہیں مخالفت کرنے والے

وَآيِنَ الْخَاسِرُونَ هَلُمُّوا إِلَى الْحِسَابِ أَنْتَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَايَتِي فَأَقْبِلْ

اور کہاں ہیں خسارہ پانے والے آؤ طون حساب کے۔ تو جانتا ہے میرے مخفی اور ظاہر و علانیہ کو پس قبول فرما

مَعْدِرَتِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سَوْأِي يَا إِلَهَى أَهْ مِنْ كَثْرَةِ الذُّنُوبِ

میری معذرت اور تو جانتا ہے حاجت میری پس مجھے میرا مطلوب عطا فرما۔ اے میرے الا افسوس ہے مجھے گناہوں کی کثرت کا

وَالْعَصِيانِ أَهْ مِنْ كَثْرَةِ الظُّلْمِ وَالْجَفَاءِ أَهْ مِنْ النَّفْسِ الْمَطْرُودَةِ أَهْ مِنْ

اور نافرمانی داری کا۔ اہ! ظلم و جفا کی کثرت۔ افسوس ہے دھتکارے ہوئے نفس پر افسوس!

النَّفْسِ الْمَطْبُوعَةِ لِلْهُوَى أَهْ مِنْ الْهُوَى أَغْتَبِي يَا مَغِيثٌ عِنْدَ تَغْيِيرِ

نفس پر جو خواہشات فاسدہ پر پیدا کیا گیا۔ افسوس ہے خواہشات نفس پر۔ میری فریادری فرما۔ اے فریادرس وقت میری

حَالِي إِلَهَى أَنَا عَبْدُكَ الْمَذْنُوبُ الْمَجْرُمُ الْمُخْطِئُ أَجْرُنِي مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

حالت کے تغیر و تبدیل کے۔ اے میرے الایتر اگنا ہگار بندہ۔ جرم پیشہ اور خطا کار ہوں مجھے آتش دوزخ سے پناہ دے اے پناہ دینے والے



يَا مُجِيرُ يَا مُجِيرُ اِرْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ○

اے پناہ دینے والے۔ اے پناہ دینے والے مجھ پر رحم فرما بطفیل اپنی رحمت کے۔ اے ارحم الراحمین سے۔

أَلَمْ تَسْمَعْ بِفَضْلِكَ يَا مُنَانِي

کیا نہیں سنی تو نے اپنے فضل سے اے میرے مقصود

دُعَاءٍ مِّنْ ضَعِيفٍ مُّبْتَلَاءٍ

دُعا اس شخص کی جو ناتواں اور مُصیبت زدہ ہے

غَرِيقٌ فِي بُحُورِ الْغَمِّ حَزُنًا

غرق ہے غم کے سمندروں میں حزن و ملال کی وجہ سے

أُنَادِي بِالتَّضَرُّعِ كُلَّ يَوْمٍ

میں پکارتا ہوں ساتھ زاری کے ہر دن در آنجا لیکر

لَقَدْ ضَاقتُ عَلَى الْأَرْضِ طَرًا

البتہ سخت تنگ ہو چکی ہے مجھ پر زمین تمام تر

فَخَذُ بِيَدِي فَإِنِّي مُسْتَجِيرٌ

تو تو ہی میری دستگیری فرما کیونکہ میں طالب پناہ و امان ہوں

أَتَيْتُكَ يَا كَيْفَا فَارِحِمْ بُكَائِي

میں حاضر ہوا ہوں تیری بارگاہ میں روتے ہوئے پس رحم فرما میرے روتنے پر

فَأَبْكِي حَسْرَةً دَمْعِي وَأَبْكِي

پس میں بہاتا ہوں حسرت سے اپنے آنسو اور روتا ہوں۔

جَزَائِي أَنْ تُعَذِّبَنِي وَلَكِنْ

میری جزا تو یہی ہے کہ تو مجھے عذاب دے لیکن

وَلِي هَمٌّ وَأَنْتَ لِكَشْفِ هَمِّي

میں اندر ناک ہوں اور تو ہی میرے غم و اندوہ کو دور کرنے والا ہے

وَلِي دَاءٌ وَأَنْتَ دَوَاءُ دَائِي!

میں بیمار ہوں اور تو ہی میری بیماری کی دوا ہے



وَأَيُّظُنُّ الرَّجَاءَ فَقُلْتُ إِلَّا رَجَائِي أَنْ تَحَقِّقَ لِي رَجَائِي

اور بیدار کیا ہمیں امید ورجا نے تو میں نے کہا میری امید صرف یہی ہے تو ہماری امید بر لائے

تَفَضَّلْ سَيِّدِي بِالْعَفْوِ عَنِّي مَرَبَانِي فَمَا مِنْ بَلَاءٍ فِي بَلَائِي

مہربانی فرمائے میرے سردار مجھ سے درگزر کر کے کیونکہ میں آفات میں مبتلا ہوں

خَذْ بِلُطْفِكَ يَا إِلَهِي مِنْ لَهْ زَادَ قَلِيلٌ

اپنے لطف سے دستگیری فرمائے اللہ سفر خرچ سے محروم شخص کی

ذَنْبُهُ ذَنْبٌ عَظِيمٌ فَأَغْفِرِ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ

اس کا گناہ عظیم گناہ ہے پس اس عظیم گناہ کو بخش

مِنْهُ عَصِيَانٌ وَنِسْيَانٌ وَسَهُوٌ بَعْدَ سَهُوٍ

اس کی طرف سے نافرمانی بھوک چوک اور سہو ہی سہو ہے

نَالِ يَارِبِّ ذُنُوبِي مِثْلَ رِفْلِ لَمْ تُعَدِّ

اے میرے گناہ ریت کے ذرات کی مانند گنتی و شمار سے باہر ہیں

كَيْفَ حَالِي يَا إِلَهِي لَيْسَ لِي خَيْرُ الْعَمَلِ

کیا ہے حال میرا اے میرے الہ نہیں ہے میرا کوئی بہتر عمل

عَافِيٍّ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَأَقْضِ عَنِّي حَاجَتِي

مجھے ہر بیماری سے عافیت دے اور بر لا میری حاجت کو

أَنْتَ شَافِيٌّ أَنْتَ كَافِيٌّ فِي مُهِمَّاتِ الْأُمُورِ

تو ہی شفا بخش ہے اور تو ہی کفایت کرنے والا ہے مشکل امور میں

رَبِّ هَبْ لِي كَنْزَ فَضْلِكَ أَنْتَ وَهَابٌ كَرِيمٌ

اے میرے رب مجھے عطا فرما فضل و کرم کا تہ از تہ تو بہت بخشنے والا کریم ہے

هَبْ لَنَا مَلِكًا كَبِيرًا يُجَنِّمُهَا خَافَ رَبَّنَا

عطا فرما ہمیں بہت بڑا ملک اور نجات دے ہمیں جس کے خوفزدہ ہیں اے رب ہمارے

میری امید صرف یہی ہے تو ہماری امید بر لائے

فَمَا مِنْ بَلَاءٍ فِي بَلَائِي

کیونکہ میں آفات میں مبتلا ہوں

فَلَسْنَا بِالصَّدَقِ يَأْتِي عُنْدَ بَابِكَ يَا جَلِيلٌ

جبکہ وہ حالت افلاس میں صدق دل سے تیرے در پر حاضر ہوتا ہے اے جلیل

إِنَّهُ شَخْصٌ غَرِيبٌ مَذْنُوبٌ عَبْدٌ ذَلِيلٌ

وہ تیرا بندہ غریب ہے اور گناہگار اور ذلیل عبد ہے

مِنْكَ إِحْسَانٌ وَفَضْلٌ بَعْدَ إِعْطَاءِ جَزِيلٍ

تیری طرف سے احسان و فضل ہے بعد عظیم عطا کے

فَاعْفُ عَنِّي كُلَّ ذَنْبٍ فَأَصْفِي الصَّفِيَّ الْجَمِيلِ

پس درگزر فرما میرے ہر گناہ سے اور احسن طریقہ پر میرا گناہوں کو اعلیٰ درجہ کی فرما

سَوْءِ أَعْمَالِي كَثِيرٌ زَادَ طَاعَاتِي قَلِيلٌ

میرے برے اعمال زیادہ ہیں اور طاعات والا زاودہ کم ہیں

إِنَّ لِي قَلْبًا سَقِيمًا أَنْتَ نَنْ شِفَى الْعَلِيلِ

بیشک میرا دل بیمار ہے اور تو ہی شفا دیتا ہے بیماروں کو

أَنْتَ رَبِّي أَنْتَ حَسْبِي أَنْتَ لِي نَعْمَ الْوَكِيلِ

تو میرا پروردگار ہے تو ہی مجھے کافی ہے تو ہی میرے لیے اچھا کارساز ہے

أَعْطِنِي مَا فِي ضَمِيرِي دَلْنِي خَيْرَ الدَّلِيلِ

عطا کر مجھے جو میرے دل میں ہے اور بہترین دلیل کی طرف رہنمائی فرما

إِذْ أَنْتَ قَاضٍ وَالسُّنَادِي جَبْرِيْلُ

جبکہ تو فیصلے فرمانے والا ہو گا اور جبرئیل



اِنَّ مُوسَىٰ اَبْنَ عِيسَىٰ اَبْنَ يَحْيَىٰ اَبْنَ نُوحٍ اَنْتَ يَا صِدِّيقُ الْكَبِيْرُ اِلَى الْمَوْلَى الْجَلِيْلِ

کماں ہیں موصیٰ کماں ہیں عیسیٰ کماں ہیں یحییٰ کماں ہیں نوح تو ہے صدیق اکبر رجوع کر طرف مولا نے جلیل کے

قُلْ لَنْ اَرَا بُرْدِيْ يَارَبِّ فِى حَقِّىْ كَمَا

آتش دوزخ کو فرمائے میرے رب کہ ٹھنڈی ہو جائے میرے حق میں جیسے کہ

قُلْتُ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِيْ اَنْتِ فِى حَقِّ الْخَلِيْلِ

فرمایا تو نے کہہ ہم نے ہو جا تو لے آگ خلیل کے حق میں (ٹھنڈی اور سلامتی)

بِسْمِ اللّٰهِ كَلِمَةُ الْمُعْتَصِمِيْنَ وَمَقَالَةُ الْمُتَحَرِّزِيْنَ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ تَعَالَى

بِطِيفِلِ نَامِ تَقْدِسِ اللّٰهِ كے جو کلمہ ہے چنگل مارنے والوں کا اور قول ہے پناہ و حفاظت حاصل کرنے والوں کا اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں

مِنْ جَوْرِ الْجَائِرِيْنَ وَكَيْدِ الْحَاسِدِيْنَ وَبَغْيِ الظَّالِمِيْنَ وَاَحْمَدُكَ فَوْقَ

ظالموں کے جور سے اور حاسدین کے مکر سے اور اہل ظلم کی تعدی سے اور میں اُس کی حمد کرتا ہوں سب

حَمْدِ الْحَامِدِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْوَاحِدُ بِلَا شَرِيْكَ وَاَنْتَ الْمَلِكُ

حامدین کی حمد سے زیادہ۔ اے اللہ تو یکتا ہے بغیر کسی شریک کے ہے۔ اور تو ہی شاہنشاہ ہے (ذاتی طور پر)

بِلَا تَمْلِيْكَ لَا تَضَادُّ فِى حُكْمِكَ وَلَا تَنْزَاعٌ فِى مُلْكِكَ اَسْأَلُكَ اَنْ

بغیر کسی کے بادشاہ بنائے۔ نہیں مخالفت کیا جاتا اپنے حکم میں اور نہ نزاع کیا جائے تو اپنے ملک میں۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ

تُصَلِّيَ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَاَنْ تُؤَيِّرَ عَيْنِيْ مِنْ شُكْرِ

درو۔ جیسے اپنے عبد خاص اور رسول برحق محمد پر اور توفیق دے مجھے اپنی نعمتوں کے

نِعْمَاتِكَ مَا تَبْلُغُ فِى غَايَةِ رِضَاكَ وَاَنْ تُعِيْنَنِيْ عَلٰى طَاعَتِكَ

شکر کی جو پہنچے تیری حمد رضائیک اور میری اعانت فرمائے اپنی طاعت پر

وَلِزُوْمِ عِبَادَتِكَ وَاَسْتَحِقُّاقِ مَثُوْبَتِكَ بِلُطْفِ عِنَايَتِكَ

اور عبادت کی مداومت پر اور ثواب و جزاء کے استحقاق پر ساتھ اپنے لطف و عنایت کے

وَتَرْحَمَنِيْ وَتَصَدَّقَنِيْ عَنْ مَّعَاصِيْكَ مَا أَحْيَيْتَنِيْ وَتَوْفَّقَنِيْ

اور مجھ پر رحم کرے اور روکے رکھے مجھے نافرمانیوں سے جس وقت تک زندہ رکھے اور مجھے توفیق دے



لِمَا يَنْفَعُنِي مَا أَبْقَيْتَنِي وَأَنْ تَشْرَحَ بِكِتَابِكَ صَدْرِي وَتَحَطِّبَ تِلَاوَتَهُ

نفع دینے والے امور کی جبتک مجھے باقی رکھے اور کھول دے اپنی کتاب کے ذریعے میرا سینہ اور گرا دے اس کی تلاوت کے ذریعے

وَزُرِّيْ وَتَمْنَحِنِي السَّلَامَةَ فِي دِينِي وَنَفْسِي وَلَا تُوحِشْ بَنِي أَهْلِ

میرے بارگناہ کو اور عطا کرے مجھے سلامتی دین میں اور اپنی ذات میں اور نہ وحشت میں ڈالے میری وجہ سے میرے ساتھ

النَّسَبِ وَتُتِمَّ احْسَانَكَ فِي مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي كَمَا أَحْسَنْتَ فِي مَا

آنس رکھنے والوں کو اور پورا کرے اپنے احسان کو میری بقیہ عمر میں جیسے کہ تو نے احسان فرمایا میری

مَضَى مِنْهُ يَا أَحْسَنَ الْأَحْسَنِ اللَّهُمَّ بَرِّدْ نُورَنَا وَزِدْ سُرُورَنَا وَ

گزری عمر میں اے سب محسنوں سے زیادہ احسان کرنے والے۔ اے اللہ زیادہ فرما ہمارے نور کو۔ زیادہ فرما ہمارے سرور کو اور

زِدْ حُضُورَنَا وَزِدْ مَعْرِفَتَنَا وَزِدْ طَاعَتَنَا وَزِدْ نِعْمَتَنَا وَزِدْ فَحْبَتَنَا

زیادہ فرما ہمارے حضور قلب کو اور زیادہ فرما ہماری معرفت کو اور زیادہ فرما ہماری طاعت کو اور زیادہ فرما ہماری نعمتوں کو اور زیادہ فرما ہماری

وَزِدْ عَشْقَنَا وَزِدْ ذَوْقَنَا وَزِدْ شَوْقَنَا وَزِدْ عِلْمَنَا وَزِدْ عَمَلَنَا يَا

محبت اور زیادہ فرما ہمارا عشق اور زیادہ فرما ہمارا ذوق اور زیادہ فرما ہمارا شوق اور زیادہ فرما ہمارا علم۔ زیادہ فرما ہمارا عمل خیر اے

مَوْلَانَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَا سَاتِنًا

ہمارے مولا اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمیں بخش اور ہمارے اساتذہ کو

وَلِوَالِدَيْنَا وَلِمَشَائِرِ خَنَا وَلَا صُحَابِنَا وَلَا حُبَابِنَا وَلَا حِبَّاءِنَا وَلَا عَشَائِرِنَا

والدین اور مشایخ کو اور ہمارے اصحاب اور محبوبوں اور احباب کو اور ہماری قریبی برادری کو

وَلِقَبَائِلِنَا وَلِمَنْ لَكَ حَقٌّ عَلَيْنَا وَلِجَمِيعِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

اور اہل قبیلہ کو اور جس کا بھی حق ہے ہم پر اور تمام امت محمد علیہ الصلوٰۃ

وَالسَّلَامُ وَقِنَا رَبَّنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ الْحَشْرِ

والسلام کو بخش اور بچا ہمیں اے ہمارے پروردگار اپنی قضاء کے شر سے اور بچا ہمیں قبر کے عذاب اور حشر

وَالنَّشْرِ وَأَحْشُرْنَا مَعَ الْمُتَّقِينَ وَالْأَبْرَارِ اللَّهُمَّ اشْفِنِي وَقَوِّنِي وَ

دلنشر کے عذاب اور ہمارا حشر متقین و محسنین کے ساتھ فرما۔ اے اللہ مجھے شفا عطا فرما اور تقویت ہم پہنچا اور

اجْعَلْنِي طَوِيلَ الْعُرْفِ يَا نَجِيبَهُ وَيُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ

مجھے طویل زندگی والی بنا ان اطاعت و اعمال میں جنہیں تو پسند فرماتا ہے اور تیرا محبوب پسند فرماتا ہے جن پر تو راضی ہر تہ سے اور وہ راضی

أَمِينٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرِ حَقِّ الْحَقِّ وَنُقْطَةِ

ہوتے ہیں آمین۔ اے اللہ صلوات و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو مظہر ہیں حق خالص کے اور مرکزی نقطہ ہیں وجود خالق کے

دَائِرَةِ اسْتِمْدَادٍ وَجُودِ الْخَلْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دائرہ استمداد کا۔ اے اللہ صلوات و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

مَنْ تَبَعَتْ فِيهِ وَمَنْهُ أَسْرَارُ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ جس محبوب میں پھونے اور جن سے پھونے اسرار اللہ کے (چشمائے آبجواة) لا الہ الا ہو۔ اے اللہ صلوات و رحمت

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّصْدَرِ الْهُوَ فِي الْهُوَ لَّهُ مِنَ الْهُوَ

نازل فرما سیدنا محمد پر جو جائے صدور و ظہور ہیں کلمہ ہو کی جو کہ اسی کی ذات میں ہے۔ اسی کے لیے اور اسی کی طرف سے ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا هُوَ يَا مَنْ هُوَ يَا مَنْ لَيْسَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اے ذات بخت۔ اے ذات مطلق۔ ایک نہیں مگر وہی ذات ایک

لَا يَتَنَادَى بِهَوِّهِ وَلَا هُوَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يَعْرِفُ بِهِوَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ

نہیں ندا کیا جا سکتا ساتھ ہونے کے مگر وہی۔ ایک نہیں معترف ساتھ ہونے کے مگر وہی ایک

هُوَ يَا هُوَ يَا هُوَ يَا هُوَ هُوَ هُوَ هُوَ

وہی ذات بخت ہے یا ہونے یا ہونے یا ہونے۔ ہونے۔ ہونے۔ ہونے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ

فرما دیجئے وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے نہ

يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

اس نے جنم دیا اور نہ وہ جنا گیا اور نہیں اس کے لیے

كُفُوًا أَحَدًا

کوئی ہم پلہ اور مماثل و مشابہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ  
الحمد لله  
کہ دین نامان دست افتخار نعل  
ایز و منان تحفه عجایب و هدیه غرات رب الی اللہ  
مقبول بارگاہ شاکستین حضرت محمد رسول اللہ  
مُسکَلِ بِہ

# صَلَاةُ الرَّسُولِ

الجزء الثاني عشر

فِي حَلْمِهِ وَحَلْمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَرْتَضِيهَا خَلْقًا وَخَلْقًا لِلرَّسُولِ وَالشَّيْخَانِ خَلْقًا مِنْ خَلْقِهِمْ مِنْ مَنَاسِكِهِمْ مِنْ مَنَاسِكِهِمْ

حضرت خواجہ نوبگان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور  
صوبہ سرحد پاکستان

## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحِلْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِعِلْمِ بِسْمِ

اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علم و بردباری کے طفیل اور بسم اللہ

اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِعِلْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

الرحمن الرحیم کے علم کے طفیل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علم اور پرچم کے طفیل سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیسے ہیں

رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ

جو سب جہانوں کا رب ہے۔ رحمت میں حدغایت کو پہنچا ہوا ہے بہت مہربان ہے۔ قیامت کا دن کا مالک ہے۔ لے ان صفات کمال والے تیری

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ أَنْعَمْتَ

ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ ہمیں راہ راست پر چلا۔ ان لوگوں کی راہ پر کہ جن پر تیرے انعام

عَلَيْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِنَّ

فرمایا ہے نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بے شک

اللّٰهُ لَعَلِیْمٌ حَلِیْمٌ ۝ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِنَّهُ كَانَ حَلِیْمًا غَفُورًا ۝ اللّٰهُمَّ

اللہ تعالیٰ البتہ دائمی علم اور حلم والا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیشک وہ ہمیشہ سے صاحب حلم اور صاحب مغفرت ہے۔ لے

صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ فِیْهِ حِلْمٌ عَظِیْمٌ ۝ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن میں عظیم حلم اور بردباری ہے۔ لے اللہ صلوات نازل فرما

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ قَالَ أَنْتُمْ وَفَدُّ عَبْدُ الْقَیْسِ وَمَا یَرَى أَحَدٌ

سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ تمہارے پاس قبیلہ عبد القیس کا وفد آچکا حالانکہ ان میں سے ابھی کوئی شخص دکھائی نہیں دیتا

فَیْنَمَا نَحْنُ كَذٰلِكَ اِذْ جَآءَ وَافَزَلُوْا فَا تَوْرَسُوْا اللّٰهُ صَلِّ اللّٰهُ

تھا۔ تو اسی دوران کہ ہم ابھی بارگاہ رسالت پناہ میں حاضر تھے کہ وہ پہنچ گئے فوراً اپنی سواروں سے اترے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَقِيَ الْاَشْجُ الْعَصْرِيُّ فَجَآءَ بَعْدُ فَنَزَلَ مَنزِلًا فَا نَاخَ

صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشج عصری ابھی باقی رہ گیا تھا وہ بھی ان کے بعد پہنچ گیا پس وہ اپنی قیامگاہ پر اترنا۔



رَاحِلَتَهُ وَوَضَعَ ثِيَابَهُ جَانِبًا ثُمَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

سواری کو بٹھایا اور اپنے مستعمل کپڑوں کو ایک طرف رکھ کر اس نے نئے پتے، پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا شَجِرَانُ فَيْكَ

کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹیج تیرے اندر

لَخَصَلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْجِلْمُ وَالشُّوَدَّةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَشِيءُ

دو نصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ بردباری اور آہستگی اور باوقار انداز اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ ایسی شئی ہے

جُبِلْتُ عَلَيْهِ أَمْ شَيْءٌ حَدَّثَ لِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جس پر میں پیدا کیا گیا ہوں یا بعد میں میرے اوپر طاری ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ بَلْ شَيْءٌ جُبِلْتُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

وسلم نے فرمایا بلکہ وہ ایسی شئی ہے کہ تو اسی پر پیدا کیا گیا ہے یعنی وہ تیرے خمیر میں داخل ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَنْفِذَهُ دَعَا اللَّهَ عَلَيْهِ رَدُّوسٍ

فرمایا "جس شخص نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا تمام

الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيَّرَهُ فِي أَرَى حَوْرٍ شَاءَ اللَّهُمَّ صَلِّ

مخلوقات کے سامنے قیامت کے دن یہاں تک کہ اس کو اختیار دے گا کہ حوروں میں سے جو چاہے اختیار کرے۔ اے اللہ صلوٰۃ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمَ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ

نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا۔ نہیں کوئی گھونٹ عظیم تر اجر والا اللہ تعالیٰ کے ہاں غصہ کے گھونٹ سے جسے بندہ

مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءً وَجْهَ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

پنے لیے محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ

سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا نہیں ہوتا فحش کسی شئی میں مگر اس کو عیب ناک کر دیتا ہے

وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور نہیں ہوتا حیا کسی شئی میں کبھی مگر اس کو مزین اور آراستہ کر دیتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَدَأُ

محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ حیا ایمان کا عظیم شعبہ ہے اور ایمان جنت میں ہے اور بے حیائی

مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

جفا کاری کا بہت بڑا شعبہ ہے اور جفا کاری آتش دوزخ میں ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے

قَالَ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَىٰ إِذَا لَمْ تَسْتَحِي

فرمایا بیشک جو پالیا لوگوں نے پہلی نبوتوں کے کلام سے اسی سے یہ بھی ہے "جب تجھے حیا دامنگیر نہ ہو

فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

تو کر جو چاہے" اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا

لِلْأَشْجِ الْعَصْرِيِّ إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْجَلْمُ وَالْحَيَاءُ

اشج عصری کو بے شک تجھ میں دو ایسی خصلتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ برابری اور شرم و حیا

وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ

اور تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک انصاری شخص پر جبکہ وہ

يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ

اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا حیا کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو

فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

کیونکہ حیا ایمان کا عظیم شعبہ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا

الْمُؤْمِنُ غَرُّ كَرِيمٍ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَّيِّمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کہ مومن سادہ لوح اور صاحب کرم ہے اور فاجر رومنائق عیار اور کینہ ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يُحْرَمُ عَلَى النَّارِ وَمَنْ تَحْرَمُ النَّارُ عَلَيْهِ

جنہوں نے فرمایا "کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس شخص کی جو آگ پر حرام کیا گیا ہے اور جس پر آتش دوزخ حرام کی گئی ہے۔

عَلَىٰ كُلِّ هَيْئٍ لِّبَيْنِ قَرِيبٍ سَهْلٌ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

اگر ہر اس مومن شخص کے جو آہستہ رو۔ نرم خو۔ ہر ایک سے قریب اور نرمی برتنے والا ہے" اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "جو

يُحَرِّمُ الرِّفْقَ يُحَرِّمُ الْخَيْرَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

رفق اور نرم مزاجی سے محروم کیا گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم کیا گیا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا۔

التَّوَدُّهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِّلْأَرْضِ عَمَلِ الْآخِرَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

کہ آہستگی بہتر ہے ہر چیز میں مگر عمل آخرت میں۔ اور فرمایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِنْسَانُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرَوَى عَنْ

رسول نے آہستگی اور باوقار انداز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور حضرت

عِبَادَةُ بِنِ الصَّامِتِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم

وَسَأَلَمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي

سے سوال کیا اللہ سبحانہ کے اس قول کے متعلق انہیں کے لیے بشارت ہے دینی زندگی میں اور

الْآخِرَةِ قَالَ هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

آخرت میں تو آپ نے فرمایا یہ بشارت اچھے خواب ہیں جنہیں مرد مسلم دیکھتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَقُولُ ذَهَبَتِ النَّبُوءَةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ

محمد کریم پر جو فرماتے ہیں نبوت ختم ہو چکی اور صرف مبشرات اور سچے خواب باقی رہ گئے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ الرَّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنْ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا نیک مرد کا اچھا خواب

الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوءَةِ قَالَ

نبوت کے چھیالیس اجزاء میں سے ایک جزء ہے فرمایا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کا خواب ایک جزء ہے نبوت کے چھیالیس

مِّنَ النَّبُوءَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ الرَّؤْيَا

اجزاء میں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا سچا خواب



الصَّالِحَةَ جُزْءٌ مِّنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِّنَ النَّبُوَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

نبوت کے ستر اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا

محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ نہیں باقی رہے نبوت میں سے مگر مبشرات صحابہ کرام نے عرض کیا وہ

الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةَ يَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى

مبشرات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا وہ سچا خواب ہے مرد مسلم دیکھتا ہے رزاقی صلاحیت ایسا سے دکھلایا جاتا ہے قدرت

لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ

کامل سے اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ جب قریب ہوگا زمانہ قیامت کا

لَمْ يَكْذِبْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَ

نہیں قریب کہ جھوٹا ہو مؤمن کا خواب اور مؤمن کا خواب ایک جز ہے نبوت کے چھ ایسے

أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ وَمَا كَانَ مِنَ النَّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ

اجزاء میں سے اور جو نبوت کے اثرات و برکات سے ہوگا وہ یقیناً جھوٹا نہیں ہوگا

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَأَنَا أَقُولُ الرَّؤْيَا ثَلَاثٌ حَدِيثُ النَّفْسِ

اور فرمایا محمد بن سیرین نے اور میں کہتا ہوں کہ خواب تین قسم کے ہیں حدیث نفس

وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ

اور شیطان کی طرف سے بشارت تو جو شخص دیکھے ایسی چیز جسے وہ ناپسند رکھتا ہے

فَلَا يَقْضُ عَلَى أَحَدٍ وَلِيَقْمَ فَلْيَصِلْ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُهُ الْغُلَّ فِي

تو وہ اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرے اور اٹھ کھڑا ہو پس نماز پڑھے اور فرمایا کہ وہ خواب میں طوق پہنائے جانے کو ناپسند کرتے

النُّومِ وَيَعْجَبُهُمُ الْقَيْدُ وَيُقَالُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ہیں اور بیڑیاں پہنایا جانا انہیں بھلا معلوم ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بیڑیاں پہنایا جانا دین پر ثبات قومی کی علامت ہے اے اللہ صلوات نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّاسُ

فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا میں نے ایک رات دیکھا خواب میں جیسے کہ لوگ خواب دیکھتے ہیں



كَانَ فِي دَارِ عُقَيْبَةَ بْنِ رَافِعٍ فَأَتَيْنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ

گویا کہ ہم عقیبہ بن رافع کے مکان میں ہیں تو ہمارے پاس ابن طاب کے باغ والی تازہ کھجوریں لائی گئی ہیں

فَأَوَّلْتُ أَنْ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ دِينَنَا

تو میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ دنیا میں برتری ہمارے ہی لیے ہے اور حسن عاقبت آخرت میں اور ہمارا دین

قَدْ طَابَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ

طیب و پاکیزہ ہو گیا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا

أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبٌ وَهَلِيٌّ إِلَى أَتْهَآ

کہ میں ہجرت کر رہا ہوں مکہ مکرمہ سے اس زمین کی طرف جس میں بخت کھجوریں ہیں تو میرا وہم اس طرف گیا کہ دار ہجرت

الْيَمَامَةُ أَوْ هَجْرًا فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ أَنِّي

یمامہ یا ہجرت ہے تو واقعہ میں وہ مدینہ یثرب تھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے

هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

تلموڑ کو ہلایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا تو اس کی تعبیر تھی وہ مصیبت جو مومنین کو

يَوْمَ أَحَدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ وَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ

احد کے دن پہنچی۔ پھر میں نے خواب میں ہی اس کو دوبارہ جھٹکا دیا تو وہ پہلے سے بھی اچھی حالت میں ہو گئی تو اس کی

اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تعبیر وہ فتح اور باہمی الفت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی مومنین کو۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَتَيْتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضَعُ فِي كَفِّي

جنہوں نے فرمایا اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا مجھے دس گئے زمین کے تمام خزانے اور رکھے گئے میری ہتھیلی میں

سَوَارِينَ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبَّرَ عَلَيَّ فَأَوْحَى إِلَيَّ أَنْ أَنْفَخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا

سونے کے دو کٹن تو وہ دونوں مجھ پر گراں گزرے پس مجھے وحی کی گئی کہ انہیں پھونک مارو میں نے پھونک مارا

فَذَهَبَا فَأَوْلَتْهُمَا الْكَذَّابِينَ الَّذِينَ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبٌ صُنْعَاءُ وَ

تو وہ اڑ گئے میں نے اس کی تعبیر یہ کی یہ دو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں جن کے درمیان میں موجود ہوں ایک صاحب صنعا اور



صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَفِي رِوَايَةٍ يُقَالُ أَحَدُهُمَا مُسَيِّمَةٌ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ

دوسرا صاحب یمامہ اور ایک روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک کو سیلمہ صاحب یمامہ کہا جاتا ہے

وَالْعَنَسِيُّ صَاحِبُ الصَّنْعَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

اور دوسرا اسود عنی صاحب صنعاء ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا

أَعْنِي لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَدًا رُوِيَ قَلْبَنَا قَالَ لَكِنِّي رَأَيْتُ

یعنی اپنے صحابہ کرام کو آیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے انہوں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا لیکن میں نے

الليلة رجلين أتيا نبي فأخذ بيدي فأخرجاني إلى أرض ففقدت

آج رات خواب میں دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے پس انہوں نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور مجھے پاکیزہ زمین

فأذرجل جالس ورجل قائم فإبده ككوب من حديد فدخله

کی طرف لے گئے۔ ناگاہ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور دوسرا کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوبہ کی ٹیڑھے سروالی چھڑی ہے جسے اس کی

في شدة فيشقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدة الأخر مثل

ایک باجھ میں ڈال کر اسے گدی تک پھاڑ دیتا ہے۔ پھر دوسری باجھ کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا ہے

ذلك ويلتئم شدة هذا فيعود فيصنع مثله قلت ما هذا قال

اسنے میں اس کی پہلی باجھ مندل ہو جاتی ہے۔ پس وہ مڑ کر اس کے ساتھ حسب سابق عمل کرتا ہے میں نے کہا یہ کیا ہے

انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل

ان دونوں نے کہا آگے چلے ہم چل پڑے حتیٰ کہ اس آدمی پر پہنچے جو گدی کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص

قائم على رأسه بفهر أو صخرة يشلخ رأسه فإذا ضربته تدهدا

اس کے سر پر سٹھی میں گول پتھر لے کھڑا تھا جس سے اس کا سر پھوڑتا تھا۔ جب اس کو مارتا تو پتھر دوسری

الحجر فانطلق إليه لياخذها فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه

جانب لڑھک جاتا تو وہ ادھر چلتا تاکہ اس کو پکڑے ابھی واپس نہیں ہوتا تھا کہ اس کا سر درست ہو جاتا تھا

فعاد رأسه كما كان فعاد إليه فضربه فقلت ما هذا قال انطلق

اور پہلے کی مانند ہو جاتا تو وہ واپس آکر پھر اسے مارتا میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا آگے چلے



فَانْطَلَقْنَا حَتَّىٰ اَتَيْنَا اِلَى ثَقِيبٍ مِّثْلِ الشُّوْبُرِ اَعْلَاهُ ضَيْقٌ وَّ اَسْفَلُهُ

پس ہم چلے یہاں تک کہ ایک سوراخ پر آئے جو تور کی مانند تھا اوپر والا حصہ تنگ تھا اور نیچلا حصہ

وَاِسْعٌ تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَاِذَا ارْتَفَعَتْ اِرْتَفَعُوا حَتَّىٰ كَادَ اَنْ يَخْرُجُوا

بہت کشادہ تھا جس کے پخلے حصے میں آگ دہک رہی تھی جب وہ بلند ہوتی تو جو اس میں تھے وہ بھی اُپر اُٹھ آتے

مِنْهَا وَاِذَا اَخِمَدَتْ رَجَعُوا فِيْهَا وَفِيْهَا رِجَالٌ وَّ نِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَا

یہاں تک کہ گویا نکلنے کو ہیں اور جب وہ شعلہ کچھ جاتا تو وہ نیچے چلے جاتے اور اس میں برہنہ مرد اور عورتیں تھیں تو میں نے کہا

هٰذَا اَقَالَا اِنْطَلِقْ فَاِنْطَلَقْنَا حَتَّىٰ اَتَيْنَا عَلٰى نَهْرٍ مِّنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ

یہ کیا ہے انہوں نے کہا آگے چلئے۔ ہم چلے یہاں تک کہ ایک نہر پر آئے جس میں خون جاری تھا اس کے وسط میں

قَائِمٌ عَلٰى وُسْطِ النَّهْرِ وَّ عَلٰى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَابَةٌ

ایک شخص کھڑا تھا اور کنارے پر دوسرا شخص جس کے آگے پتھر پڑے تھے

فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَاِذَا ارَادَ اَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحِجْرٍ

پس جب متوجہ ہوتا اندر والا شخص اکنارے کی طرف باہر نکلنے کے ارادہ پر تو مار دیتا کنارے والا شخص اس پتھر کو

فِيْ فِيْهِ فَرَدَّةٌ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلُّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِيْ فِيْهِ بِحِجْرٍ

اس کے منہ میں پس اس کو سابقہ جگر پر دھکیل دیتا۔ پس یہی اس نے وطیرہ بنا لیا کہ جب بھی وہ نکلنے لگتا یہ اس کے منہ میں

فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هٰذَا اَقَالَا اِنْطَلِقْ فَاِنْطَلَقْنَا حَتَّىٰ اِنْتَهَيْنَا

پتھر مارتا تو وہ سابقہ جگہ پر پہنچ جاتا، تو میں نے کہا یہ کیا ہے۔ ان دونوں نے کہا آگے چلئے چنانچہ ہم چلے حتیٰ کہ پہنچے

اِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءٍ فِيْهَا شَجْرَةٌ عَظِيْمَةٌ وَّ فِيْ اَصْلِهَا شَيْبَةٌ وَّ صَبِيَانٌ

ایک سرسبز و شاداب سبزہ زار میں جس میں ایک عظیم درخت موجود تھا جس کے تن کے ساتھ ایک بزرگ اور کچھ بچے

وَ اِذَا رَجُلٌ قَرِيْبٌ مِّنَ الشَّجْرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُّوقِدُهَا وَ صَعِدَا

موجود تھے اور اس درخت کے قریب ہی دوسرا شخص موجود تھا جس کے سامنے آگ ہے جسے وہ بھڑکار رہا تھا اور وہ مجھے لیکر

بَنِي الشَّجْرَةِ فَاَدْخَلَنِيْ دَارًا وَّ اَوْسَطَ الشَّجْرَةِ لَمْ اَرَ قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا

چڑھے درخت پر اور اس کے درمیان میں موجود ایک مکان میں داخل کیا اس طرح کا خوبصورت مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا

فِيهَا شُبَّانٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بَنِي

اس میں بڑھے اور جوان۔ عورتیں اور بچے موجود تھے۔ پھر ان دونوں نے مجھے اس سے نکالا اور مجھے درخت پر

الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ مِنْهَا فِيهَا شُبَّانٌ وَ

لے چڑھے اور ایسے مکان میں داخل کیا جو پہلے سے بھی خوبصورت ترین اور افضل تھا اس میں بڑھے اور

شَبَابٌ فَقُلْتُ لَهُمَا إِنَّكُمَا قَدْ طَوَّفْتُمَا فِي اللَّيْلَةِ فَأَخْبِرَانِي عَنْمَا

جوان تھے تو میں نے ان دونوں سے کہا تم نے آج ساری رات بھرا یا ہے تو مجھے خبر دیجئے ہر اس شے سے جو

رَأَيْتُمْ قَالَا نَعَمْ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْتَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ

میں نے دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ لیکن وہ شخص جسے تم نے دیکھا کہ اس کی باچھیں پھیری جا رہی تھیں تو وہ کذاب تھا

يُحَدِّثُ بِالْكَذِبِ فَتَحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَفَاقَ فَيَصْنَعُ بِهِ مَاتَرِي

جھوٹ بیان کرتا پھر اس سے اس کو نقل کیا جاتا ہے کہ سب آفاق میں پہنچ جاتا تو اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے گا جو تم نے

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسَهُ فَرَجُلٌ عَلَيْهِ اللَّهُ

دیکھا تا قیام قیامت اور وہ جس کا سر پھوڑتے آپ نے دیکھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا

الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ

علم بخشا مگر وہ اس سے رات کو سو یا رہتا اور دن میں اس کے مطابق عمل نہ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ سلوک

مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقَبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَ

جو آپ نے دیکھا قیامت تک جاری رہے گا اور جنہیں آپ نے بڑے سوراخ میں دیکھا تو وہ زنا کار مرد اور عورتیں تھیں

الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ أَكَلُ الرَّبِيِّ وَالشَّيْخُ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ

جسے آپ نے خون کی نہر میں دیکھا تو وہ سود خوار تھا اور وہ بزرگ جسے آپ نے درخت کے نیچے دیکھا

إِبْرَاهِيمَ وَالصَّبْيَانَ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ وَالَّذِي يُوقَدُ النَّارَ مَالِكٌ

حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور ان کے ارد گرد والے بچے لوگوں کے فوت ہوئے چھوٹے بچے تھے۔ اور آگ بھڑکانے والا شخص مالک

خَازِنُ النَّارِ وَالذَّاكِرُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلَتْ دَارَ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا

تھا جو دروزخ کا نگران ہے۔ اور پہلا مکان جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مومنین کی جنت تھی لیکن



هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جُبْرَيْلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَأَرْفَعُ

دوسرا مکان دار الشہداء تھا اور میں جبسائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ تو آپ اپنا سر بلند

رَأْسَكَ فَرَفَعْتَ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ وَفِي رِوَايَةٍ قَتْلُ

کری جب میں نے سر کو اُپر اٹھایا تو ناگاہ میرے اُپر بادل کی مانند ایک چیز تھی اور ایک روایت میں ہے

الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَا ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي

کہ سفید پتلے بادل کی مانند۔ انہوں نے کہا وہ بلند مرتبت منزل آپ کی ہے۔ میں نے کہا مجھے اجازت دیجئے میں اپنی منزل

قَالَا إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرُكَ تَسْتَكْمِلُهُ فَإِذَا اسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ

میں داخل ہو جاؤں انہوں نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے جس کی تکمیل آپ نے نہیں کی جب اس کو مکمل کر چکے تو اپنی اس

مَنْزِلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَاءَ رَجُلًا إِلَيْهِ

منزل میں آ جاؤ گے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جن کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور

فَقَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ قَالَ ضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى

اس نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرا سر کاٹا جا چکا ہے تو آپ ہنس پڑے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِذَا الْعَبَّ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا

اور فرمایا جب تم میں سے کسی کے ساتھ شیطان کھیلے اس کی نیند میں تو وہ اسے لوگوں کے سامنے

يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ الرَّوِّيَا

بیان نہ کرے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا

الصَّالِحَةُ مِنْ اللَّهِ وَالْحَلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا

سچا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جھوٹا خواب شیطان کی طرف سے۔ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب

يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَّعِزَّ بِاللَّهِ

دیکھے جسے پسند کرتا ہے تو اسے صرف اپنے محبوب لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اور نا پسندیدہ امر دیکھے تو اللہ کی پناہ طلب

مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتَّقِ ثَلَاثًا وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا

کرے اس کے شر سے اور شر شیطان سے اور تین مرتبہ بھوکے اور کس کو بیان نہ کرے



قَاتِهَانَ تَضَرَّهٗ اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِذَا سَأَى

وہ اسے ہرگز مضر نہیں دے گا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا جب تم میں سے کوئی

أَحَدُكُمْ الرَّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُرْ عَنْ يَسَارَةٍ ثَلَاثًا وَلَا يَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ

نواب دیکھے جسے ناپسند کرتا ہو تو بائیں جانب تین مرتبہ تھوکے اور پناہ طلب کرے اللہ تعالیٰ کی

الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى عَلَى

شیطان سے تین مرتبہ اور بدل جائے اس پہلو سے کہ جس پر تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ الرَّؤْيَا ثَلَاثٌ مِنْهَا أَهْوَئِيلٌ مِنَ الشَّيْطَانِ

سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا خواب تین قسم پر ہیں۔ بعض شیطان کی طرف سے جو ہول و دہشت کے موجب ہوتے

لِيَحْزَنَ بِهَا ابْنُ آدَمَ وَمِنْهَا مَا يَهْمُ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقْظَتِهِ فَيَرَاهُ

ہیں تاکہ ابن آدم کو غمزدہ کرے اور بعض وہ ہیں جس چیز کا آدمی بیداری میں ارادہ کرتا ہے پس اسی کو

فِي مَنَامِهِ وَمِنْهَا جُزْءٌ مِّنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِّنَ النَّبُوَّةِ قَالَ

نیند میں دیکھتا ہے اور بعض وہ ہیں جو نبوت کے چھالیس اجزاء میں سے ایک جز ہوتے ہیں راوی کتاب ہے

قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

میں نے حضرت عوف بن مالک سے کہا کیا واقعی تم نے سنا اس کو رسول خدا صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے کہا میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ

وسلم سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا جب دیکھے تم سے کوئی

رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَحَوَّلْ وَلْيَتَفَلَّحْ عَنْ يَسَارَةٍ ثَلَاثًا وَلْيَسْئَلِ اللَّهَ

ناپسندیدہ خواب تو پہلو بدلے اور بائیں جانب تین مرتبہ تھوکے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرے

مِنْ خَيْرِهَا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اس کی خیر کا اور پناہ طلب کرے اس کے شر سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہوں نے فرمایا



جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَأْسِي

کہ ایک آدمی نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے دیکھا کہ میرا سر

ضُرِبَ فَرَأَيْتُهُ يَتَدَاهِدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تلم کر دیا گیا اور وہ لڑھکتا جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

يَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِلَى أَحَدِكُمْ فِيهِوَلَهُ ثُمَّ يَعْدُو وَيُخْبِرُ النَّاسَ

نے فرمایا قصد کرتا ہے تم میں کسی کا شیطان پس وہ لے ہول اور دہشت میں مبتلا کرتا ہے پھر وہ صبح کرتا ہے اور لوگوں کو وہ خواب

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

بتلا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جبکہ

سَلَّمَ رَجُلٌ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيمَا

آپ خطبہ دے رہے تھے پس عرض کی یا رسول اللہ میں نے گزشتہ رات دیکھا جیسے کہ

يَرَى النَّائِمُ كَانَ عُنُقِي ضُرِبَتْ وَسَقَطَ رَأْسِي فَاتَّبَعْتُهُ فَأَخَذْتُهُ

سونے والے دیکھتے ہیں گویا کہ میری گردن ماری گئی ہے اور میرا سر گر پڑا ہے میں نے اس کے پیچھے جا کر اس کو پکڑ لیا

فَأَعْدْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَعَبَ الشَّيْطَانُ

اور دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ

بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثَنَّ بِهِ النَّاسَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جیسے اس کی نیند میں تو وہ ہرگز اسے لوگوں کو نہ بتلائے۔ اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرُ النَّاسَ يَتَلَعَّبُ الشَّيْطَانُ

محمد پر جنہوں نے فرمایا جب کسی کو بیہودہ خواب آئے تو وہ لوگوں کو بیان نہ کرے شیطان اس کے ساتھ حالت نیند میں

بِهِ فِي الْمَنَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَقُولُ الرَّؤْيَا عَلَى

مزاح کرتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو فرماتے ہیں کہ خواب

رَجُلٍ طَائِرٌ مَالَهُ مُعَبَّرٌ فَإِذَا عِبَّرَتْ وَقَعَتْ قَالَ وَالرُّؤْيَا جُزْءٌ مِّنْ

بہندے کے پاؤں پر ہوتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو اس کے مطابق وقوع پذیر ہوتا ہے اور فرمایا کہ خواب



سِتَّةٌ وَأَرْبَعِينَ جُزْءٍ مِّنَ النَّبُوَّةِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَا يَقْضِيهَا إِلَّا

ایک جزبے نبوت کے چھیالیس اجزائیں سے۔ راوی کہتا ہے اور میں گمان کرتا ہوں کہ فرمایا اسے نہ بیان کرے مگر

عَلَىٰ وَإِدِّ اَوْذَىٰ رَأَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اَعْتَبِرُوهَا

اہل مودت پر یا عقلمند پر۔ اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جنہوں نے فرمایا تعبیر کرو انہیں

بِاسْمَائِهَا وَكُتُوبِهَا بِكُنَاهَا وَالرُّوْيَا لِأَوَّلِ عَابِدِ اللَّهِ صَلَّىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ان کے اسماء کے ساتھ اور کینتوں کے ساتھ نامزد کرو اور خواب پہلے تعبیر دینے والے کے مطابق ہوتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ ورحمت

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَتَىٰ إِلَيْهِ رَجُلٌ مُّتَصَرِّفٌ مِنْ أَحَدٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

نازل فرما سیدنا محمدؐ پر جن کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک شخص احد سے واپسی کے وقت پس عرض کیا رسول اللہ

إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطَفُ سَيْنًا وَعَسَلًا وَرَأَيْتُ النَّاسَ

میں نے خواب میں ایک چھوٹی سی بدلی دیجھی جس سے ٹپک رہا ہے گھی اور شہد اور لوگوں کو دیکھا کہ

يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكْتَرُونَ الْمُسْتَقِلُّونَ وَرَأَيْتُ سَبَبًا وَاصِلًا إِلَىٰ

وہ ہتھیلیوں پر لیتے ہیں اس سے بعض بہت زیادہ اور بعض کم اور دیکھا میں نے ایک رے سے کہ جو آسمان تک

السَّمَاءِ رَأَيْتُكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ بِهِ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلَا بِهِ

پہنچا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو پکڑا اور اوپر چڑھ گئے پھر آپ کے بعد دوسرے شخص بھی اس کو پکڑ کر چڑھ گئے

ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَأَنْقَطَعَ بِهِ ثُمَّ وَصَلَ لَهُ فَعَلَا بِهِ فَقَالَ

پھر ایک اور شخص نے اسے پکڑا تو وہ ٹوٹ گیا پھر اس کو جوڑا گیا اس کے لیے تو وہ بھی اوپر چڑھ گیا تو حضرت ابو بکر نے عرض

أَبُو بَكْرٍ دَعَانِي أَعْبَرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عِبْرُهَا قَالَ أَمَّا الظُّلَّةُ

کیا مجھے اجازت دیجئے یا رسول کہ میں اس کی تعبیر کروں آپ نے فرمایا تعبیر کرو تو انہوں نے فرمایا چھتری

فَالْإِسْلَامُ وَأَمَّا مَا يَنْطَفُ مِنْهَا مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمَنِ فَهُوَ الْقُرْآنُ

اسلام ہے اور جو اس سے ٹپک رہا ہے یعنی شہد اور گھی تو وہ قرآن مجید

حَلَاوَتُهُ وَرَيْبِنُهُ وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ مِنْهُ النَّاسُ فَلَا أَخْذَ مِنَ الْقُرْآنِ

اور اس کی حلاوت اور لطافت ہے اور وہ جو لوگ اس سے ہتھیلیوں پر لیتے ہیں (کچھ زیادہ کچھ کم) تو وہ قرآن سے حاصل کرنے لے



كثِيرًا وَقَلِيلًا وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ إِلَى السَّمَاءِ فَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنْ

بہیں زیادہ اور تنگڑا۔ لیکن وہ راجع آسمان تک پہنچا ہوا ہے تو وہ دین کی حقانیت ہے جس پر آپ پر قائم ہو

الْحَقِّ أَخَذَتْ بِهِ فَعَلَا بِكَ ثُمَّ يَأْخُذُ لِرَجُلٍ مِّنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُوا بِهِ

آپ نے اس کو اپنایا اور وہ آپ کو بندیوں پر لے گیا پھر آپ کے بعد دوسرا شخص اس کا زور دار ہوگا تو یہ دین اس کو بھی بندیوں پر فائز

ثُمَّ آخَرَ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوْصَلُ لَهُ فَيَعْلُوا بِهِ قَالَ أَصَبْتَ بَعْضًا وَ

کرے گا۔ پھر اور شخص جس کے ساتھ وہ منقطع ہوگا پھر اس کو متصل کیا جائے گا پس بند ہوگا۔ آپ نے فرمایا بعض میں درست کہا اور بعض میں

أَخْطَأْتُ بَعْضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُخْبِرَنِي

خطا کی ہے ابو بکر نے عرض کیا میں قسم دے کر عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ کہ مجھے ضرور بتلاؤ

بِالَّذِي أَصَبْتُ مِنَ الَّذِي أَخْطَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

جس میں میں نے صواب کو پایا اور جہاں خطا سرزد ہوئی تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر تمہیں نہ دور صلی اللہ علیہ و

سَلَّمَ لَا تُقْسِمُ يَا أَبَا بَكْرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ابْنُ

و آلہ وصحبہ وسلم۔ اے اللہ صلوات و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ حضرت عبداللہ

عُمَرُ قَالَ كُنْتُ عَلَامًا شَابًا عَزَبًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

بن عمر نے فرمایا کہ میں نوجوان غیر شادی شدہ تھا زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أُرِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَكَانَ مِنْ رَأْيِ مِتَارٍ وَيَأْتِقُصُّهَا

میں، اور میں مسجد شریف میں ہی رات گزارتا تھا تو ہم میں سے جو بھی خواب دیکھتا وہ لے

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا میں نے بارگاہ الوہیت میں عرض کیا اے اللہ اگر میرے لیے تیرے

خَيْرٌ فَرِنِي رَوْيَا يَعْبُرُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنِمْتُ

ہاں کوئی تیرے تو مجھے ایسا خواب دکھلا جس کی تعبیر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی چنانچہ میں سویا

فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ اتْيَانِي فَاَنْطَلَقَانِي فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرَ فَقَالَ لَمْ تَرَهُ

اور دو فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آکر مجھے لے گئے راہ میں ان کو ایک اور فرشتہ ملا تو اس نے کہا تو خوف نہ کھا



فَانْطَلِقَ بِنِيَّ إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبَيْرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ

تو مجھے آتش ووزخ کی طرف لے جایا گیا ناگاہ وہ کوئیں کی مانند گولی تھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں لوگ ہیں

عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ فَأَخَذُوا بَنِيَّ ذَاتَ الْيَمِينِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ

جن میں سے بعض میرے جانے پہچانے تھے تو وہ ملا کر مجھے دائیں جانب لے گئے جب صبح ہوئی تو میں نے یہ صورت ان سے

ذَلِكَ لِحَفْصَةَ فَرَعِمْتُ حَفْصَةَ أَتَاهَا قَصَّتْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

بیان کی انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنْ

وسلم پر پیش کیا تو آپ نے فرمایا ہے شک عبد اللہ نیک آدمی ہے۔ اگر ہر رات بجز نوافل اور کثرت سے

اللَّيْلِ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّيْلِ وَعَنْ خُرْشَةَ

کے درجات مزید بلند ہوتے اور وہی نے کہا کہ حضرت عبد اللہ بعد ازاں رات کو بجز نوافل اور کثرت سے صلاہ سے

قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى مَشِيخَةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو مسجد شریف میں مسجد رسول صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ شَيْخٌ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَاهُ فَقَالَ الْقَوْمُ مَنْ سَرَّكَ أَنْ

علیہ وسلم میں مشائخ کے پاس بیٹھا اسی دوران ایک بزرگ عصا کا سہارا لیے نثرین لائے تھے لوگوں نے کہا جس کو یہ بات

يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا فَقَامَ خَلْفَ سَارِيَةٍ

اچھی لگے کہ وہ ایک جنتی آدمی کو دیکھے تو چاہیے کہ وہ اس شخص کو دیکھے وہ بزرگ ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہوئے

فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَقَمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَذَا وَكَذَا

پس دو رکعت ادا کیں میں اٹھ کر ان کی طرف گیا اور ان سے کہا لوگوں نے آپ کے متعلق ایسی ایسی بات کی ہے

قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْجَنَّةُ لِلَّهِ يَدْخُلُهَا مَنْ يَشَاءُ وَإِنِّي رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ

تو انہوں نے کہا الحمد للہ جنت اللہ تو الٰہی کے ملک میں ہے اس میں جسے چاہے گا داخل فرمائے گا اور میں نے زمانہ رسول

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوِيًّا رَأَيْتُ كَانَ رَجُلًا أَتَانِي فَقَالَ

صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب دیکھا کہ گویا ایک آدمی میرے پاس آیا پس اس نے کہا



لِي انْطَلِقُ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَلَكَ بَنِي فِي مَنْهَجٍ عَظِيمٍ فَعَرَضْتُ عَلَى

چلنے میں اس کے ساتھ چل پڑا تو وہ مجھے بہت بڑی کشادہ راہ پر لے چلا اس دوران مجھ پر ایک راستہ

طَرِيقٌ عَنْ يَسَارِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْلُكَهَا فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا

بائیں جانب سے پیش کیا گیا میں نے اس پر چلنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا یقیناً تو اس راہ والوں سے نہیں ہے

ثُمَّ عَرَضْتُ عَلَى طَرِيقٍ عَنْ يَمِينِي فَسَلَكَتُهَا حَتَّى إِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى

پھر مجھ پر دائیں جانب سے ایک راہ پیش کی گئی تو میں اس پر چل پڑا حتیٰ کہ جب میں ایک صاف اور ملائم

جَبَلٍ زَلِقٍ فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَجَلَنِي حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقَالَ

پتھروں والے پہاڑ تک پہنچ گیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے زور سے اُوپر دھکیلا حتیٰ کہ میں نے اُوپر لٹکے کندے اور حلقے کو

اسْتَمْسِكْ قُلْتُ نَعَمْ فَضَرَبَ الْعَمُودَ بِرَجْلِهِ فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ

پکڑ لیا تو اس نے کہا کیا تو اسے پکڑے رہے گا تو میں نے کہا ہاں تو اس نے ستون پر اپنا پاؤں مارا تو میں اس حلقے سے چٹا رہا

فَقَالَ قَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ خَيْرًا

انہوں نے کہا پس میں نے وہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا آپ نے فرمایا تو نے اچھا خواب دیکھا

أَمَّا الْمَنْهَجُ الْعَظِيمُ فَالْمَحْشَرُ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي عَرَضْتُ عَنْ

وہ کشادہ راستہ میدان محشر ہے۔ اور وہ راستہ جو تیری بائیں جانب

يَسَارِكَ فَطَرِيقُ أَهْلِ النَّارِ وَلَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا وَأَمَّا الطَّرِيقُ الَّتِي

پیش آیا تو وہ اہل نار کا راستہ ہے اور تو ان سے نہیں ہے۔ لیکن وہ راستہ جو

عَرَضْتُ عَنْ يَمِينِكَ فَطَرِيقُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَمَّا الْجَبَلُ الزَّلِقُ

دائیں جانب نمودار ہوا تو وہ اہل جنت کا راستہ ہے لیکن پھسلن والا پہاڑ

فَمَنْزِلُ الشَّهَادَةِ وَأَمَّا الْعُرْوَةُ الَّتِي اسْتَمْسَكْتَ بِهَا فَعُرْوَةُ الْإِسْلَامِ

پس وہ شہداء کی قیامگاہ ہے۔ لیکن وہ حلقہ جس کو تو نے مضبوطی سے تھاما تو وہ اسلام کا حلقہ ہے

فَاسْتَمْسِكْ بِهَا حَتَّى تَمُوتَ فَإِنَّا أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

لہذا اسے مضبوطی سے تھامے رکھ حتیٰ کہ تجھے اسی حالت پر موت آئے پس میں امید رکھتا ہوں کہ تو اہل جنت سے ہو گا



فَاذْهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ اللَّهُ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ ابْنُ

پھر معلوم ہوا کہ وہ بزرگ حضرت عبداللہ بن سلام تھے۔ اے اللہ صلوات و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ حضرت ابن

حُزَيْمَةَ أَنَّهُ يَرَى فِيهَا يَرَى النَّائِمَ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى جِبْهَةِ النَّبِيِّ صَلَّى

حزیمہ نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے جبین نبی صلی اللہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَضْطَجَعَ لَهُ وَقَالَ صَدَّقْتُ رُؤْيَاكَ فَسَجَدَ

علیہ وسلم پر سجدہ کیا ہے (جب یہ خواب) انہوں نے آپ سے عرض کیا تو آپ لیٹ گئے اور فرمایا اپنے خواب کو سچا کر لو بیٹا انہوں

عَلَى جِبْهَتِهِ وَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ

نے آپ کی پیشانی پر سجدہ کیا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَرَقَةَ فَقَالَتْ خَدِجَةُ إِنَّهُ كَانَ

وزق بن نوفل کے متعلق تو آپ سے حضرت خدیجہ نے عرض کیا اس نے

قَدْ صَدَّقَكَ وَلَكِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

آپ کی تصدیق کی تھی۔ لیکن آپ کی نبوت کے ظہور سے قبل ان کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ

عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ أُرِيَتْهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيْضٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ

علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا وہ خواب میں مجھے دکھلایا گیا جبکہ اس کے کپڑے سفید تھے اور اگر وہ

أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اہل نارسے ہوتا تو اس کا لباس اس سے مختلف ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِإِلَاسْحَارِ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ ابْنُ

سب سے زیادہ سچے خواب اوقات سحر والے ہوتے ہیں۔ اے اللہ صلوات و رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے فرمایا

أَفْرَى الْفَرَى أَنْ يَرَى الرَّجُلُ عَيْنِيهِ مَا لَمْ تَرِيَا اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا

بڑے افسرآت میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو دکھلائے جو انہوں نے نہیں دیکھا یعنی جھوٹے خواب بیان کرے۔ اے اللہ صلوات

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ مَنْ تَحَلَّمَ حُلْمًا كَاذِبًا كَلَّفَ أَنْ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے فرمایا جس نے جھوٹا خواب بیان کیا تو اسے مکتف ٹھہرایا جائے گا



يَعْقِدُ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَيُعَذِّبُ عَلَى ذَلِكَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا

جو کے دو دائروں میں گانٹھ دینے کا اور عذاب دیا جائے گا اس کی وجہ سے۔ پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ان اشیاء کی

خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ

مقدار جو آسمانوں میں پیدا کیے اور تسبیح ہے اللہ کے لیے ان کی مقدار جو زمین میں پیدا کیے اور تسبیح ہے

اللَّهُ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ

اللہ کے لیے بمقدار ان اشیاء کی جو ان کے درمیان ہیں اور تسبیح ہے اللہ کیلئے ان کی مقدار جنہیں وہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ بخش

لِي ذَنْبِي كُلَّهُ مِنْ الْكِبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ دِقَّةَ وَجِلَّةٍ وَأَوَّلَهُ وَأَخْرَعَهُ وَ

مے میرے تمام گناہ کبار اور صغائر، چھوٹے اور بڑے اول اور آخر

عَلَانِيَةً وَسِرَّةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَافَاتِكَ

علانیہ اور خفیہ۔ اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری رضا کے طفیل تیری ناراضگی سے اور تیری عفو کے طفیل

مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا

تیری عقوبت سے اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری ذات کے طفیل تجھ سے۔ میں نہیں احاطہ کر سکتا تیری ثناء کا تو اسی ثناء

أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي خَلْقِي وَطَيِّبْ لِي

کے لائق ہے جو خود اپنی ذات پر کی ہے۔ اے اللہ میرے گناہ بخش اور میرے اخلاق وسیع بنا اور میری کمائی کو پاکیزہ بنا

كَسْبِي وَقَتِّعْنِي بِمَارِزِقَتِي وَلَا تَذْهَبْ إِلَيَّ سَيِّئِي صَرَفْتَهُ عَنِّي وَأَعْطِنِي

اور مجھے قانع بنا اس کے ساتھ جو عطا کیا اور نہ جا طرف میری اس برائی کے جسے تو نے مجھ سے پھیر دیا اور مجھے کامیابی کا نشان

عَلِمًا نَجِيحًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ اللَّهُمَّ قَتِّعْنِي بِمَارِزِقَتِي وَبَارِكْ لِي

علم عطا کر اور ایسی تجارت جو کبھی برباد نہ ہو۔ اے اللہ مجھے قانع بنا اپنے عطا کردہ رزق پر اور نگران بن اور

وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ يَا صِرِيحَ الْمُسْتَضْرِحِينَ يَا مُنْتَهَى

ہر اس چیز کے جو مجھ سے غائب ہے ساتھ خیر کے اے فریادوں کی جائے فریاد اور رونے

الْعَائِدِينَ يَا مُفَرِّجَ الْكُرُوبِ يَا مُفَرِّجَ الْكُرُوبِ يَا مُفَرِّجَ الْغُومِ يَا مُفَرِّجَ الْغُومِ

دالوں کا مریح اور غمزدگان کے غم گسار اور غمگینوں کو فرحت بخشنے والے

مَنْزُولٌ لَدَيْكَ بِكُلِّ حَاجَةٍ أَلْهَمَّا نِيَّ اسْتِغْفْرِكَ لِمَا تَبَتْ إِلَيْكَ مِنْهُ

تیری بارگاہ ہی محل نزول ہے ہر حاجت مند کی حاجت کیلئے۔ اے اللہ میں منقرت طلب کرتا ہوں تجھ سے اس گناہ کی جس سے میں

وَعَدْتُ فِيهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا أَعْرَضْتُكَ مِنْ سُوءِ نَفْسِي فَلَمْ أَتُبْ

نے توبہ کی اور پھر اس کی طرف لوٹا اور استغفار کرتا ہوں اس گناہ سے جس میں میں نے تجھ سے روگردانی کی اپنے نفس کی برائی کی وجہ سے پس میں نے

إِلَيْكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي تَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ

تیری طرف توبہ نہ کی اور استغفار کرتا ہوں تجھ سے ان نعمتوں کی وجہ سے جن کے ساتھ میں نے تقویت حاصل کی تیری معصیت پر اور استغفار

لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ اللَّهُمَّ لَا

کرتا ہوں ہر خیر کے لیے جس میں تیری رضا کا ارادہ کیا پس اس میں شامل ہو گیا جو نہیں تھا تیری رضا کے لیے۔ اے اللہ

تُخْزِنِي فَإِنَّكَ بِي عَالِمٌ وَلَا تُعَذِّبُنِي فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَادِرٌ اللَّهُمَّ اسْتَجِرْكَ

مجھے رسوا نہ فرمانا کیونکہ میرے متعلق علم رکھتا ہے۔ اور مجھے عذاب نہ دینا کیونکہ تو مجھ پر قادر ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ طلب

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَ وَأَحْتَرَسُ بِكَ مِنْهُمْ وَأَجْعَلُ لِي وَلِيَّةً وَ

کرتا ہوں تیری ہر پردہ شئی سے اور حفاظت حاصل کرتا ہوں تیری ان کے شر سے اور بنا میرے لیے حقیقی دوستی۔

زُلْفَى وَحَسَنَ مَا بَطَّ وَأَجْعَلْنِي مِمَّنْ يَخَافُ مَقَامَكَ وَوَعِيدَكَ وَ

قرب منزلت اور اچھا انجام اور بنا مجھے ان لوگوں سے جو ڈرتے ہیں تیرے حضور قیام سے اور تیری وعید سے اور

يَرْجُو لِقَاءَكَ وَأَجْعَلْنِي مِمَّنْ يَتُوبُ إِلَيْكَ تَوْبَةً تَصُوحًا وَصَلَّى

امید رکھتے ہیں تیری ملاقات کی اور بنا مجھے ان لوگوں سے جو تیری بارگاہ میں خالص توبہ کرتے ہیں اور رحمت کاملہ

اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِلَهِي بِجَاهِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا

نازل فرماوے اللہ تعالیٰ سیدنا محمد پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اور سلام نازل فرمائے۔ اے میرے الٰہ اپنے نبی اکرم سیدنا

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكَ وَمَكَانَتِهِ لَدَيْكَ وَمَحَبَّتِكَ لَهُ

محمد کی عزت و مرتبت کے طفیل اور تیری ان سے جو محبت ہے اور انہیں

وَمَحَبَّتِهِ لَكَ وَبِالسِّرِّ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ وَسَلِّمَ

جو تجھ سے محبت ہے اس کے تصدیق میں اور جو اسرار تیرے اور ان کے درمیان ہیں ان کے طفیل میں سوال کرتا ہوں کہ صلوات و سلام نازل کرے

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَضَاعِفِ اللَّهُمَّ مَحَبَّتَهُ فِيَّ وَعَرَفْتَنِي بِحَقِّهِ

ان پر اور ان کی آل اور اصحاب پر اور کئی گنا بڑھائے ان کی محبت اور مجھے ان کے حق اور مراتب کی معرفت عطا کر

وَرْتَبَهُ وَوَقَّفْتَنِي لِاتِّبَاعِهِ وَالْقِيَامِ بِأَدَبِهِ وَسُنَّتِهِ وَاجْمَعْنِي عَلَيْهِ

اور ان کی اتباع اور آداب و سنت اور سنت کو قائم کرنے کی توفیق بخش۔ مجھے ان کے ساتھ رکھنا ان کے

وَمَتَّعْنِي بِرُؤْيَيْتِهِ وَأَسْعِدْنِي بِمُكَالَمَتِهِ وَارْفَعْ عَنِّي الْعَوَائِقَ وَالْعَلَائِقَ

دیدار سے نفع اندوز کرنا اور ان کی ہمکلامی سے بہرہ در کرنا اور دور فرماتا مجھ سے رکاوٹوں اور اسباب

وَالْوَسَائِطَ وَالْحِجَابَ وَشَنِّفْ سَمْعِي مَعَهُ بَلْدًا يَذُ الْخَطَابَ وَهَيِّئْ لِي

و وسائط اور حجابات کو اور مزین فرماتا میرے کانوں کو ان کے لذیذ خطاب کے سننے سے اور مجھے آمادہ فرما

لِلتَّلَقِّي مِنْهُ وَأَهْلِي لِي خِدْمَتِهِ وَاجْعَلْ صَلَوَاتِي عَلَيْهِ نُورًا تَبْرَأُ كَامِلًا

ان سے اکتساب فیض کے لیے اور ان کی خدمت کا اہل بنا اور میرے درودوں کو بنائے (میرے حق میں) نورانی نیر کامل

مُكْمَلًا طَاهِرًا مُطَهَّرًا مَاجِيًا لِكُلِّ ظُلْمٍ وَظُلْمَةٍ وَشَكٍّ وَشَرِكٍ وَكُفْرٍ وَزُورٍ

و مکمل۔ طاہر و مطہر ہو کرے والے ہر ظلم اور ظلمت اور شک و شرک اور کفر و کذب بیانی کے لیے

وَاجْعَلْهَا سَبَبًا لِلتَّحْيِيصِ وَمُرْتَقًى لِأَنَالَ بِهَا أَعْلَىٰ مَقَامِ الْإِخْلَاصِ

اور بنا انہیں سبب میری تطہیر کا اور ذریعہ ارتقاء کا تاکہ حاصل کر سکوں ان کی بدولت اعلیٰ مقام اخلاص و

والتَّخْصِيصِ حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ فِيَّ رَهْبَانِيَّةٌ لِّغَيْرِكَ وَحَتَّىٰ أَصْلَحَ

تخصیص کا حتیٰ کہ نہ رہے مجھ میں ذرہ بھر خوف ماسوا کا اور میں تیری بارگاہ کے

لِحَضْرَتِكَ وَأَكُونَ مِنْ أَهْلِ خُصُوصِيَّتِكَ مُسْتَسْكِنًا بِأَدَبِهِ وَ

لائق ہو جاؤں اور تیرے اہل خصوصیت سے تمک کرتے ہوئے آپ کے آداب اور

سُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَمِدًّا مِنْ حَضْرَتِهِ الْعَالِيَةِ فِي

سنت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم استمداد کرتے ہوئے ان کی بارگاہ عالیہ سے

كُلِّ وَقْتٍ وَحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ثَلَجٍ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى ثَلُوجِ مُحَمَّدٍ

ہر وقت اور ہر لحظ۔ اے اللہ صلوٰۃ ورحمت نازل فرما سبزنا محمد کی ٹھنڈک پر اور صلوٰۃ بھیج سبزنا محمد کی تسکین و طمانیت

وَصَلِّ عَلَى حَصْحَصَةِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى حَصَانَةِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى

پر صلوات بھیج سیدنا محمد کے ظہور حق پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کی مضبوطی و ثبات قدمی پر۔ صلوات بھیج سیدنا

حَصَّةَ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى حَافِرَةِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى حَافَةِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ

محمد کے حصّہ پر۔ صلوات بھیج سیدنا محمد کی ابتدائی حالت پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کے ہر پہلو اور جانب پر۔ صلوات بھیج

عَلَى حَيَاةِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى حِرَاسَةِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى حُلَّةِ

سیدنا محمد کی حمایت پر۔ صلوات بھیج سیدنا محمد کی حراست پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کے حلہ

مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى حُلِيَّةِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى حِكْمَةِ مُحَمَّدٍ وَصَلِّ

پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کے حلیہ پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کی حکمت پر اور صلوات بھیج

عَلَى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى جَلِيمِهِ وَصَلِّ عَلَى خَلْقِهِ وَصَلِّ عَلَى شَرَفِهِ وَ

سیدنا محمد کے علم پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کے علم پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کے خلق پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کے شرف

صَلِّ عَلَى شَرَفَاتِهِ وَصَلِّ عَلَى فَخْرِ الْأَنْبِيَاءِ ذَمَامًا وَأَسْنَى الْأَنْبِيَاءِ

پر اور صلوات بھیج سیدنا محمد کی شرافت پر اور صلوات بھیج اوپر فخر انبیاء کے از روئے ذمہ داروں کے اور تمام انبیاء سے برتر

مَقَامًا وَأَثْبَتِ الْأَنْبِيَاءِ بُرْهَانًا وَأُظْهِرِ الْأَنْبِيَاءِ سُلْطَانًا وَأَجْمَلِ

مقام والے پر اور سب انبیاء سے ثبوت میں بلند پایہ برہان والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ ظاہر تسلط والے پر اور سب انبیاء

الْأَنْبِيَاءِ عَهْدًا وَأُصْدِقِ الْأَنْبِيَاءِ وَعُدًّا أَوْ لَطْفِ الْأَنْبِيَاءِ نِقَابًا وَ

جلیل ترین عہد والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ سچے وعدہ والے پر اور سب سے زیادہ لطیف نقاب والے پر اور

أَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ أَصْحَابًا وَأَقْوَى الْأَنْبِيَاءِ حُسَامًا وَأَزْكَى الْأَنْبِيَاءِ

سب انبیاء سے افضل اصحاب والے پر اور سب انبیاء سے قوی تلوار والے پر اور سب انبیاء سے پاکیزہ تر

سَلَامًا وَالْهَيْجِ الْأَنْبِيَاءِ سَبِيلًا وَأَرْجِحِ الْأَنْبِيَاءَ مِيزَانًا وَأَنْجِحِ الْأَنْبِيَاءَ

سلام والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ بار حق راستے والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ وزنی میزان والے پر اور سب انبیاء

إِيمَانًا وَالْكَثْرَةَ الْأَنْبِيَاءِ رِفْدًا أَوْ وَفْدًا وَأَفْضَحِ الْأَنْبِيَاءَ لِسَانًا وَأَوْفِرِ

سے زیادہ کایمان والے پر اور سب انبیاء سے زائد عطیات اور وفد والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ فصیح زبان والے پر اور سب سے زیادہ وافر



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْأَنْبِيَاءِ إِحْسَانًا وَأَفْقَهُ الْأَنْبِيَاءِ عِلْمًا وَأَعْظَمُ الْأَنْبِيَاءِ حِلْمًا وَأَعْلَى

احسان والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ فقہت و علم والے پر اور سب انبیاء سے عظیم تر علم والے پر اور سب انبیاء سے

الْأَنْبِيَاءِ قَدْرًا وَأَعَزُّ الْأَنْبِيَاءِ يُسْرًا وَأَظْهَرُ الْأَنْبِيَاءِ فِرْعًا وَأَظْهَرُ الْأَنْبِيَاءِ

اعلیٰ قدر والے پر اور سب انبیاء سے عزیز تر سہولت والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ پاکیزہ فرج و اولاد والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ

شَرْعًا وَأَعْظَمُ الْأَنْبِيَاءِ فَضْلًا وَأَكْمَلُ الْأَنْبِيَاءِ فِعْلًا وَاللَّيْنُ الْأَنْبِيَاءِ

ظاہر شرع والے پر اور سب انبیاء سے عظیم تر فضل والے پر اور سب انبیاء سے مکمل فعل والے پر اور سب انبیاء سے زیادہ نرم طبع والے

طَبْعًا وَأَحْسَنُ الْأَنْبِيَاءِ صُنْعًا وَأَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ نِصَابًا وَأَسِيرُ الْأَنْبِيَاءِ

پر اور سب انبیاء سے حسین تر صنع و عمل والے پر اور سب انبیاء سے افضل نصاب والے پر اور سب سے زیادہ قابلِ فخر اور مشورتر

فَخَرًّا وَأَشْهَرُهَا دُنُورًا أَزْهَرُ أَنْوَارِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَشْرَقُهَا وَأَوْضَحُهَا وَأَظْهَرُهَا

سیرت والے پر جن کا نور سب انبیاء کے انوار سے زیادہ روشن اور ضوئہ نگین - واضح ترین - پاکیزہ ترین اور سب

وَأَكْرَمُهَا خُلُقًا وَأَعْدَلُهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

سے زیادہ عزت و کرامت اور اعتدال والا ہے از روئے تحقیق کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ النَّاسِ نَفْسًا وَأَبَا وَأَظْهَرِ النَّاسِ قَلْبًا وَأَعْلَى النَّاسِ

آل پر جو سب لوگوں سے زیادہ پاکیزہ ہیں اپنی ذات میں اور آباء کے لحاظ سے اور سب سے پاکیزہ قلب والے ہیں اور تمام لوگوں

مَقَامًا وَأَحْلَى النَّاسِ كَلِمًا وَأَصْدَقِ النَّاسِ قَوْلًا وَأَزْكَى النَّاسِ

سے اعلیٰ مقام والے ہیں۔ اور شیریں تر کلام والے۔ سب سے زیادہ سچے قول والے اور سب سے پاکیزہ ترین فعل

فِعْلًا وَأَوْفَى النَّاسِ عَهْدًا وَأَوْ أَمْكَنِ النَّاسِ مَجْدًا وَأَكْرَمِ النَّاسِ

والے اور سب سے زیادہ وفاء و عہد والے اور سب سے زیادہ پائیدار مجد والے اور سب سے بزرگ ترین

طَبْعًا وَأَحْسَنِ النَّاسِ صُنْعًا وَأَطْيَبِ النَّاسِ فِرْعًا وَأَكْثَرَ النَّاسِ

طبیعت والے۔ سب سے حسین ترین صنع و عمل والے۔ سب لوگوں سے پاکیزہ ترین فرج والے۔ اور سب سے زیادہ

طَاعَةً وَسَبْعًا وَأَجَلِ النَّاسِ قَدْرًا وَأَسْنَاهُمْ فَخَرًّا وَأَصْدَقِ النَّاسِ

طاعت و قبولیت والے اور سب سے اجل قدر والے اور سب لوگوں سے بلند تر فخر والے اور سب سے زیادہ سچے وعدہ والے



وَعَدًا وَأَحْسَنَ النَّاسِ خَيْرًا وَأَجْمَلَ النَّاسِ صَبْرًا وَأَعْلَمَ النَّاسِ

اور سب سے زیادہ حسین خیرات والے۔ اور سب لوگوں سے جیل ترین صبر والے اور سب سے زیادہ توحید کا علم رکھنے

تَوْحِيدًا وَأَعْرَفَ النَّاسِ تَهْجِيدًا وَأَعْلَمَ النَّاسِ تَحْمِيدًا وَأَجْمَحَ النَّاسِ

والے۔ اور سب لوگوں سے زیادہ معرفت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنے کی اور سب سے زیادہ عالم حمد کرنے کے اور سب سے

دَلِيلًا وَأَبْلَجَ الزُّيُنَ وَأَبْرَجَ الْعَيْنَ وَأَنْهَجَ النَّاسِ سَبِيلًا وَأَعْظَمَ

مؤثر دلیل والے۔ واضح زینت والے حسین آنکھوں والے اور سب سے کشادہ اور وسیع راستہ والے۔ اور سب لوگوں سے عظیم تر

النَّاسِ شَانًا وَأَقْوَى النَّاسِ دَلِيلًا وَبُرْهَانًا وَأَوَّلَ النَّاسِ إِيْمَانًا وَ

شان والے اور سب سے قوی تر دلیل و برہان والے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے

أَرْجَحَ النَّاسِ مِيزَانًا وَأَوْضَحَ النَّاسِ بَيَانًا وَأَخْرَجَ النَّاسَ إِثْمَانًا وَ

سب سے وزنی میزان والے اور سب سے واضح ترین بیان والے اور سب سے آخر میں تشریح لانے والے

أَكْمَلَ النَّاسِ إِنْسَانًا وَأَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا وَأَوْسَعَ النَّاسِ صَدْرًا

سب انسانوں سے کامل ترین انسان اور سب سے بلند تر قدر والے اور سب سے وسیع ترین سینہ والے

وَأَكْثَرَ النَّاسِ أُمَّةً وَأَثْبَتَ النَّاسَ أَصْلًا وَأَبْعَدَ النَّاسَ مَكَانًا وَ

سب انبیاء سے کثیر امت والے اور سب سے مضبوط و راسخ اصل والے اور سب سے بلند تر مرتبہ و مکانت والے

أَرْفَعَ النَّاسِ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى ذِكْرًا وَأَعْظَمَ النَّاسِ فَخْرًا وَأَشْهَرَهَا

سب سے بلند تر از روئے ذکر کے ملاء اعلیٰ میں۔ اور عظیم ترین از روئے فخر کے اور مشہور ترین اور

وَأَكْمَلَ النَّاسِ نُورًا وَأَزْهَرَهَا وَأَوْضَحَ النَّاسِ شَرِيعَةً وَأَظْهَرَهَا

کامل ترین از روئے نورانیت کے اور سب سے زیادہ روشن۔ اور سب سے زیادہ واضح از روئے شریعت کے اور سب سے زیادہ ظاہر

وَأَكْمَلَ النَّاسِ دَرَجَةً وَأَظْهَرَهَا وَأَجْزَلَ النَّاسِ عَطِيَّةً وَأَوْفَرَهَا

اور سب سے کامل تر از روئے درجات کے اور پاکیزہ ترین اور سب سے جزیل و عظیم از روئے عطیات اور سب سے وافر عطیات والے

وَأَكْرَمَ الْخَلْقِ نَسَبًا وَأَبَاؤَ أَكْثَرِهِمْ مَحَلًّا وَأَكْمَلَهُمْ مَحَاسِنًا وَفَضَّلَهُ

اور سب مخلوق سے گرامی تر از روئے نسب اور آباء کے اور عظیم ترین از روئے مقام و محل کے اور کامل ترین از روئے محاسن و فضیلت کے

وَأَثْبَتَهُمْ بِرُحْمَانَا وَأَصْدَقَهُمْ وَعَدَاوَاكَ أَكْثَرَهُمْ شُكْرًا وَأَعْلَاهُمْ

اور سب ثابت ترین از روئے برہان کے اور سب سے پچے از روئے وعدہ کے اور سب اکثر از روئے شکر کے اور سب بلند

أَمْرًا وَأَقْرَبَهُمْ يُسْرًا وَأَزْكَاهُمْ سَلَامًا وَأَعْظَمَهُمْ فَخْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ

از روئے امر کے اور قریب تر از روئے یسر کے اور سب پاکیزہ تر از روئے سلام کے اور عظیم تر از روئے فخر کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب انبیاء سے افضل ہیں از روئے

مُعْجَزَاتٍ وَأَوْرَاقِ تَرْبِيَانَا وَخَطَابَاتِنَا وَأَفْضَلِهِمْ مَوْلِدًا أَوْ مَهَاجِرًا

معجزات کے اور واریخ تریبیان والے ہیں اور خطاب والے۔ اور سب افضل ہیں از روئے مقام ولادت مقام ہجرت

وَعْتَرَةً وَأَصْحَابًا وَأَعْتَى الْعَرَبِ نَصَابًا وَأَبِينِ الْعَرَبِ خَطَابًا وَ

اور عترت واصحاب کے۔ اور سب عربوں سے زیادہ غنی ہیں از روئے نصاب کے اور واریخ تریبیان از روئے خطاب کے اور

أَكْثَرَ الْعَرَبِ نَيْلًا وَطَوْلًا وَأَرْسَلَهُ مِنْ أَرْجَحِ الْعَرَبِ مِيزَانًا وَأَوْضَحَهَا

تمام عربوں سے اکثر ہیں از روئے حصول مقاصد اور طاقت کے اور مسموث فرمایا انہیں وزنی میزان والے عربوں سے اور واضح ترین

بَيَانًا وَأَوْفَاهَا ذِمًّا مَّا وَأَصْفَاهَا زَعَامًا وَأَوْضَحَ الطَّرِيقَةَ وَنَصَحَ

بیان والوں سے اور سب زیادہ ذمہ دار بایں نجانے والوں سے اور انتہائی صاف ستھری قیادت والوں سے اور واضح کیا انہوں نے طریقت کو اور

الْخَلِيقَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَقِيقَةِ الْمَقْدَّسَةِ الْمَحِيطَةِ بِأَنْوَاعِ

ہمدردی نوبائی مخلوق سے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما اس حقیقت مقدسہ پر جو محیط ہے تمام انواع آثار

الْأَثَارِ مَعَ الْبَصَائِرِ وَالْأَبْصَارِ مَلَأَتْ جَدَاوِلَهُمْ بِأَنْوَاعِ مِيَاهِ الْحَيَاةِ

کو جمع بصیرتوں کے اور نگاہوں کے۔ بھر دیا ہے تونے ان کی آبی نالیوں کو آب حیات کے جملہ اقسام سے

حَتَّى عَرَفُوكَ بِالْأَلُوْهِيَّةِ وَالصَّفَاتِ الْكَمَالِيَّةِ فَهَذِهِ الرَّحْمَةُ مِنْكَ

حتیٰ کہ انہوں نے تجھے پہچان لیا الوہیت اور صفات کمال کے ذریعے سے۔ تو تیری یہ رحمت عظیم ترین

مِنْ أَعْظَمِ الْإِنْعَامَاتِ لَيْسَ فِيهَا فُصُورٌ وَغَيْرُ مَحْصُورَةٍ فِي

النعامت میں سے ہے جس میں کوئی کوتاہی نہیں اور نہ ہی وہ منحصر و محدود ہیں صرف



مَوْجُودٌ دُونَ مَوْجُودٍ بَلْ هِيَ بَحْرٌ مَّوْجٍ يَغْمَسُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِّنْ

ایک موجود میں سوائے دوسرے کے بلکہ تیرے انعامات ٹھاٹھیں مار تے سمندر ہیں جو ہر ایک کو ہر ساعت میں اپنے

السَّاعَاتِ فَرَحْمَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ كُلِّ الْمَخْلُوقَاتِ فَلَا يَقْرُنُهَا أَلْفُ

اندر غرق کرتے ہیں۔ پس تیری رحمت زیادہ وسیع ہے تمام مخلوقات سے نہیں بانٹ کر ختم کر سکتے اس کو

أَلْفِ عَالِمٍ مِّثْلَ هَذِهِ الْمَوْجُودَاتِ الْعُلُويَّاتِ وَالسَّفَلِيَّاتِ فَرَحْمَتِكَ

دس لاکھ جہان مثل ان موجوداتِ علویہ اور سفلیہ کے پس تیری رحمت

مُتَنَوِّعَةٌ بِأَنْوَاعِ الْمَوْجُودَاتِ كَرَحْمَتِكَ فِي حَقِّ الْعَرْشِ مِنْ أَنَّكَ

مختلف النوع ہے مطابق انواع موجودات کے مانند تیری رحمت کے حق عرش میں

خَلَقْتَهُ أَعْظَمَ السَّمَوَاتِ ثُمَّ رَبَطْتَ الطُّلُوعَ وَالْغُرُوبَ بِهِ بَرَّاقًا

کہ اس کو تمام آسمانوں سے عظیم تر بنایا پھر طلوع و غروب کو متعلق فرمایا ساتھ اس کے درآئیکہ وہ روشن

مُتَلَا أَلَا غَيْرَ مَوْكِبٍ طَلَبًا صِفْصِفَاتِ حَتَّى مَسْكِنٍ لَاهُوتِيَّاتٍ وَفِي

اور چمکدار ہے نہیں جمعیت کا طالب بلکہ تنہا رواں دواں ہے اس کے نیچے مسکن ہے لاهوتی مخلوق کا اور اس کی

لَوْحِهِ كَلِمَاتٌ مَّسْطُورَاتٌ وَظِلَّةٌ يَوْمَ الْجَزَاءِ وَالْحَرِيمِ مَنْ تَقَرَّبُ

لوح پر کلمات منقوش و مسطور ہیں اور اس کا سایہ روز جزا اور تپش محشر کے وقت ان کیلئے ہوگا جنہوں نے تیرا

إِلَيْكَ بِحُسْنِ الطَّاعَاتِ وَالتَّصَدِيقَاتِ مِنَ السَّابِقِينَ وَالسَّابِقَاتِ

تیرے پاس حاصل کیا حسن طاعات اور تصدیقات کے ساتھ اہل سبقت مردوں اور عورتوں میں سے

وَتَعْظِيمُهُ فِي الْمَثَلِ وَالْكُنَايَاتِ فِي الْقُدْسِيَّاتِ وَحَمَلْتَهُ أَعْظَمُ

اور اس کا بیان عظمت بطور امثال و کنایات ہے تقدس میں اور اس کو اٹھانے والے سب

الْمَخْلُوقَاتِ مُشْرِفَةٌ بِتَعْلِيْقِ الْقَائِمِ فَيَأْتِي إِلَهَ مَلَائِكَةِ الْعَرْشِ

مخلوق سے عظیم تر ہیں جو مشرف ہیں عرش کے ہر پایہ کے ساتھ متعلق ہونے سے پس اے حاملین عرش ملائکہ کے

اجْعَلْنِي مَحْبُوبًا عِنْدَهُمْ فَأَهْبِشْ أَسْرَارَهُمْ فِي قَلْبِي هَابِشًا قَاعِلًا

الربیعہ ان کے ہاں محبوب بنا دے پس جمع کر لوں میں ان کے اسرار کو اپنے دل میں درآئیکہ کہنے والا ہوں



لَتَسْبِيحَاتِهِمْ وَرُوحِي أَخِذَةَ لَفِيضِهِمْ وَمَدَدِهِمْ مُفِيضَةً عَلَيَّ

انہیں کی تسبیحات اور میری روح ان سے فیض اور مدد حاصل کرتے ہوئے فیض رساں ہو

نَفْسِي فَتَكُونُ نَافِذَةً مِّنْهُ إِلَىٰ أَحِبَّائِي إِيثَارًا لِلأَخَوَةِ عَلَيَّ وَجْهَهُ

میرے نفس پر رہیں وہاں سے نافذ ہو میرے احباب کی طرف اس اخوت و محبت کو ترجیح دیتے ہوئے جیسے کہ اس کا حق ہے

فِي كَلَامِ اللَّهِ ثُمَّ رَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةَ وَالْعِلْمَ الْحَقُّ قَدْ أَحَاطَتْ بِكُلِّ

جو کلام الہی میں ثابت ہے پھر تیری وسیع رحمت اور برحق علم محیط ہیں

شَيْءٍ مِّنَ السَّمَوَاتِ الْمُدَوَّرَاتِ مَعَ الْكَوَاكِبِ حَتَّىٰ صَدْرُنَ مُزَيِّنَةً

بہر شئی کو حتیٰ کہ مدور شکل کے آسمانوں میں سے ہر ایک کو بیچ کواکب کے حتیٰ کہ وہ مزین ہو گئے

مُتَحَرِّكَةً بِحَرَكَتِ هِيَ أَحْسَنُ الْحَرَكَاتِ فِي حَقِّهِمْ وَتَلَاؤَاتِ الْكَوَاكِبِ

اور حرکت پذیر ہو گئے ایسی حرکت کے ساتھ جو ان کے حق میں سب حرکات سے حسین ترین ہے اور جگہ جگہ اُٹھ

بِالشُّعَاعَاتِ الْفَائِضَةِ عَلَيْهِمْ مِّنْ عَكْسِ الْأَنْوَارِ خُصُوصًا عَلَيَّ

تساے ان شعاعوں کے ساتھ جو ان پر نازل ہونے والی ہیں عکس انوار سے بالخصوص

التَّيْرِينَ مِنَ النُّورَيْنِ الْكَائِنَيْنِ مِنْ عَكْسِ الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ

ان دو نیروں پر جو نور ہیں ان دو نوروں سے جو جلال و جمال خداوندی کا عکس ہیں

حَتَّىٰ صَارَ فِي عَالِمِ الْأَجْسَامِ عَلَيَّ وَجْهَ الرَّحْمَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِقَوَامِ

حتیٰ کہ ہو گیا عالم اجسام میں رحمت باری کی وجہ سے جو مقتضی ہے

نِظَامِ الْمَحْسُوسَاتِ أَحَدُهُمَا طَبَاخٌ وَالْآخَرُ صَبَاغٌ وَوَهَبْتَ التَّأَثِيرَاتِ

محسوسات کے نظام کی پائیداری کی ان دونوں سے ایک پخت و پز کرنے والا اور دوسرا رنگ و زینت دینے والا اور تو نے بخشی ہیں ان کے تاثرات

لَهُمَا مِنْ مَّحْضِ جُودِكَ وَاقْتِضَاءِ قُدْرَتِكَ فِيهِ تَحْتَ أَمْرِكَ

محض اپنے جود اور تقاضے قدرت سے پس وہ سبھی تیرے حکم کے ماتحت

مُطِيعَةٌ لِّكَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

اور اطاعت گزار ہیں اور سورج چلتا ہے اپنے مستقر تک۔ یہ حد بندی ہے عزیز و علیم

فَرَحْمَتِكَ وَسِعَتْ فِي حَقِّهَا حَتَّىٰ أَحَاطَ ضَوْءُهَا بِكُلِّ الْمَوْجُودَاتِ

کی طرف سے، تو تیری رحمت وسیع ہے ان دونوں کے حق میں حتیٰ کہ احاطہ کر رکھا ہے ان دونوں کی روشنی نے ان تمام موجودات

تَحْتِهَا وَشَرَّفَتْهَا بِأَنْوَاعِ التَّشْرِيفَاتِ فَكَذَلِكَ إِرْحَمْ عَلَيَّ عَبْدَكَ

کا جہان کے نیچے ہیں اور تو نے انہیں مختلف اقسام کی فضیلتوں سے مشرف فرمایا پس ایسے ہی اپنے اس عبد پر رحم فرما

هَذَا بِأَنْوَاعِ التَّشْرِيفَاتِ فَكَذَلِكَ إِرْحَمْ عَلَيَّ عَبْدَكَ هَذَا بِأَنْوَاعِ

مختلف النوع فضائل کے ساتھ اور ایسے ہی رحم فرما اپنے اس بندے پر مختلف اقسام کے

الْآثَارِ الَّتِي لَا يَعْلَمُ بِهَا إِلَّا عِنْدَ تَحَقُّقِهَا أَوْ ظُهُورِ الْآثَرِ مِنْهَا مِنْ

آثار کے ساتھ جن کا علم نہ ہو سکے کسی کو بھی مگر ان کے تحقق کے وقت یا ان کے اثر کے اذروے

حَيْثُ الطَّلَعُ وَالْجِبَالُ بِحَيْثُ صَارَ شَخْصَةً مُسْتَغْرِقًا فِي

طلعت و جمال ظاہر ہونے کے وقت اس انداز سے کہ اس عبد کا وجود مستغرق ہو جائے

الْمُشَاهَدَاتِ مَعَ بَقَاءِ الشَّخْصِ الْبَشَرِيِّ وَالرُّوحِ الْإِنْسَانِيِّ فِيهَا

مشاہدات میں مع باقی رہنے شخص بشری اور روح انسانی کے پس لے

خَالِقِ السَّبْعِ السِّيَّارَةِ وَالْخَمْسَةِ الْمُتَحَيِّرَةِ وَسَائِرِ الْكَوَاكِبِ كُلِّهَا

پیدا کرنے والے سات سیارات کے اور پانچ متحیر و لرزہ بر اندام میرات کے اور دیگر تمام ستارگان کے

سَجَّرَهَا لِنَافِي ظُهُورِ الْفِعْلِ مِنْهَا حِينَ قَصَدَ هَذَا الدَّاعِيَ إِلَيْهَا

مسخر فرما ان سب کو ہمارے لیے ظہور افعال کے حق میں وقت ارادہ کرنے اس دعا گو کے ان کا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْمُقَدَّمِ عِنْدَكَ عَلَى سَائِرِ مَخْلُوقَاتِكَ وَ

اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بظیفیل اس ذات کے جو تیرے ہاں مقدم ہیں سب مخلوقات پر اور

بِالْمُتَصَرِّفِ فِي أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَوَاتِكَ الَّذِي سَمَّيْتَهُ فِي الْأَرْضِ

بظیفیل اس ذات کے جو متصرف ہیں اہل ارض اور اہل سموات میں جنہیں موسوم کیا ہے تو نے زمین میں

بِمُحَمَّدٍ فِي السَّمَاءِ بِمَحْمُودٍ وَخَصَّصْتَهُ بِاللَّوَاءِ الْمَعْقُودِ وَالْمَقَامِ

اسم محمد کے ساتھ اور آسمان میں محمود کے ساتھ اور مخصوص بظہرایا ہے انہیں لواء الحمد کے ساتھ اور بلند تر

الرَّفِيعِ الْكَرِيمِ وَأَنْ تُمَدِّنِي بِأَمْدَادِهِ وَأَنْ تُسْقِيَنِي بِشَرِبَةٍ مِّنْ

اور بزرگتر مقام کے ساتھ کہ تو امداد مہیا فرمائے ان کی خاص امداد سے اور پلائے مجھے ان کے

خَمْرِحَّتِهِ وَوَدَادِهِ وَأَنْ تُبَدِّلَنِي نَفْحَةً مِّنْ نَّفْحَاتِهِ وَأَنْ تُخَصِّصَنِي

شراب محبت و مودت سے ایک گھونٹ اور مجھے عطا کرے عظیم عطیہ ان کے عطیات سے اور مجھے مخصوص ٹھہرائے

بِجَدَابَةٍ مِّنْ عَظِيمِ جَدَابَاتِهِ وَأَنْ تَمَنَّ عَلَيَّ بِالصَّدَقِ الْكَامِلِ فِي

ان کے عظیم جذبات میں سے خاص جذب کے ساتھ اور مجھ پر احسان فرمائے ان کی محنت میں صدق کامل

مَحَبَّتِهِ وَالْوَدِّ الشَّامِلِ لِأَهْلِ مَوَدَّتِهِ يَا مَنْ لَا يَرُدُّ السَّائِلَ خَائِبًا

اور ایسی مودت کامل کے ساتھ جو شامل ہو ان کے اہل مودت کو بھی ایکہ تو نہیں لوٹاتا ساملوں کو حالت حرمان میں

أَسْأَلُكَ بِجُمْلَةِ الْحَيَاتِ أَنْ تُحَقِّقَنِي بِإِتِّبَاعِ الشَّرِيعَةِ السَّامِيَةِ

میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے جملہ اجزاء کے طفیل کہ مجھے موصوف و منصف کرے شریعت عالیہ کی

وَالْإِقْتِدَاءِ بِطَرِيقَتِهِ النَّامِيَةِ لِأَكُونَ بِذَلِكَ مِنَ الْفَاعِلِينَ وَعَلَى

اتباع اور طریقت گرامی کی اقتداء کے ساتھ تاکہ ہو جاؤں میں اس کے ساتھ کامیابی حاصل کرنے والوں سے

الْكَوْثَرِ مِنَ الْوَارِدِينَ يَا قَوْمِي يَا مَتِينِ اللَّهُمَّ بِبَرَكَتِكَ قَدْرَهُ عِنْدَكَ

اور حوض کوثر پر وارد ہونے والوں سے اے صاحب قوت۔ اے پائیدار و مستحکم۔ اے اللہ بطفیل ان کی قدر مبارک جو

أَجِبْنِي يَا عَجِيبَ الصَّنَائِعِ يَا مَنِيْعَ يَا مَعِينِ يَا مَعْبُودَ يَا مَقْصُودَ يَا

تیری بارگاہ میں ہے میری عرض قبول فرما۔ اے عجیب صنایع والے اے ناقابل تسخیر۔ اے معین۔ اے معبود۔ اے مقصود۔ اے

مَوْجُودُ اتِّبَاعِ حُرْمَتِهِ جَمِيعَ سُؤْلِنا فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَأَخْرَجْتَنَا

موجود عطا کر ہمیں ان کی حرمت و معززت کے طفیل ہمارے تمام مطالب دینی اور دنیاوی اور اخروی۔

أَنْتَ مَوْلَانَا أَحِبُّ دُعَائِنَا وَلَا تُخَيِّبْ أَمَالِنَا وَأَمَالَ جَمِيعِ أَحْبَابِنَا

تو ہی ہمارا مددگار ہے ہماری دعا قبول فرما اور ہماری آرزوں کو حرمان سے دوچار نہ فرما اور اسی طرح ہمارے تمام

وَأَصْدِقَائِنَا وَأَهْلِنَا وَأَوْلَادِنَا وَالْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَالشَّقِيَّ وَالسَّعِيدَ

اجاب و اصدقاء اور اہل و اولاد اور قریب و بعید اور بد بختوں اور نیک بختوں کی آرزوں کو پورا فرمایا



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِحُرْمَةِ جَمِيعِ حُرُوفِ اللُّوحِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر بطیفیل عز و احترام ان تمام حروف کے جو لوح محفوظ میں

فِي عِلْمِ اللَّهِ وَمَنْ الْمَحْفُوظُ تَنْزِلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ

نقش ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور لوح محفوظ سے نازل کئے جانے ہیں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَلِفٍ

کلام اللہ ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب

الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَيَأْ بِرُهَانَ الدَّلَالَاتِ وَتَاءِ تَكْوِينِ

بدایت و نہایت کی الفت ہیں اور برہان و دلالات کی باء ہیں اور مخلوقات کی تکوین

الْمَكُونَاتِ وَتَاءِ شَوَابِ الْأَعْمَالِ الصُّلْحِ وَجِيمِ جَنَاتِ الْجَنَّتَيْنِ

و ایجاد کی تاء اور اعمال صالحہ کے ثواب کی ثاء اور جنتوں کے جنجا (تازہ چنے ہوئے پھلوں) کی جیم ہیں

وَخَاءِ حِمَايَةِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَخَاءِ خَتَامِ الْخَيْرَاتِ وَذَالِ دَلِيلِ

اور دین و دنیا میں حمایت کی خاء ہیں۔ خیرات کے ختام اور مہر کی خاء و خیل نجات کی ذال ہیں اور

التَّجَاتِ وَذَالِ ذُرِّوَالْمَعَالِيِ وَرَاءِ رُوحِ الشَّرْفِ الْعَالِيِ وَزَاءِ زَهْرَةِ

اعلیٰ صفات کے ذر و بلندی کی ذال ہیں۔ بلند مرتبت فضائل کے روح کی راء ہیں نورانیت و ضیاء کی زہرت اور بہار کی زاء ہیں

السَّنَاوِسِينَ السَّعَادَةِ وَسَحَابِ الْغُفْرَانِ وَشَيْنِ الشَّرَافَةِ وَ

سعادت اور مغفرت کے سحاب اور بادلوں کی سین ہیں۔ شرافت اور شامل جو درو نوال کی شین۔

شَمَائِلِ النَّدَى وَصَادِ صَلَاحِ الْأَخْيَارِ وَضَادِ ضَحَاءِ الْأَيَّامِ وَطَاءِ

نیب سیرت لوگوں کے صلاح و تقویٰ کا صاد۔ ایام کی ضاء، اور روشنی کی ضاد ہیں۔ روشن نور کے طراز و

طَرَازِ التُّورِ الْأَسْنَاوِطَاءِ ظُهُورِ الْآيَاتِ وَعَيْنِ عِرْفَانَ الْأَنَامِ وَ

نقش کی طاء ہیں و ظہور آیات کی ظاء ہیں اور عرفانِ خلائق کا عین ہیں

عَيْنِ غَيْبَةِ الْفَلَاحِ وَفَاءِ فَصَاحَةِ الْفُصَّاحِ وَقَافِ فَلَايِدِ

فلاح و کاشف غیبی کا عین ہیں۔ فصیح لوگوں کی فصاحت کی فاء ہیں۔ احسان و امتنان کے فلائد اور باروں کا



الْإِمْتِنَانِ وَكَافٍ كُنُوزِ الْهِدَايَاتِ وَلَا مِ لَوَامِعِ الْأَنْوَارِ وَمِيمٍ مَوَادِّ

قاف ہیں۔ کنوز ہدایات کا کاف۔ اور لوامع و روشن انوار کا لام۔ موام

الْأَسْرَارِ وَنُونٍ نَعِيمِ الْأَبْرَارِ وَوَاوِ وَصَالِ الْأَحْبَابِ وَهَاءُ هُدَى

اسرار کا میم اور ابرار و مسنین کے نعیم کانون اور وصال احباب کی واؤ اور ہدایت یافتگان کی

مَنْ اهْتَدَى وَلَا مِ الْأَسْبَابِ الْمَوْصِلَةَ إِلَى الْغُرْفِ وَالْعُرْفَانِ وَالْف

ہدایت کی ہاء۔ اور لام ہیں ان اسباب کا جو پہچانے والے ہیں جنت کے بالانوں اور منازل عرفان تک اور الف

إِرَادَةَ رَبِّ الْأَرْبَابِ وَيَاءُ يَدِ الْإِنْعَامِ الْمَوْدَعَةَ فِي الْقُرْآنِ

ہیں رب الارباب کے ارادہ کی۔ اور یاد ہیں بلند مرتبت ید اور دست انعام کی جو ودیعت کئے گئے ہیں قرآن میں

مَنْ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

مالک جلال و اکرام کی طرف سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُدْوَةَ السَّابِقِينَ وَاللَّاحِقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جو آقا مقتدا ہیں پہلوں اور پچھلوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِيَّاكَ عَلَى سَبِيلِ النَّجَاتِ وَالْمَوْصِلِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو رہنمائی فرمانے والے ہیں راہ نجات کی اور واصل کرنے والے ہیں

إِلَى رِضَاءِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

زمین اور آسمانوں کے مالک کی رضاء تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زَهَتْ بِهِ بَيْتُ الْعِزَّةِ وَعَدَّتْ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن پر فخر و نماز کیا بیت العزت نے اور جن کی بدولت

بِهِ النَّفُوسُ مُعْتَزَّةٌ وَالْقُلُوبُ فِي عِزَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

نفوس عزت پا گئے اور قلوب عزت والے بن گئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمَتْ بِهِ السَّمَوَاتُ وَتَرَانَتْ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت ایستادہ ہوئے افلاک اور زمینت حاصل کی



بِهِ طُرُقَ السَّمَوَاتِ وَأَشْرُقَتْ بِهِ الْبِشَارِقُ وَتَحَقَّقَتْ بِهِ الْحَقَائِقُ

ان کے ساتھ آسمانوں کے راستوں نے اور جگہ جگہ اُسٹھے ان کی وجہ سے افق شرق و مغرب اور انیس کی بدولت حقائق نے لباس و چوہ پینا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے طفیل

أَبِيحَ بِهِ لِأُمَّتِهِ نَعِيمَ الْجَنَّةِ وَبِهَجَّتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مباح کئے گئے ان کی امت کے لیے نعيم جنات اور ان کی رونق و بہار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَتُحِفُّ بِهِ الْإِنَامَ مَوَاعِدَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی بدولت تحفہ دیا گیا ساری مخلوق کو دوام و

الْخُلْدِ بِدَارِ السَّلَامِ وَتَالَ بِهِ أَهْلُ الْإِيمَانِ مَحَاسِنَ الْحُورِ وَ

خلود کے دسترخوان کا دارالسلام میں۔ اور پالیا آپ کی بدولت اہل ایمان نے حسین حوروں

الْوُلْدَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَكِرَّمْ وَعَظْمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور غلمان کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام۔ کرامت و عظمت اور برکت عطا فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يَرْجُو بِهِ مَنْ أَطَاعَهُ نَيْلَ

محمد کو اور آپ کی آل کو کہ جس محبوب کی بدولت امید رکھتے ہیں ان کے اطاعت گزار

الْخُلْدِ وَالشَّفَاعَةَ وَيَوْمَئِذٍ مَرْتَجِيهِ أَنْ يُنْقِذَهُ مِنَ النَّارِ وَيُنَجِّيهِ

شفاعت اور خلد کے حصول کی اور امیدیں رکھتے ہیں ان سے رجاء و امید رکھنے والے کہ انہیں بچائیں گے آتش و دوزخ سے اور اس نجات و نجات

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے طفیل

كُونَتْ بِهِ الْأَكْوَانُ وَرَفَعَتْ بِهِ دَرَجَاتُ الْجَنَّةِ وَسَعِدَ بِهِ

موجودات کو پیدا کیا گیا اور بلند کئے گئے ان کے طفیل جنات کے درجات اور سعادت مند ہو گئے ان کے طفیل

الرِّضْوَانُ وَالْوُلْدَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

رضوان جنات اور غلمان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی



إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْتَنَارَتْ بِهِ الْأَنْوَارُ وَأَمَّنَ بِهِ الْعُصَاةُ مِنْ

آل پر کہ جس محبوب کی بدولت انوار نے نورانیت حاصل کی اور امن و سلامتی حاصل کر لی عاصیوں نے ان کے طفیل

الْخُلُودِ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

آتش دوزخ میں ہمیشہ رہنے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي نَالَتْ بِهِ أُمَّتُهُ الْحِطُّوَةَ وَالْكَرَامَةَ وَظَهَرَتْ حُرْمَتُهُ

کی آل پر جن کی بدولت امت نے عزت و کرامت پائی اور ظاہر ہوئی ان کی حرمت

وَمَزَيَّتُهُ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور فضیلت قیامت کے میدانوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي يُنَادِي عِنْدَ ضَيْقِ الْخَلَائِقِ أَعْتَابِيَا

اور آپ کی آل پر جس محبوب کو نداء دی جائے گی مخلوقات کی تنگی اور پریشان حالی میں ہماری فریاد کو پہنچانے

مَلَاذِ الْخَلَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

سب مخلوق کی جائے پناہ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي نُورُ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ يَشْرُقُ وَلِوَانُهُ فِي الْحَشْرِ يَخْفِقُ

پر جن کے چہرہ کرامت کا نور چمکتا ہوگا اور میدان حشر میں ان کا لواء حمد لہراتا ہوگا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کی

أَظْهَرَ اللَّهُ قُدْرَةَ وَفَضْلَهُ يَوْمَ يَغْضِبُ الرَّبُّ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ

قدر و منزلت اور فضل و شرف کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا جس دن وہ ایسے غضب کا اظہار کرے گا کہ کبھی پہلے اس طرح کا اظہار

مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کیا اور نہ اس کے بعد اس کی مانند نالاض ہوگا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَمْنَقُ بِمَنْطِقَةِ الرِّضْوَانِ وَتَدَارِعُ

آپ کی آل پر جس محبوب نے رضوان و رضا مندی کا گم بند باندھا اور ترہ پہنی



يُدْرِعُ الْعِزَّ وَالْأَمَانَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

عزت و امان والی - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَدْخَلَهُ اللَّهُ فِي حِصْنِ كَنْفِهِ وَأَوْدَعَهُ اللَّهُ سِرًّا

محمد کی آل پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے داخل فرمایا اپنے پہلے رحمت کے مضبوط قلعہ میں ان میں دو لیت فرمایا

خَفِي لُطْفِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنے مخفی لطف کے راز کو - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي يَتَحَلَّلُ بِحُلَّةِ الْكِبَالِ يَوْمَ يَتَجَلَّى الْجَلِيلُ بِصِفَةِ

پر جو محبوب خلعت کمال کو زیب تن فرمائیں گے جس دن رب جلیل تجلی جلال کے ساتھ

الْجَلَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ظاہر ہوگا - اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي لَا يَزَالُ قَائِمًا بَيْنَ يَدَيْ الْجِبَارِ حَتَّى يُدْخَلَ أُمَّتَهُ دَارَ الْقَرَارِ

جو رب جبار کے حضور قیام پذیر رہیں گے یہاں تک داخل کریں گے اپنی امت کو دار قرار میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے

لَا يَزَالُ بَيِّدُهُ لَوَاءُ الْحُبِّ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ أُمَّتِهِ فِي الْمَوَاقِفِ أَحَدٌ

دست اکرام میں لوہہ الحمد رہے گا یہاں تک کہ نہ باقی رہے گا ان کی امت سے کوئی فرد موقف محشر اور بل مراط وغیرہ میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

يَتَجَلَّى بِحُسْنِ مَعَانِيهِ عَلَى قُبَابِ الْفِرْدَوْسِ وَعُلُوِّ مَبَانِيهِ اللَّهُمَّ

تجلی فرما ہوں گے اپنے حسن معانی و صفات کے ساتھ جنت الفردوس کے قبابات پر اور بلند و بالا اصول و مبانی پر اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَلْبَسَهُ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو زیب تن کرائی





اللَّهُ حَلَّةَ التَّوْحِيدِ وَالْإِصْطِفَاءِ وَسَقَاةَ اللَّهِ شَرَابَ الصَّدَقِ وَالْوَفَا

اللہ تعالیٰ نے خلعت توحید اور اصطفاء کی اور پلایا انہیں شراب صدق و وفا کا۔

اللَّهُمَّ اشْرَحْ بِهَا صَدْرَنَا وَيَسِّرْ بِهَا أُمُورَنَا وَأَخْرِجْنَا بِهَا مِنْ كُلِّ

اے اللہ ان صدقات کے طفیل ہمارے سینے کشادہ فرما اور ہمارے امور آسان فرما اور نکال ان کے طفیل ہمیں

ضَيْقٍ وَعُسْرٍ إِلَى كُلِّ فَرْجٍ وَيُسِّرْ وَقَرِّبْنَا بِهَا قَرِيبَةً تَصِيرُ بِهَا لَدَيْكَ

ہر تنگی اور مشکل سے طرف کشائش اور سہولت کے اور ان کے طفیل ہمیں قربت و نزدیکی عطا فرما جس کی بدولت ہم تیرے

مِنْ أَعْلَى الْمُقَرَّبِينَ وَالتَّبَنَّا عِنْدَكَ مِنَ الْمَحْبُوبِينَ وَأَبْعِدْنَا

ہاں اعلیٰ مقربین میں سے ہو جائیں اور لکھ ہمیں اپنے ہاں محبوبین میں سے اور دور فرما ہمیں

عَنْ دِيْوَانِ الْبُعْدَاءِ وَالْمُطْرُودِينَ وَبَارِكْ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

بعید اور دھتکارے ہوئے لوگوں کے دفتر سے۔ اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی آل پر

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلِّ صَلَاةً مِّنْكَ

اور تمام اصحاب پر اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا اور صلوات بھیجے اپنی طرف

عَلَيْهِ مَقْبُولَةٌ بِكَ مِمَّا لَدَيْكَ تَلِيْقُ بِذَاتِهِ وَتَغْمِسُنَا بِهَا فِي أَنْوَارِ

سے ان پر ایسی صلوات جو مقبول ہو تیرے طفیل ہماری طرف سے ان کے ہاں جو ان کے شایان شان ہو اور اس کے طفیل ہمیں مستغرق

تَجَلِّيَاتِهِ وَتَطَهَّرْ بِهَا قُلُوبَنَا وَتَقَدِّسْ بِهَا أَسْرَارَنَا وَتُرْقِ بِهَا

فرمان کے انوار تجلیات میں اور پاک کرے اس کے ذریعے ہمارے قلوب کو اور مقدس فرمائے ہمارے بواطن کو اور ترقی دے

أَرْوَاحَنَا وَتَعْمَمْ بِرَكَاتِهَا عَلَيْنَا وَعَلَىٰ مَشَائِخِنَا وَالِدِينَا وَالْمُسْلِمِينَ

ہمارے ارواح کو اور عام کرے ان کی برکات کو ہم پر۔ ہمارے مشائخ اور ہمارے والدین پر اور مسلمان مردوں اور

وَالْمُسْلِمَاتِ مَقْرُونَةٌ بِسَلَامٍ مِّنْكَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ مَضْرُوبَةٌ

عورتوں پر جو متصل و مقرون ہوں تیرے سلام کے ساتھ قیامت کے دن تک کہ ضرب دی گئی ہو ان میں سے

بِأَلْفِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَتَسْلِيمٍ عَلَىٰ السَّيِّدِ الْأَمِينِ ط وَاللَّهُ وَصَحْبِهِ

ہزار صلوات ہزار ضرب ہزار صلوات و سلام کے ساتھ جو بھیجی گئی ہوں سید امین پر اور ان کے اہل و اصحاب



اجْبَعِينَ مِنْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ

تمام پر تیری طرف سے ہر وقت اور ہر حین میں اور تمام حمدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور

اجْمَعُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَمَا جَمَعْتَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالنَّفْسِ ظَاهِرًا وَ

جمع فرما مجھے اور انہیں اے اللہ جیسے تو نے اکٹھا کیا ہے روح اور نفس کو ظاہر و باطن میں اور

بِاطِنًا يَقْظَةً وَمَنَامًا وَاجْعَلْهُ يَا رَبِّ رُوحًا لِدَايِقِي مِنْ جَمِيعِ

بیماری اور نیند میں۔ اور بنا دے انہیں اے میرے رب روح میری ذات کے لیے تمام

الْوُجُوهِ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْآخِرَةِ يَا عَظِيمُ اللَّهُمَّ اَمْلَأْ سُوْدَانَنَا

وجوہ سے دنیا میں ہی آخرت سے پہلے اے مالک عظمت۔ اے اللہ بھروسے ہمارے دل کی گہرائیوں کو

مِنْ سَنَاهُ وَقُلُوبَنَا مِنْ تَعْبَاهُ وَاهْلُنَا بِمَجَالِسَتِهِ فِي كُلِّ دِيْوَانِ

ان کی روشنی سے اور ہمارے قلوب کو ان کی نعمتوں سے اور اہل بنا دے ہمیں ان کی ہمنشین کا ہر کچھری میں اور

وَالْحَقْنَا بِجَلَالَتِهِ فِي كُلِّ مَشْهُدٍ يَنْأَلُهُ اِنْسَانٌ اِنَّكَ وِلِيُّ الْعَطَاءِ

لاحق فرما ہمیں ان کی جلالت و بزرگی کے ساتھ ہر مشہد میں جس کو کوئی بھی انسان پا سکتا ہو بیشک تو مالک ہے عطا کا

وَالْاِمْتِنَانِ اَمِيْنِ يَا مُعْطِي يَا وَهَّابُ يَا حَنَّانُ اللَّهُمَّ الْحَقْنِي

اور احسان کا آمین۔ اے معطی۔ اے وہاب۔ اے حنان۔ اے اللہ مجھے لاحق فرما

بِنَسَبِهِ الرُّوحِيَّ وَحَقِّقْنِي بِحَسْبِهِ السُّبُوْحِيَّ وَعَرِّفْنِي اَيَّاهُ مَعْرِفَةً

ان کے روحانی نسب کے ساتھ اور مجھے قاطم و پائیدار رکھ ان کے سبوحی مقدس حسب کے ساتھ اور مجھے ان کی پہچان کا

اَشْهَدُ بِهَا مَحْيَاةً وَاَبْصُرُ بِهَا مَحَلَّةً كَمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ وَاَسْلَمُ

کہ جس کے ساتھ مشاہدہ کروں ان کے روئے اقدس کا اور دیکھوں ان کے جمال و عزت کو جیسے وہ محبوب رکھیں اور پسند فرمادیں اور

بِهَا مِنْ وُرُودِ مَوَارِدِ الْجَهْلِ بِعَوَارِفِهِ وَاكْرَعُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ

مختار ہوں بسبب ان کے عوارف و عطیات سے جہالت و لاعلمی کے موارد اور گھاٹوں میں وارد ہونے سے اور یوں ان کے بحر کمال و فضل اور معارف میں داخل

الْفَضْلِ بِمَعَارِفِهِ وَاَحْمِلُنِي عَلٰى نَجَائِبِ لُطْفِكَ وَرَكَابِ

ہو کر ان کے فضل و کمال اور معارف کے موارد اور گھاٹوں اور سوار فرما مجھے اپنے لطف و کرم کی عمدہ سواروں پر اور اپنی عنایت اور

حَنَانِكَ وَعَطْفِكَ وَسُرْبِي فِي سَبِيلِهِ الْقَوِيمِ وَصِرَاطِهِ الْقَوِيمِ إِلَى

مہربانی کی اونٹنیوں پر اور چلا مجھے ان کے راہ راست پر اور پائیدار شاہراہ پر

حَضْرَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ بِحَضْرَتِكَ الْقُدْسِيَّةِ الْمُتَّبِعَةِ بِتَبَجُّدِكَ

طرف ان کی بارگاہ اقدس کے جو متصل ہے تیری بارگاہ مقدسہ کے ساتھ در آنحالیکہ عظمت پانے والے ہیں تیری

مَحَاسِنُهُ الْأَنْسِيَّةُ حَمَلًا مَّحْفُوفًا بِجَنُودِ نَصْرَتِكَ مَصْحُوبًا بِأَعْوَابِهِم

عطا کردہ عظمت کے ساتھ ان کے محاسن انسیہ۔ اس طرح پر سوار فرمانا جو گھرا ہو تیری نصرت کے لشکروں میں ہم صحبت ہو

أَسْرَارِكَ وَأَقْدِفِ بِي عَلَى الْبَاطِلِ بِأَنْوَاعِهِ فِي جَمِيعِ بُقَاعِهِ فَأَدْمَعُهُ

تیرے اسرار کے عوام کا اور مجھے پھینک باطل پر بیع اس کے تمام اقسام کے تمام مقامات میں پس اس کو نیست و نابود

بِالْحَقِّ عَلَى الْوَجْهِ الْأَحَقِّ وَزُبْرِي فِي بَحَارِ الْأَحَدِيَّةِ الْمُحِيطَةِ

کردوں ساتھ حق کے ایسے طریقہ پر جو موزوں و مناسب ترین ہو۔ اور مجھے کھینچ لے احدیت کے سمندروں میں جو محیط ہیں

بِكُلِّ مُرَكَّبٍ وَبَسِيطٍ وَأَنْ شَلَّنِي مِنْ أَحْوَالِ التَّوْحِيدِ إِلَى فِضَاءِ

ہر مرکب اور بسیط کو اور مجھے چلا توحید کے احوال سے تفرید کی فضاء کی طرف

التَّفْرِيدِ الْمُنْزَهَةِ عَنِ الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ وَأَعْرِقْنِي فِي عَيْنِ بَحْرِ

جو منزہ ہے اطلاق اور تقیید سے اور مجھے مستغرق فرما بحر

الْوَحْدَةِ شَهُودًا حَتَّى لَا أَرَى وَلَا أَسْمَعُ وَلَا أَجِدُ وَلَا أَحْسِسُ إِلَّا بِهَا

وحدت میں از روئے شہود کے حتی کہ میں نہ دیکھوں اور نہ سنوں۔ نہ پاؤں اور نہ محسوس کروں مگر اسی

نُزُولًا وَصُعُودًا كَمَا هُوَ كَذَلِكَ لَنْ يَزَالَ وَجُودًا وَأَجْعَلِ اللَّهُمَّ

وحدت کو حالت نزول میں بھی اور حالت صعود و ترقی میں بھی جیسے وہ اب واحد ہے ایسے ہی ہمیشہ رہے گا۔ اور بنا سے

الْحِجَابِ الْأَعْظَمِ حَيَاةَ رُوحِي كَشْفًا وَعَيَانًا إِذْ أَمْرُكَ كَذَلِكَ رَحْمَةً

اے اللہ حجاب اعظم کو میرے روح کی حیات از روئے کشف اور معاینہ کے کیونکہ حقیقت حال اسی طرح ہے تیری رحمت

مِنْكَ وَحَنَانًا وَأَجْعَلِ اللَّهُمَّ سِرَّ حَقِيقَتِي ذَوْقًا وَحَالًا وَحَقِيقَتَهُ

وحنانیت سے اور بنا دے اے اللہ میری حقیقت کے سر و باطن کو سراپا ذوق اور حال اور اسکی حقیقت

جَامِعَ عَوَالِمِي حَالًا وَمَالًا وَحَقَّقْنِي بِذَلِكَ عَلَى مَا هُنَالِكَ بِتَحْقِيقِ

کو میرے تمام عوالم کی جامع از روئے حال کے اور مال و انجام کے اور مجھے متحقق اور پائیدار فرما اس حقیقت جامعہ کے ساتھ بسبب

الْحَقِّ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ وَالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ فَسَأَلْتُكَ اللَّهُمَّ بِجَاهِهِ

حقیقت اس حق کے جو اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی پس سوال کرتے ہیں تجھ سے اے اللہ بظیفیل ان کی

لَدَيْكَ وَبِكِرَامَتِهِ عَلَيْكَ أَنْ تُعَبِّرَ قَوْلَ الْبِنَاءِ بِأَفْعَالِهِ وَأَسْمَاعِنَا

عزت و حرمت کے تیرے ہاں کہ آباد فرمائے ہمارے ڈھانچوں کو ان کے افعال کے ساتھ اور ہمارے کافوں کو

بِأَقْوَالِهِ وَقُلُوبِنَا بِأَنْوَارِهِ وَأَرْوَاحِنَا بِأَسْرَارِهِ وَأَشْبَاحِنَا

ان کے اقوال کے ساتھ اور قلوب کو ان کے انوار کے ساتھ اور روحوں کو ان کے اسرار اور اجسام کو

بِأَحْوَالِهِ وَسَرَائِرِنَا بِمَعَامَلَتِهِ وَبِوِطْأِنِنَا بِمُشَاهَدَتِهِ وَأَبْصَارِنَا

ان کے احوال کے ساتھ اور ہمارے سرائر کو ان کے معاملہ اور بوطن کو ان کے مشاہدہ اور نگاہوں کو

بِأَنْوَارِ مُحْيَا جَمَالِهِ وَخَوَاتِمِ أَعْمَالِنَا فِي مَرْضَاتِهِ حَتَّى

ان کے چہرہ کے انوار جمال کے ساتھ اور ہمارے آخری اعمال کو ان کی رضا مندی میں حتی کہ

نَشْهَدَكَ بِهِ وَهُوَ بِكَ فَأَكُونُ نَائِبًا عَنِ الْحَضْرَتَيْنِ بِالْحَضْرَتَيْنِ

ہم مشاہدہ کر لیں تیری ذات کا ان کے ذریعے اور ان کا تیرے ذریعے پس ہو جاؤں میں نائب اور خلیفہ دونوں بارگاہوں کا ان دونوں

وَأَدُلُّ بِهِمَا عَلَيْهِمَا وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ صَلَوةً

مشاہدوں کے ذریعے اور دوسروں کی رہنمائی کر سکوں ان دونوں شہودوں کے ذریعے ان دونوں بارگاہوں پر اور سوال کرتے ہیں تجھ سے اے اللہ

وَتَسْلِيمًا يَلِيْقَانِ بِجَنَابِهِ وَعَظِيمِ قَدْرِهِ وَتَجْمَعِنِي بِهِمَا عَلَيْهِ

کہ ان پر صلوة و سلام بھیجے جو ان کی بارگاہ اور عظیم قدر کے لائق اور شایاں ہوں۔ اور جمع کرے مجھے ان کی بدولت ان کے ساتھ

وَتَقَرِّبَنِي بِخَالِصٍ وَدِّهْبًا لَدَيْهِ وَتَنْفَحَنِي بِسَبَبِهِمَا نَفْحَةً

اور مقرب ٹھہرائے ان کے ہاں اس صلوة و سلام کی خالص محبت کے ذریعے اور عطا کرے ان کے سبب

الْأَتْقِيَاءَ وَتَمْنَحَنِي مِنْهُمَا مَنَحَةً الْأَصْفِيَاءِ وَأَجْعَلَ اللَّهُمَّ دَلَالَتَنَا

اتقیاء والا عطیہ اور سہ کرے ان دونوں کی وجہ سے اصفیاء والا ہمیں اور اے اللہ بنا دے

عَلَيْكَ بِهِ وَمُعَامَلَتَنَا مَعَكَ مِنْ أَنْوَارِ مَتَابِعَتِهِ وَنَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ

ہماری رہنمائی تیری ذات کی طرف ان کے ذریعے اور ہمارا معاملہ ساتھ تیرے ان کے انوار متابعت کے طفیل اور سوال کرتے ہیں تجھ سے

وَالرَّحْمَةَ الشَّامِلَةَ وَالْعَفْوَ وَالرَّأْفَةَ الْعَامَّةَ الْكَامِلَةَ وَالتَّوْفِيقَ

شفاعت رحمت شاملہ کا اور عفو کا اور رحمت کاملہ تمامہ کا اور توفیق کا

إِلَى طَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ سَبِيلِهِ بِكَ مُعَانِي مَنْ جَمِيعٍ مَا لَا يُرْضِيهِ

ان کی اطاعت کیلئے اور ان کے راستہ کی اتباع کے لیے ساتھ تیری ذات کے درآئیکہ معافی دئے گئے ہوں ان تمام امور سے جو ان کیلئے پسندیدہ نہ

مُسْتَهْلِكًا جَمِيعَ حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ الْبَاطِنَةَ وَالظَّاهِرَةَ مِنْ تَدَارِكِهِ

ہوں اور ہلاک و فنا کرنے والے ہوں تمام حرکات و سکنات ظاہرہ و باطنہ کو جو سرزد ہوں اپنے مدارک سے

أَبَدًا فِي مَرَاضِيهِ مُشَاهِدًا لَهُ بِهِ مَا دَامَ دَوَامُهُ لِيَبْلُغَ الْعَبْدُ

ہمیشہ ان کی رفا مندلیوں میں درآئیکہ مشاہدہ کرنے والا ہوں اس کا ساتھ اسی کے جب تک کہ اس کا دوام ہے تاکہ پہنچ جائے یہ عہد

بِذَلِكَ رِضَاً وَرِضَاكَ إِتْسَامًا بِعِبُودِيَّتِهِ وَقِيَامًا بِبَعْضِ وِفَاءِ

اس ذریعے سے ان کی رضا اور تیری رضائیکہ نشان اختیار کرتے ہوئے اس کی عبودیت کا اور قائم رکھتے ہوئے اس کے

حُقُوقِ رَبُّوبِيَّتِهِ حَسْبَ مَا يُمْكِنُهُ مِنْ طَاقَتِهِ مَعَ تَرْجِيحِ ذَلِكَ

حقوق ربوبیت میں سے بعض کے ایفاء کو مطابق اس عہد کی ممکنہ قوت و طاقت کے ترجیح دینے اس کے ساتھ

بِنُوعِ قَابِلِيَّتِهِ وَبِقُورِ نَصِيْبِهِ مِنَ الْحُبِّ الْعَامِّ وَلَوْ أَرَادَهُ وَ

ایک قسم کی قابلیت اور استعداد عہد کے اور اس کے فوری حصہ پانے کے حب عام سے اور اس کے لوازم سے اور

الْخَاصِّ وَمَعَالِمِهِ لَكَ وَلِرَبِّكَ يَا لِعَاذِ بِذَلِكَ رُتْبَةِ الْفَنَاءِ فِيهِ

حب خاص اور اس کے معالم سے واسطے آپ کے اور آپ کے رب جلیل کے کہ پہنچنے والا ہو یہ عہد اس حب عام و خاص کے

وَالْفَنَاءِ عَنِ الْفَنَاءِ بِشُهُودِهَا أَيَّامًا بِهِ فِي حَضْرَةِ وَحْدَتِهِ بِالْبَقَاءِ

ذریعے رتبہ فنا فی اللہ بلکہ فنا عن الفناء کے رتبہ تک بسبب اس کے مشاہدہ کے ساتھ اسی کے اس کی بارگاہ یکتائی میں جمع بقاء

مَعَهُ فِي جَمِيعِ مَعَالِمِهِ وَمَشَاهِدِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اللہ و مع اللہ کے تمام معالم و مشاہدہ میں ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَدَا اللَّهُ بِأَهْدَىٰ سَبِيلِهِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اپنی کامل ہدایت والے

وَحَصَّهُ اللَّهُ بِمَا لَمْ يَخْصُ بِهِ أَحَدًا مِنْ رُسُلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

راہوں کی اور مخصوص ٹھہرایا ان کو ایسے کمالات کے ساتھ کہ نہیں مخصوص کیا ساتھ ان کے کسی رسول کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اجْلِسَ عَلَىٰ كُرْسِيِّ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو بٹھایا گیا کرتی

الْجَلالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جلال پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أُقِيَّتْ عَلَيْهِ هَيْبَةُ الرِّسَالَةِ وَأُعْطِيَ مِنْ تَبَرُّكِ الْكَرَامَةِ فِي

جن پر ڈالی گئی تھی جلالت و ہیبت رسالت کی اور جنہیں عطا کیا گیا منبر کرامت کا

عَرَصَاتِ الْقِيَمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

قیامت کے میدانوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرٍ مَنْ أَوْتِي مِنَ الْكُتُبِ وَالسُّنَنِ وَمَنْ عُرِسَتْ لَهُ

آل پر جو محبوب بہتر ہیں ان سب سے جو عطا کئے گئے کتاب و سنت اور جن کے لیے لگائے گئے

ثَمَارُ الْجَنَّةِ وَخَيْرٍ مَنْ حُلِيَ بِالْمَحَلِيِّ الْأَعْلَىٰ وَمَنْ رُفِعَتْ لَهُ الدَّرَجَاتُ

جنت میں پھل دینے والے پودے اور جو بہتر ہیں ان سب سے جو آراستہ کئے گئے بند شان زیورات کے ساتھ اور جن کے لیے بلند

الْعُلَىٰ خَيْرِ شَفِيعٍ وَمَشْفَعٍ وَرَفِيعٍ وَمَرْفَعٍ وَمَقْصُودٍ وَمَرْغُوبٍ وَ

کئے گئے اعلیٰ درجات۔ بہترین شفیع۔ بہترین مقبول الشفاعت۔ بہترین بلند مرتبت اور بند یوں پر فائز کئے ہوئے

حَبِيبٍ وَمَحْبُوبٍ وَخَيْرٍ مَنْ تَحَلَّىٰ بِحِلَّةِ الْكَمالِ وَمَنْ تَقَلَّدَ

سب سے افضل مقصود و مرغوب اور حبیب و محبوب اور بہتر سب سے جو آراستہ ہوئے خلعت مائے کمال کے ساتھ اور جنہوں نے گلے میں ڈالے

قَلَابِدَ النَّوَالِ وَالْأَفْضالِ وَمَنْ يُرْجَىٰ بِهِ دَفْعُ الْعَظَائِمِ وَ

جود نوال والے ہار اور جن سے امید کی جا سکتی ہے عظیم مصائب کے دور کرنے کی اور



لِنَبِيلِ الْمَكَارِمِ وَمَنْ سَمَاوَتُسْتَبَىٰ وَمَنْ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ

مکارم و بزرگ اخلاق کے پانے کی اور جو بلند مقام پر فائز ہوئے اور بلندی و رفعت کے لیے سعی کی اور جن کیلئے کھولائے گئے

السَّمَاءِ خَيْرِ الْأَخْيَارِ وَخَيْرِ الْأَبْرَارِ وَخَيْرِ الدِّينِ وَخَيْرِ

آسمان کے سچی دروازے۔ جو نیک سیرت لوگوں سے بہتر و برتر ہیں اور معنیوں سے منتخب اور مختار۔ اہل دین سے مختار اور

الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ وَخَيْرِ السُّعْدَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَخَيْرِ مَنْ

اولیوں و آئینوں کے مختار، سعداء اور شہداء سے مختار اور

أَمِنَ بِاللَّهِ وَاهْتَدَىٰ وَخَيْرِ مَنْ خَضَعَ لِلَّهِ وَتَوَاضَعَ وَمَنْ جَدَّ

اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر ایمان لانے والے اور ہدایت پانے والے کے سردار اور اللہ تعالیٰ کیلئے انکساری و تواضع کرنے والوں کے سردار اور جنہوں

فِي الْخَيْرِ وَسَارِعًا وَخَيْرِ مَنْ حَصَلَ لَهُ جَزِيلُ الثَّوَابِ مِنْ رَبِّ

نے جلد و جہد کی خیر میں اور مسرعت سے کام لیا ان کے سردار اور بہتر ان سب کے جنہیں حاصل ہوا ثواب جزیل رب

الْأَرْبَابِ وَخَيْرِ مَنْ اتَّقَىٰ وَخَيْرِ مَنْ سَنَّ السُّنَنَ وَخَيْرِ مَنْ

الارباب کی طرف سے اور بہتر سب اہل اتقاء سے اور مہتر سب سنن کے جاری کرنے والوں سے۔ بہتر ان سب سے

شَهَرَ الدِّينَ وَخَيْرِ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ وَخَيْرِ مَنْ

جنہوں نے دین کی تشہیر کی اور بہتر ان تمام حضرات سے جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا خفیہ اور علانیہ اور بہتر ان سب سے

أَسَدَىٰ مَعْرُوفًا إِلَى الْأَنَامِ وَأَحْسَنَ وَخَيْرِ الرُّسُلِ الْبَشَرِيِّينَ وَ

جنہوں نے پہنچائی خیر مخلوق تک اور احسان کیا اور جو بہتر ہیں تمام رسل بشری اور

الْمَلَائِكِيِّينَ وَخَيْرِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ وَخَيْرِ الْمُعْرِضِينَ وَ

ملکی سے اور بہتر و برتر ہیں تمام مخلوق سے اور بہتر و برتر ہیں (ماسوا اللہ سے) اعراف کرنے والوں اور

الْمُؤَحِّدِينَ الْعَارِفِينَ الْوَاصِلِينَ الْكَامِلِينَ الْمَكْمَلِينَ

اہل توحید۔ ارباب عرفان اصحاب وصول۔ اہل کمال و تکمیل

الرَّاهِدِينَ الصَّابِرِينَ الْقَانِعِينَ الشَّاكِرِينَ الْمُشَاهِدِينَ

ارباب زہد و صبر اور اصحاب قناعت و شکر سے اور ارباب مشاہدہ



الْمُتَوَكِّلِينَ الْمَرَّاقِبِينَ الْمُتَّقِينَ خَيْرَ أَوْلِي الْعِزْمِ وَخَيْرٍ مَنْ سَبَقَ

و توکل اور اہل مراقبہ و اتقاد سے اور جو بہتر و برتر ہیں سب اولو العزم سے اور بہتر ہیں سابقین

وَلِحَقِّ وَمَنْ حَبَّبَ وَلَبَّى وَخَيْرِ الْأَوَّابِلِ وَالْأَوَّخِرِ وَالْمُمَكِّنَاتِ وَخَيْرِ

ولاختقین سے اور حج کرنے اور تلبیہ کہنے والوں سے اور بہتر و برتر ہیں اوائل و اواخر سے اور تمام ممکنات سے اور بہتر

عَاصِمٍ وَخَيْرِ الْعَبِيدِ وَخَيْرٍ مَنْ وَطِئَ الثَّرَى وَخَيْرِ الْفَرِيقِينَ وَخَيْرِ

ہیں ہر صاحب عصمت سے اور تمام بندگان خداوند تعالیٰ سے بہتر اور بہتر ہیں زمین پر قدم رکھنے والوں سے اور بہتر ہیں

الْبَرِيَّةِ وَخَيْرٍ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَمَنْ أَوْحِيَتْ إِلَيْهِ وَخَيْرٍ مَنْ

دونوں فریق (عرب و عجم) سے اور بہتر ہیں ساری مخلوق سے اور بہتر ہیں ان تمام سے جن پر تو نے صلوات بھیجی اور جن پر وحی نازل فرمائی

أُرْسِلَ أَوْ تَنَبَّأَ وَمَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا وَخَيْرٍ مَنْ تَصَلَّى عَلَيْهِ وَمَنْ

اور بہتر ہیں ان تمام سے جو رسول بنائے گئے یا نبی بنے اور جو سوار ہوئے سواروں پر اور بہتر ہیں ان تمام سے جن پر تو صلوات بھیجے گا اور جن

تُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَبَارَكَ عَلَيْهِ صَلَوةٌ خَيْرِ الصَّلَوةِ وَتَسْلِيمًا

پر سلام بھیجے گا اور جن پر برکت نازل کرے گا ایسی صلوات جو تمام صلوات سے بہتر اور ایسا سلام جو

خَيْرِ التَّسْلِيمَاتِ وَبَرَكَةٌ خَيْرِ الْبَرَكَاتِ وَخَيْرِ أَهْلِ الرِّضَاءِ وَ

تمام تسلیمات سے بہتر ہو اور ایسی برکت جو تمام برکات سے بہتر اور جو بہتر و برتر ہیں اہل رضاء و

التَّسْلِيمِ وَأَهْلِ الْوَرَعِ وَالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ وَالْحُبِّ وَالْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ

تسلیم سے اور اہل ورع اور ارباب علم و عقل اور حب سے اور ارباب فنا و بقا سے

وَخَيْرِ أَصْحَابِ الْمَكَاشِفَةِ وَأَرْبَابِ الْمَعَايِنَةِ وَخَيْرِ الْكُلِّ فِي

اور بہتر و برتر ہیں اصحاب مکاشفہ اور ارباب معائنہ سے اور بہتر و برتر ہیں تمام مخلوق سے

الْكُلِّ وَخَيْرِ النَّبِيِّينَ وَالرَّاضِينَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الْمُحِبِّينَ

تمام کمالات میں اور بہتر و برتر ہیں تمام انبیاء سے اور ارباب رضاء سے۔ اولین و آخرین سے اور محبوبین

الْمُحِبُّونَ لِلَّهِ إِيَّيَّ اسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

و محبوبین سے۔ اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے



الَّذِي هُوَ خَيْرُ الْمَحْبُوبِينَ وَالْمَحْبُوبِينَ أَنْ تَنْظُرَنِي بِعَيْنِ الْحُبِّ وَ

جو بہتر و ابرتر ہیں تمام محبین و محبوبین سے کہ تو مجھے دیکھے حب و

الْقُرْبِ وَالْوَصْلِ وَفِي إِيمَانِي وَإِسْلَامِي وَإِحْسَانِي وَدِينِي وَدُنْيَايَ

قرب اور وصل کی نگاہ سے اور نظر فرمائے میرے ایمان و اسلام اور احسان میں۔ میرے دین و دنیا

وَآخِرَتِي وَعَلَيْهِ وَعَمَلِي وَرَجَائِي وَشِفَائِي وَقُوَّتِي وَصِحَّتِي وَ

اور آخرت میں۔ میرے علم و عمل اور رجاء و شفاء میں۔ میری قوت اور صحت و

عَافِيَتِي وَجَسْمِي وَرُوحَانِيَّتِي وَوَجُودِي وَخِيَارَتِي وَصِفَاتِي وَ

عافیت میں۔ میرے جسم و روحانیت اور وجود میں میری حیات و صفات اور

قِيَامِي وَكَلَامِي وَحَالِي وَخِيَالِي وَكِبَالِي وَمَقَامِي وَفِي ذَوْقِي وَشَوْقِي

قیام و کلام میں۔ میرے حال و خیال اور کمال و مقام میں میرے ذوق و شوق

وَمَعْرِفَتِي وَوَحْدَتِي فَلَا تَوَسَّلْ إِلَّا بِهِ كَالظِّلِّ أَوْ الْجُزْءِ أَوْ الْجُزْئِيَّ

اور معرفت و وحدت میں پس میں نہ توسل کروں مگر ساتھ انہیں کے مانند توسل و تطفل سایہ کے یا جز کے یا

فَتَوَسَّلْ أَيْمَانًا تَوَسَّلْ بِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ عَنْ شَرَفِ تَوَسُّلِي

جزئی کے پس تم بھی توسل کرو اے میرے متعلقین! ساتھ انہیں کے جنہیں میں نے وسیلہ بنایا ہے۔ اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں مجھے توسل

بِأَشْرَفِ الْوَسَائِلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْتَعِينُكَ فِي

کاشرف بخشے پر ساتھ اشرف الوسائل محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تجھ سے استعانت کرتا ہوں

جَمِيعِ أُمُورِي اللَّهُمَّ رَحْمَتِكَ إِذَا أَنْصَرْتُ وَأَعَدْتِ لِعَبْدِكَ وَ

اپنے تمام امور میں۔ اے اللہ تیری رحمت کی اعانت درکار ہے جب تو نصرت و اعانت فرمائے اپنے اس عبد

فَقِيرِكَ الْمَتَوَجِّهِ إِلَيْكَ فَحَصَدْتَ لَهُ إِطَاعَةَ كُلِّ مَوْجُودٍ عَلَوِيًّا

کی اور فقیر کی جو متوجہ ہے طرف تیری پس حاصل ہوئی اسے اطاعت ہر موجود علوی

كَانَ أَوْ سَفَلِيًّا كَمَا عَانَتْ رَحْمَتِكَ فِي حَقِّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ

اور سفلی کی مانند تیری رحمت کی اعانت کے واسطے سلیمان علیہ السلام کے جبکہ وہ بھی

كَانَ وَاحِدًا مِّنْ أَبْنَاءِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَخَّرَتْ لَهُ الرِّيحَ وَالْجِنَّ

ایک فرد تھے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پس تو نے مسخر فرما دیا ان کے لیے ہوا۔ جن

وَالطُّيُورَ مَعَهُ وَقَوَّفَهُ عَلَىٰ أَصْوَاتِهِمْ وَطَيْرَانٍ سَرِيرَةٍ فِي الْهَوَاءِ مِنْ

اور پرندوں کو مع ان کے واقف ہونے کے ان کی برکیوں پر اور ان کے تخت کا ہوا پر اڑتا

مَحْضٍ رَّحْمَتِكَ عَلَيْهِ بِتَوَجُّهِهِ إِلَيْكَ بِصَدُقِ الْقَلْبِ وَالْإِخْلَاصِ

محض ان پر تیری رحمت کا نتیجہ ہے بسبب متوجہ ہونے ان کے تیری طرف ساتھ صدق قلب اور اخلاص کے

مَعَ أَنَّهُ كَانَ بَشَرًا ابْنِ بَشَرٍ مِّنْ نَّبِيِّ كَسَائِرِ أَبْنَاءِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ

باوجودیکہ وہ بھی بشر تھے اور بشر نبی کے بیٹے تھے مانند دوسرے انبیاء کے بیٹوں کے

الْأَسْبَاطِ لَا مَلَكًا هِيَ بَدَأَ الْبَدَأَ لَمْ تَدْعُ فِي أَنْشَائِهَا عَوْنًا

اسباط میں سے نہ کہ فرشتے تھے۔ اے انوکھی اشیاء کے از سر نو ایجاد کرنے والے نہیں چھوڑی تو نے ان بدائع کے پیدا کرنے میں عانت

مِّنْ خَلْقِهِ وَأَبْدَعْتَ الصَّنَائِعَ بِذَاتِهِ الصَّمِدِ الْغَنِيِّ مِنْ كُلِّ

دی (مخائن) اپنی مخلوق کے لیے اور ایجاد کیا از سر نو صنائع کو اپنی بے نیاز ذات کے ساتھ جو غنی و بے نیاز ہے ہر

أَلَةٍ وَشَرَطْتُ مَوْفِقَ عَلَيْهِ وَعِلَّةٌ حَتَّىٰ أَبْدَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ بِهَيئَاتِ

آلہ اور شرط سے موقوف علیہ اور علت سے حتیٰ کہ تو نے پیدا فرمایا ہر شئی کو مختلف ہیئات

مُخْتَلِفَةٍ وَالْوَانِ مُتَنَوِّعَةٍ وَأَشْكَالٍ مُّتَجَسِّسَةٍ وَصُورٍ اِنْسِيَّةٍ

اور انواع واقسام کے رنگوں میں اور مختلف اجناس کی اشکال میں اور مختلف انسانی صورتوں میں

بِأَحْسَنِ صُورَةٍ وَأَبْدَعِ سِيرَةٍ فِي مَلَكُوتٍ مُّتَلَاكِنَةٍ بِرَأْفَةٍ بِحَيْثُ

انتہائی حسین صورت اور انوکھی سیرت کے ساتھ ایسے ملکوت میں جو روشن اور چمکدار ہے یہاں تک

تَغْيِبِ الشَّمْسِ مَعَ شِعَاعَاتِهَا فِي بَرَاقَتِهَا الْجَلَالِيَّةِ هَذَا هُوَ

غائب ہو جاتا ہے سورج مع اپنی شعاعوں کے ان کی جلالی چمک و دمک میں یہی ہیں

الْأَثَارُ مِنَ الْبَدَائِعِ الْإِلَهِيَّةِ وَأَيْنَ الْعَوْنِ الْخَلْقِيِّ النَّاسُوتِيِّ

آثار اللہ تعالیٰ کی انوکھی ایجادات کے اور کیا حیثیت ہے مخلوق کی اعانت کی جو نمود جہان



الصَّلَاصَالِي وَالْجَنِّي النَّارِي بَلْ كُلُّ عَوْنٍ هَالِكٌ تَحْتَ

ارضی لباس والی ہے یا جنوں کی جو مادہ تار سے بنے ہیں بلکہ ہر عون و اعانت فانی و ہالک ہے نیچے تیری عنایت

عَوْنٌ عِنَايَتِكَ الْكَلْبِيَّةُ وَالْجُرْئِيَّةُ الْمُرَادَةُ عِنْدَ

کلبیہ و جرئیتہ کی عون کے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے وقت

اِيْجَادِ كُلِّ نَوْءٍ وَرَبْدًا اِخْتِرَاعٌ عَجِيْبٌ وَ اِخْتِرَاعٌ كُلُّ هَيْئَةٍ مَعَ

ایجاد کرنے ہر نوع کے اور از سر نو پیدا کرنے پر عجیب شئی کے اور اختراع کرنے ہر ہیئت کے مع

لِوَاظِمِ شَخْصِيَّةٍ وَ يَخْلُقُ قَابِلِيَّةً مُتَّجِدَّةً اِضَافَاتُهَا وَ نَسَبُهَا

اس کے لوازم شخصیتہ کے اور ساتھ پیدا کرنے قابلیت کے ہر وقت بنتی ہیں جس کی اضافتیں اور نسبتیں

هَالِكَةٌ فِي عَيْنٍ وَ حُدَّةٌ تَأْسِفَةٌ مِّنْ يِّنَا بَيْعٌ جَدَاوِلُ جَامِعَةٌ فِي

وہ ہلاک ہونے والی ہیں عین وحدت میں جو پیدا ہونے والی ہے ان جداول کے سرچشموں سے جو جمع ہونیوالی ہیں

بَحْرٌ اَحَدِيٌّ هُوِيٌّ وَ مَبْطُوْسٌ لِّكُلِّ جُزْئِيٍّ مِّنْ نُّوْعٍ اَوْ جِنْسٍ اَوْ

ہویت احدیہ کے سمندر میں اور وہ سمیٹنے والوں سے ہے واسطے ہر جزئی کے نوع سے ہو یا جنس یا

شَخْصٍ حَسَنٍ اَوْ قَبِيْحٍ كَامِلٍ اَوْ نَاقِصٍ طَوِيْلٍ اَوْ قَصِيْرٍ وَ مَطْوِيَّةٌ

شخص سے۔ خوبصورت ہے یا بدصورت کامل ہے یا ناقص اور دراز ہے یا کوتاہ اور سٹی اور لپی ہے

فِي تَسْوِيَةٍ جِهَةٍ وَ اِحْدَةٍ مُّضْمَحَلَّةٍ ثُمَّ ظُهُورُهَا وَ تَنْشِيْرُهَا عِنْدَ

بہت واحدہ کی ہمواری میں جہاں پر اس کا ظہور اور نشر و اشاعت مضمحل اور بے اثر ہے وقت

تَفْرِخٍ وَ نَفْحٍ هُوَ عَلَامَةٌ نُّشْرٍ وَ وُجُوْدٍ اِضَافِيَّةٍ وَ نَسَبِيَّةٍ مَّا رَجَعَتْ

پیدائش پھولوں کے اور نکتے پھولوں کے جو علامت ہے نشر و وجود کی جو علامت کہ اضافی و نسبی ہے راجع ہے

اِلَى تَقْيِيْدِهَا وَ مَرَاكِزِهَا عَلٰى هَيْئَةِ النَّشَاةِ الْمَفْصَلَاتِ الْمُضَيِّغَاتِ

طرف تقیید کے اور اس کے مراکز کے مانند ہیئات مفصلات کی نشاۃ کے جو جاری و ساری ہیں

الْمُشَخَّصَاتِ الْمَتَمَيِّزَاتِ فَهَذِهِ الْبَدَائِعُ اَعْجَبُ اَخْلَاقًا وَ اَوْصَافًا

اور مشخص اور متمیز ہیں پس یہ بدائع پسندیدہ تر ہیں از روئے اخلاق و اوصاف کے



فِي الْأَنْبِيَاءِ وَكَرَامَاتٍ وَخَوَارِقٍ فِي الْأَوْلِيَاءِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِفٍ عَلَى

انبیاء علیہم السلام میں۔ اور کرامات و خوارق عادات ہیں اولیاء کرام میں بغیر موقوف ہونے

عَوْنِ أَحَدٍ مِّنْ مَّخْلُوقَاتِكَ وَعَلَى شَرْطٍ مِّنْ شَرَائِطٍ فَجَعَلْتَ

کے اوپر اعانت کسی فرد کے تیری مخلوقات میں سے اور اوپر کسی شرط کے شرائط میں سے پس کیا ہے تونے

مَصْنُوعَاتِكَ مَوْجُودَةً مِّنْ مَّحْضِ جُودِكَ وَلَطْفِكَ حَتَّىٰ

اپنے مصنوعات کو موجود محض اپنے جود اور لطف سے حتیٰ کہ

يَتَعَجَّبُ خَلْقِكَ فِي أَنِّي مَتَىٰ أَصَبْتُ بِهَذِهِ الْمَرَاتِبِ وَالْبَدَائِعِ

تعجب کرتی ہے تیری مخلوق اس میں کہ کہ میرے جیسے عید نے کب سے پائے یہ مراتب اور انوکھے مقامات

وَحَتَّىٰ يَتَحَقَّقَ عَلَيَّ مِنْ مَّحْضِ هِدَايَتِكَ وَإِرْشَادِكَ مِنْ غَيْرِ

اور حتیٰ کہ متحقق ہو گئے مجھ میں محض تیری دلالت اور رہنمائی سے بغیر

جُهْدٍ طَوِيلٍ وَوَجْدٍ كَثِيرٍ بَلْ فِي لَمِحَةٍ دُونَ لَمِحَةٍ إِذَا لَمْ يَنْصُرْ عَوْنُكَ

طویل مشقت کے اور کسی بڑی کوشش کے بلکہ صرف ایک لمحہ میں بغیر دوسرے لمحے کے۔ اگر تیری اعانت شامل حال نہ ہو

فَمَا عَوْنُ الْغَيْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

تو دوسروں کی اعانت کیا ہے؟ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَضْرَةَ الْأَسْرَارِ وَمَنْبِعِ الْأَنْوَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر جس محبوب کی بارگاہ بارگہ اسرار ہے اور سرچشمہ انوار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْأَمْرِ وَالنَّاهِي وَالْمُوَيْدِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب صاحب امر و ناهی ہیں اور مدد الہی سے

بِالْمَدَدِ الْإِلَهِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

تائید و تقویت پانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ دَائِرَةِ السَّعَادَاتِ وَشَهَابِ قَبَسِ الْعَنَايَاتِ

آل پر جو آفاق قطب و مرکز ہیں سعادت کے دائرہ کے اور عنایات الہیہ کے دستے النوار کے۔



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَدْرُ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر جو محبوب ماہ تمام ہیں

جَلَّالِ اللَّهِ وَرَاعْظَمِهِ وَنُورِهَا جَلَّالِ اللَّهِ وَإِنْعَامِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کے اور نور ہیں اللہ کے جلال و انعام کے۔ لے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سُالَاةِ السُّلَاةِ

سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب جو ہر روح ہیں خلاصہ (کائنات) کی

وَخَلَاصَةِ الرِّسَالَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور خلاصہ رسالت ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ نَفْسًا مِّنْ إِلَّا تَامَ أَعْرَ عَلَيْهِ

آل پر کہ نہیں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نفس تمام مخلوق میں جو زیادہ عزیز و مکرم ہو اس کے

مِنْ نَفْسِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہاں آپ کی ذات سے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ مِثْلَهُ لَأَقْبَلَهُ وَلَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا آپ کی مانند نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد۔ لے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقْسَمَ اللَّهُ

و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ قسم اٹھائی اللہ

عَزَّ وَجَلَّ بِقَلْبِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

عز و جل نے آپ کے قلب مقدس کی۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَدَّقَهُ اللَّهُ بِلَا أَمْتَرَ آءِ قَبَارِ أَيِّ مِنْ آيَاتِ

آل پر جن کو سچا ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کے لیے شک و شبہ کی گنجائش کے رب تعالیٰ کی ان آیات کبریٰ میں

رَبِّهِ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جو اپنے (شب معراج) دکھیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل



مُحَمَّدٍ الَّذِي مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْأُمَّةِ وَأَوْدَعَهُ اللَّهُ أَسْرَارَ بَدَائِعِ

پر جس محبوب کی بخت (کی بخت) کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت پر احسان عظیم فرمایا اور ان میں ودیعت فرمائے انھی

الْحِكْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

حکمت کے اسرار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي تَرَيْنَ اللَّهُ طَلْعَتَهُ السَّعِيدَةَ وَخَصَّهُ اللَّهُ بِالْفَضَائِلِ

پر کہ جس محبوب کی طلعت سعیدہ کو اللہ تعالیٰ نے زینت بخشی اور مخصوص ٹھہرایا انہیں بہت فضائل

الْعَدِيدَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلَأَتْ أَنْوَارُهُ جَوَانِحَ الصُّدُورِ وَعَظُمَتْ بِهِ الْحَسَنَاتُ

کہ جس محبوب کے انوار نے بھروئے ہیں خلائق کے سینوں کے تمام جوانب و اطراف بھی اور جن کی بدولت عظیم برکتیں نکلیں

وَالْأَجْوَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور ان کے اجر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْتَنَارَتْ الْكُونُ بِنُورِهِ وَأَشْرَقَ الْحَقُّ بِطَالِعِ

پر کہ جس محبوب کے نور کے ساتھ روشنی حاصل کی تمام جہان نے۔ اور جگمگا اٹھا حق و صدق ان کے ظہور والے

ظُهُورِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ستارہ سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَطْلَعَ اللَّهُ السُّعْدَ بِطَالِعِ عِزَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کہ طلوع فرمایا اللہ تعالیٰ نے سعادت اور نیکی کو ان کی عزت و حرمت کے ستارے سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَّنَ اللَّهُ الْيَمِينَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ اللہ تعالیٰ نے مقرون و متصل کر دیا ہے برکت

وَالْتَوْفِيقَ بَيْنَ طَلْعَتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور توفیق کو ان کی طلعت کے یمن و برکت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْتَشَرَتْ عَلَيْهِ أَعْلَامُ النَّصْرِ وَ

سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب پر پھیلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پرچم نصرت اور

السَّعَادَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

سعادت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ حُرْبِيَّةً وَأَجْنَادَهُ وَقَرْبِيَّةً

کہ جس محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی فرشتوں کو بنا دیا ہے ان کا لشکر اور عساکر اور انہیں اپنے قریب کیا

مَوْلَاهُ وَنَاجَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اپنے مولیٰ نے اور سرگوشی فرمائی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْتَمَنَهُ اللَّهُ عَلَىٰ كَشْفِ الْحَقَائِقِ وَارْتِضَاءِ

اطہار پر کہ امین بنایا اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کو کشف حقائق پر اور جن لیا انہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو

وَهَبَهُ اللَّهُ الشَّرْفَ الْكَبِيرَ وَتَرَدُّى بِرَدِّ آءِ الْكِبَالِ وَاتَّزَرَ اللَّهُمَّ

اللہ تعالیٰ نے عطا کیا بہت بڑا شرف اور جنہوں نے کمال والی چادر اڑھی اور اس کی تہمد باندھی۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْطَاهُ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے

اللَّهُ جَمِيعَ مَطْلَبِهِ وَقَصْدَهُ وَأَثَبَتْ اللَّهُ فِي دِيْوَانِ مَجْدِهِ وَتَنْزِيهِهِ

اس محبوب کو ان کے تمام مطالب اور مقاصد۔ اور ثبت فرما رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نامی کو اپنے بزرگی

عَهْدِهِ وَوَعْدِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور پاکیزہ عہد و عہدیمان کے دیوان میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طُبِعَ عَلَىٰ الْخَلْقِ الْعَظِيمِ وَالْقَلْبِ السَّلِيمِ وَ

اجداد پر کہ جو محبوب پیدا کئے گئے ہیں خلق عظیم پر اور قلب سلیم پر اور



جِبِلَ عَلَى الطَّبَعِ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ان کے خیر و طینت میں شامل کیا گیا ہے جو دو کرم۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ حَقَّهُ أَكْبَرَ الْحَقُوقِ وَجَمَعَ

آل پر کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے ان کے حق کو تمام حقوق سے عظیم تر اور اس نے جمع کر دئے

اللَّهُ فِيهِ مَا لَمْ يَجْمَعُهُ فِي مَخْلُوقٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ میں وہ اعلیٰ کمالات جو نہیں جمع کئے کسی مخلوق میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَمْسَكَ الْعَرْشَ بِيَمِينِهِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ عرش خداوندی نے تقام لیا ان کا دایاں ہاتھ اور

أَلْبَسَ اللَّهُ آدَمَ تاجًا مِّنْ نُبُوتِهِ عَلَى جَبِينِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پہنایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تاج نبوت ان کے نور سے اجمین آدم پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي خَرَّتْ لِرِسَالَتِهِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل اجماد پر کہ سرنگوں ہو گئے ان کی پشت رسالت کے وقت

الْأَصْنَامُ وَتَعَطَّلَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَزْلَامُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اصنام اور معطل و بے اثر ہو گئے ان کے دعویٰ نبوت کے وقت فاول والے تیر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْجَزَ الْكُفْرَةَ بِآيَاتِ الصُّدُورِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب نے عاجز و بے بس کر دیا کفار کو آیات کلام مجید سے جو اہل ایمان کے سینوں میں

وَأَوَّلَهُ نُورًا وَآخِرَهُ نُورًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

م محفوظ ہیں اور ان کا اول بھی نور ہے اور آخر بھی نور۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي غَيَّرَ الْأَوْتَانَ وَالْأَصْدَادَ اللَّهُمَّ صَلِّ

آپ کی آل پر جس محبوب نے مٹا ڈالا بتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے مفروضہ مقابل اصنام کو۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَصْلَحَ اللَّهُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اصلاح فرمائی اللہ تعالیٰ نے





بِهِ مَا كَانَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مِنَ الْفَسَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ان کے ذریعے خشکی اور تری میں موجود فساد کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَقْوَمَ مِمَّنْ طَيَّبَ اللَّهُ لَهُ النَّفُوسَ وَ

محمد پر اور آپ کی آل اطہار پر جو پائیدار ہیں ان تمام سے جن کے نفوس اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بنائے اور

أَوْرَعًا مِمَّنْ أَدْفَعَ اللَّهُ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

سب سے زیادہ صاحب پرہیز و احتیاط ہیں نفس و شیطان کا دفاع کرنے والوں سے اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بُرْهَانَ الْمَعَادِنِ الْجَوْهَرِيَّةِ وَكَسِيرِ الْعَوَالِمِ الْمَعْنَوِيَّةِ

آل پر جو محبوب جہری معاون کی برہان ہیں اور معنوی جہانوں کی اکسیر ہیں

وَفَضَائِلِهِ سَبَاوِيئُهُ وَمَعَانِي الْأَسْرَارِ الْإِلَهِيَّةِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ أَحَدًا

ان کے فضائل سماوی اور بلند مرتبت ہیں اور اسرار الہیہ کے معانی اور مقاصد ہیں اور نہیں ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا کسی نے

بِالرِّيَاسِيَّةِ إِلَّا ذَكَرَهُ بِالرَّسَالَةِ الْعَلِيَّةِ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ أَحَدًا بِالْأَحْدِيَّةِ

رہبریت کے ساتھ مگر ان کا ذکر کیا ساتھ ہی رسالت عالیہ کے ساتھ۔ اور نہیں ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا کسی نے اس کی احدیت کے ساتھ

إِلَّا ذَكَرَهُ بِالْمُحَمَّدِيَّةِ الْأَعْظَمِيَّةِ الْعَالِيَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

مگر ساتھ ان کا ذکر کیا عظیم ترین اور بالاترین محمدیت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُنُزِ جَوْاهِرِ اللَّطَائِفِ وَسِرِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر جو محبوب خزانہ ہیں جواہر لطائف کا اور راز مخفی ہیں

عَوَارِفِ الْمَعَارِفِ وَمُظْهِرِ أَنْوَارِ التَّجَلِّيَّاتِ وَعَنْصَرِ مَوَادِّ الْأَسْرَارِ

بلند مرتبت معارف کا۔ مظہر ہیں انوار تجلیات کا اور اصل و عنصر ہیں مواد اسرار کا

وَقِيضِ جَدِّ أَوَّلِ الْأَنْوَارِ أُولَىٰ بِالْعَوَارِفِ وَالْبَشْرَىٰ وَهُوَ لِلْعَالَمِينَ

اور آب فیض ہیں انوار کے جد اول اور نالیوں کا سب سے زیادہ خفہ دار ہیں عارف و عظیم اور بشارت کے واسطے عالمین کے

ذَكَرًا وَآدَمَ الْخَلْقِ عِبَادَةٌ وَأَقْوَمَ مَنْ قَامَ بِشَهَادَةٍ وَأَعْدَلُ

از روئے ذکر کے اور سب مخلوق سے زیادہ ملاومت کرنے والے ہیں عبادت پر اور سب اہل شہادت سے مضبوط ترین شاہد اور



مَنْ قَامَ بِالْحَدِّ وَدُورِ الْجُودِ وَسَهَاكِ السُّعُودِ وَأَفْضَلَ مَنْ

حدود قائم والوں میں سب سے زیادہ عادل ہیں روح جود و نوال اور رفعت سعادت و بیکتھی ہیں اور افضل ترین ہیں تمام

جَادَ بِالْعَطَايَا وَأَوْرَعَ مِنْ حَدِّ لَلْعَصَاةِ حُدُودًا وَجَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ

عطیات کی سخاوت کرتے والوں سے اور زیادہ محتاط ہیں عاصیوں پر حدود قائم کرنے والوں سے اور بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے درمیان ان

وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَوْمِنْ بِهِ سِتْرًا وَحِجَابًا وَيَبْعَثُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

کے اور ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ستر اور حجاب اور قائم فرمائے گا انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن

مَقَامًا مَحْمُودًا وَذَكَرَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَوَادَا وَجَوَارِحَهُ وَأَثْنَا اللَّهُ

مقام محمود پر اور پاکیزہ تر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اور اعضاء مبارکہ کو اور ثنا کی ہے اللہ تعالیٰ

تَعَالَى فِي كِتَابِهِ عَلَى اخْلَاقِهِ الْمَحْمُودَةِ وَأَدَابِهِ وَأَفْصَحَ الْقُرْآنُ

نے کتاب عزیز میں ان کے اخلاق محمودہ اور آداب ستودہ پر۔ اور کھول کر بیان کیا ہے قرآن نے

بِجَمِيلِ ذِكْرِهِ وَنَطَقَ الْقُرْآنُ بِعَظِيمِ أَمْرِهِ وَقَدْرِهِ وَأَقْسَمَ اللَّهُ

ان کے ذکر جمیل کو اور قرآن نے نطق کیا ہے ان کے عظیم امر اور قدر کے ساتھ اور قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے

سُبْحَانَهُ بِحَيَاتِهِ وَلَمْ يُقْسَمْ بِحَيَاتِ أَحَدٍ غَيْرِهِ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ

آپ کی حیات مبارکہ کی اور نہیں قسم اٹھائی تمام مخلوق میں سے ان کے علاوہ کسی کی زندگی کی۔

وَهَدَى اللَّهُ بِهِ الْخَلْقَ فِي حَيَاتِهِ وَيَعْدَمَاتِهِ وَلَمْ يَنْلُ ذَلِكَ

اور ہدایت دی ان کے طفیل مخلوق کو ان کی ظاہری زندگی میں بھی اور ان کے وصال کے بعد اور یہ مقام

أَحَدٌ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ أَلَوْ فِي بَعْدِهِ وَالصَّادِقُ فِي وَعْدِهِ وَنَعْمَ

کسی دوسرے شخص نے نہیں پایا مخلوق میں سے۔ وہ وفا کرنے والے ہیں اپنے عہد کی اور صادق ہیں اپنے وعدہ میں اور

الرَّجُلُ شَفَاعَةٌ لِأُمَّتِهِ وَحِرْصًا لِعِزَّتِهِ عِنْدَ رَبِّهِ وَكَرَامَتِهِ

لائق مدح و ستائش ہیں از روئے شفاعت کے واسطے لہذا ہر گار ان امت کے اور از روئے حرص کے واسطے عزت و کرامت حاصل کرنے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے رب تعالیٰ کے ان۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

رَوْضَةُ الْجَمَالِ وَبَهْجَةُ الْكَمَالِ غَيْثُ التَّوَالِ وَكَيْتُ النَّزَالِ جَمَالِ

باغ ہیں جمال کا۔ رونق ہیں کمال کی۔ موسلا دھار بارش ہیں جو دو تووال کی اور شیر ہیں میدان مبارزت کے اور جان

الْجَمَالِ وَغَايَةُ الْقَصْدِ وَالْأَمَالِ طَوِيلُ الطَّوْلِ وَصَالِحُ الْفِعْلِ وَ

جمال ہیں اور مشتملی ہیں غلاتق کے مقاصد اور امیروں کا۔ وسیع قوت و استطاعت اور صالح عمل

الْقَوْلِ طَاهِي التَّوَالِ وَسَامِي الْكَمَالِ قُرَّةُ الْعَيْنِ وَتَرَيْنِ كُلِّ زَيْنِ

و قول والے ہیں۔ عظیم جوہ والے۔ بلند کمال والے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہر زینت والے کی زینت

سَمَاءِ الْعُلَى وَمَوْلَى الْمَوْلَى وَقَرِيبُ النَّدَى حُسَامُ الشَّرِيعَةِ وَ

بلندی و رفعت کے آسمان۔ مولی کے محبوب اور قریب تر خیر و بھلائی والے۔ شریعت کی تیغ بے نیام اور

هَلَالِ الطَّرِيقَةِ وَمُدْجَاءِ الْعَصَاةِ وَظِلُّ الْعَفَاتِ مَاوِي

طریقت کے ماہ تو۔ عاصیوں کی جائے پناہ۔ سائین کے لیے سایہ جو دو نوال

الْمَسَاكِينِ وَهَادِي الْمُضِلِّينَ تَارِحُ الْمَدَائِحِ وَفَرْدُ الْمَنَائِحِ

مساکین کا سہارا اور گمراہ کرنے والوں کے ہادی۔ صفات مدح کے تارح اور عطیات و الغامات میں یکتا۔

وَطَيْبُ الطَّيِّبِ وَالْمُبَرَّرُّ عَنِ الْعَيْبِ وَالرَّيْبِ وَعَيْنُ الْغَيْبِ

اہل طہارت کی طہارت کے موجب۔ عیب اور شکوک سے میرا۔ سراپا غیب

الْمَكْنُونِ وَسِرِّ السِّرِّ الْمَصُونِ وَخَاتِمُ الْوُجُودِ وَفَلَكُ الْأَمَانِ

مکنون ہیں اور اسرار مضمون کی روح ہیں وجود کے لیے زیبا نش۔ جو دو امان کے فلک دائرہ۔

وَالْجُودُ دَائِرَةُ التَّوْحِيدِ وَهَالَةُ الْهَيْكَلِ السَّعِيدِ بَدْرُ التَّحْقِيقِ

توحید کے دائرہ محیط اور مجسمہ سعادت کے ہیکل کا ہالہ اور دائرہ نور۔ تحقیق کے ماہ تمام

وَنُورُ التَّصْدِيقِ رِيَاضُ الْخُلَّةِ وَسَرَايُ الْمَلَّةِ رَأْسُ الْمَحَبَّةِ

اور تصدیق کے نور سراپا۔ خلعت اور دوستی حق کے ریاض سرسید اور ملت خلیفہ کے روشن چراغ۔ محبت کی اصل

وَمُطَهَّرُ الْكَعْبَةِ حَامِي الْمَقَامِ وَمُفْشِي السَّلَامِ وَشَهَابُ الدِّينِ وَ

بنياد اور کعبہ مبارکہ کو پاک کرنے والے اور مقام مقدس کی حفاظت کرنے والے۔ سلام کو عام کرنے والے دین کے روشن ستارے اور

أَنْسَانَ الْعَيْنِ جَوَادِ الْبِرِّ وَطِرَازِ الطَّرَازِ صَبِيهِ الْحَسْبِ وَعَرِيْقِ

علائق کی آنکھ کی تیلی۔ میدان مبارزت کے شاہسوار۔ نقوش زینت کی زینت۔ مضبوط حسب والے اور راسخ

النَّسَبِ ذِمَامِ الْحَرَمِ وَلِبَابِ الْكِرَامِ نُورِ عَرُوسِ الْقَدَمِ وَضِيَاءِ

نسب والے۔ حرم (کی حفاظت) کے ضامن اور کرم و بخشش کے جوہر و مغز۔ عروس قدم وازلیت کے نور اور امتوں کی

بَصَائِرِ الْأُمَمِ قَبْرِ السَّعَادَةِ وَقَدِّكَ السِّيَادَةِ وَجَهِ الرِّضَا وَعَدْلِ

بصیرتوں کی ضیاء۔ سعادت کے ماہ تاباں اور سیادت کے سپہرا عظم۔ رضاء حق کے سبب اور قضاء میں

الْقَضَاءِ شَمْسِ الْمَنَا وَزُهْرَةِ الثَّنَاءِ قُدْوَةَ الْمُتَّقِينَ وَجَامِعِ شَمْلِ

باعث عدل و انصاف۔ آرزوؤں کے آفتاب اور ثناء و توصیف کے نجم زہرہ۔ متقین کے مقتدا و بی فضائل کے

الدِّينِ وَهَادِي الْمُهْتَدِينَ مُجِيبِ الدَّاعِي وَنَعْمِ الرَّاعِي سَيْفِ

جمع کرنے والے۔ ہدایت یا فتگان کے ہادی۔ دعوت کو قبول کرنے والے اور اچھے نجران و محافظ ملت کی

الْمِلَّةِ وَنَرِيْنِ الْوَجْهِ وَالْحُلَّةِ تَمَامِ الدِّينِ وَنِهَآيَةِ الْيَقِيْنِ ط

تواری۔ پھروں اور خلعتوں کی زینت۔ دین کو تمام و کامل کرنے والے اور یقین کی انتہاء پر فائز

مِفْتَاحِ الضِّيَاءِ وَسُرُورِ أَهْلِ الْآخِرَةِ وَالْدُّنْيَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ضیاء کی مفتاح اور سبب تمام اور اہل آخرت و اہل دنیا کے سراپا سرور۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ حَيْثُ السَّمَاحَةِ وَمَنْبَعِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب سخاوت کی شاہراہ ہیں اور نصاحت کے

الْفَصَاحَةِ سِبْطِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَعْدَاءِ الْأَتْبَاءِ وَأَنْجِدِ الْأَنْجَادِ وَالنَّجْمِ

سرچشمہ بلند شان ناموں والے ہیں اور انتہائی معزز و کامل۔ سب بہادروں سے بڑے بہادر و کوہ و قارا اور روشن ستارے

الْوَقَادِ زَيْنِ الْعَالَمِينَ وَأَحْمَدِ الْحَامِدِينَ وَكَرِيمِ الْعَنْصَرِينَ

عالمین کی زینت تمام حمد کرنے والوں سے بڑے حامد۔ دونوں پاکیزہ عنصروں والے

وَمُكْرَمِ الْأَكْرَمِينَ مِفْتَاحِ الْفَلَاحِ وَمِصْبَاحِ الْأَرْوَاحِ وَإِمْلَاحِ

اور ارباب کرامت کو کرامت و بزرگی بخشنے والے کامیابی کی جانی ارواح کے روشن چراغ۔ فرحت و خوشی کی نمکینی و

الْفَرَاحُ زَيْنُ الْمَدَائِحِ وَعَيْنُ الْمَدَائِحِ زَيْنُ الصِّفَاتِ وَحَسَنُ

چاشنی۔ تعریفیات کی زینت اور عین مدح و ثناء صفات کمال کی زینت اور اچھی

الثَّبَاتِ قُوَّةُ الْأَرْوَاحِ وَعَنْبَرُ الْفَوَاحِ وَأَسْعُ الْكَلْفِ وَبَرَكَةُ السَّلْفِ

ثبات قدمی والے۔ ارواح کے لیے باعث قوت۔ اور مہکتا عنبر اور بے پایاں محبت والے۔

غَزَالِ النَّفْيِ وَكَنْزِ التَّقَى مُبَشِّرُ الْمُخْبِتِينَ وَمَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ

صاف و ستھرے ہرن کی مانند چاک و چوبندر۔ تقویٰ کا خزانہ۔ فروتنی و انکساری والوں کے مبشر اور مؤمنین کے آقا و

عَصْمَةُ الْعَصَاةِ وَعَرُوسُ الْمَحَبَّةِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ السَّيِّئَاتِ وَ

مولیٰ، عاصیوں کے (نہر خداوندی سے) بچنے کے موجب، محبت و پیار کے دو لہا جن کے ذریعے اللہ برائیوں کو مٹاتا ہے اور

يُضَاعَفُ اللَّهُ بِهِ الْحَسَنَاتِ يَا مَتَّانُ ذَا الْإِحْسَانِ قَدْ عَمَّ كُلَّ

نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ اے احسان کرنے والے محسن احاطہ کئے ہوئے ہے تمام

الْخَلَائِقِ مِنْهُ قَدْ مَنَنْتَ عَلَى الْعَقْلِ الْأَوَّلِ بِالْإِبْجَادِ وَالْإِكْرَامِ

مخلوقات کو جس کا احسان تو نے ہی احسان فرمایا عقل اول پر ايجاد و تخلیق اور عزت و اکرام کے ساتھ

وَأَحْسَنْتَ إِلَيْهِ بِمَحْضِ الْجُودِ وَالْإِنْعَامِ حَتَّى صَارَ مَوْجُودًا

اور نیکی کی اس کے ساتھ جو دو انعام محض کے ساتھ حتیٰ کہ وہ ہو گیا موجود وجود

مُشَخَّصًا بَسِيطًا كَلِيًّا مَجْرَدًا فِي ذَاتِهِ وَفَعَلَهُ نَاشِئًا مِنْهُ وَجُودٌ

مشخص کے ساتھ درانحالیکہ وہ بسیط و کلی ہے مجرد اور غیر مادی ہے اپنی ذات اور افعال میں اسی سے پیدا ہونے والا ہے

نَفْسٍ فَلَئِنْ مَدَّ بِرَأْمِطِيْعًا مَطَاعًا يَا ذُنَ اللَّهِ وَإِقْدَارَهُ وَجَعَلْتَهُ

نفس مدبرہ فکلی کا وجود جو اطاعت گزار بھی ہے اور اطاعت کیا جائے والا بھی اللہ تعالیٰ کے اذن اور قدرت عطا نیر سے اور

قَادِرًا غَنِيًّا عَنْ كُلِّ الْأَعْيَانِ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْكَ فِي بَقَاءِ شَخْصِهِ

تو نے اسے بنا دیا ہے صاحب قدرت اور مستغنی تمام موجودات سے پس وہ تیری طرف محتاج ہے اپنی بقا اور وجود میں

وَوُجُودِهِ بِحَيْثُ انْشَأَتْ سَلْسَلَةُ الْوُجُودِ مِنْهُ ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَيْكَ

اس حیثیت سے کہ تو نے پیدا فرمایا ہے سلسلہ وجود کو اسی سے پھر وہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا تجھ پر۔



فَهَذَا مِنْكَ وَإِحْسَانُكَ فِي حَقِّهِ أَعْظَمُ الْمِنَّةِ وَالْإِحْسَانَاتِ

پس یہ تیری منت اور احسان ہے اس کے حق میں جو سب احسانوں سے عظیم تر ہے

ثُمَّ أُعْطِيَتْهُ قُوَّةٌ بِهَا يَصُونَ أَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْأَرْحَامِ وَجَعَلْتَهُ

پھر تو نے اس کو قوت عطا کی ہے کہ وہ اس کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے ارواح انبیاء علیہم السلام کو ارحام میں اور بنادیا

مَلِكَ اللُّوْحِ وَالْقُرْآنِ وَقَدْ سَنَّهٗ عَنِ التَّمْثِيرِ ثُمَّ عَظَمْتَهُ وَ

ہے تو نے اس کو بادشاہ لوح (مفوظ کا) اور قرآن کا اور مقدس ٹھہرایا ہے اس کو تکبیر سے پھر اسے عظمت و

كَرَمْتَهُ بِمِنَّةٍ وَإِحْسَانِكَ وَإِعْطَاكَ نَفْحَةَ التَّضْبِيبِ تَحْتَ

کرامت بخشی اپنے فضل و احسان سے اور عطا کرنے تیرے ہوا کا تیز جھونکا جو چھپانے والا ہے خاک

جَوَاهِرِ التُّرَابِ بِحَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ شَيْئًا مَذْكَورًا وَنَفَحْتَ

کے جواہر کے نیچے (دہرشی کو) اس طرح کہ نہ رہی کوئی شے اس سے قابل ذکر اور تو نے تیز ہوا

التَّمْثِيرِ فَبِأَثَرِهِ وَنَضَارَتِهِ صَارَ الْوُجُودُ مُنْبَسِطًا عَلَى ذَرَاتِ

عمل تقسیم والی چلائی تو اس کے اثر اور تازگی سے ہو گیا وجود پھیلنے والا ذرات شخصیت پر

شَخْصِيَّةٍ فَيَكُونُ جَامِعًا لِذَاتِ كُلِّ شَخْصٍ مَحْصُورَةً فِي شَخْصِهِ

پس ہو گیا جامع واسطے ہر شخص کی ذات کے در آٹھا لیکہ وہ ذات محصور و منحصر ہے اس شخص میں

وَعَضْوَةٌ فَيَكُونُ الْإِحْسَانُ مِنْكَ فِي حَقِّهِ قَدْ كَفَرْتُ لَهُ بِجَمِيعِ

اور اس کے اعضاء میں پس ہو گا احسان صرف اور صرف تیری طرف سے اس کے حق میں نے کفارہ دیا ہے اس کے لیے اپنے

بَدَانِي وَأَعْضَائِي فَأَحْسِنُ إِلَيَّ بِأَنْ يَكُونَ مُجِبًّا لِي وَنَاصِرًا لِي

تمام بدن اور اعضاء کے ساتھ پس تو میری طرف احسان فرما کہ وہ عقل اول میرا محب اور ناصر بن جائے

شِدَائِي وَحَاجَاتِي وَبِأَنْ يُهْدِيَ تَهْدِيرًا حَوْلَهُ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ

میری تمام مشکلات اور حاجات میں اور جوش و خروش کا اظہار کرے اپنے ارد گرد ملائکہ میں

الَّتِي جَعَلْتَهُ رَئِيسَهَا وَعَيْنَهَا وَبِأَنْ تُسَخِّرَ لِي وَمُجِيبًا لِي إِلَيْهِ فَحَسْبِيَ

جن پر تو نے اس کو رئیس بنایا اور ان کا نگران اور اسے سخر فرمائے میرے لیے اور مجھے محبوب بنائے اس کے ہاں احسان کرنے والا ہو



حَقَّ عَبْدُكَ وَفَقِيرُكَ كَمَا أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ ثُمَّ مَنَّكَ وَاحْسَانُكَ

تیرے عبد و فقیر کے حق میں جیسے کہ تو نے اس پر احسان فرمایا پھر تیرا فضل و احسان پہنچا ہے

قَدْ وَصَلَ إِلَى كُلِّ عَقْلٍ وَنَفْسٍ فَلَيْكِي وَمَلِكِي حَتَّى إِلَى الْعَقْلِ

طرف ہر عقل و نفس فلکی اور ملکی کے حتیٰ کہ عقل

الْفَعَالِ الْمُدَبِّرِ لِلْأُصُولِ وَالْأَمْهَاتِ فِي التَّمْزِيحِ وَالتَّخْلِيطِ وَ

فعال تک بھی جو مدبر و متصرف ہے اصول اور مواد منفعلہ میں باہم امتزاج و اختلاط پیدا کرنے میں اور

التَّصْوِيرِ فِي الْأَرْحَامِ ثُمَّ الْحِفْظِ مِنَ الْجَنَاتِ الْمُتَمَرِّدَةِ الْقَاصِدَةِ

ارحام کے اندر صورتگاری میں پھر محفوظ رکھنے میں ان جنات سے جو سرکش ہیں اور درپے ہوتے ہیں

إِلَى الْإِهْلَاكِ وَالْأَلَامِ وَشَرَّفْتَهُ بِالْكَلامِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ الْعُظَامِ

ہلاک کرنے اور رنج و الم پہنچانے کے اور مشرف فرمایا اس کو انبیاء عظام علیہم السلام کی ہمگامی کے ساتھ

خُصُوصًا مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ وَ

بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن پر تو نے احسان اور تفضل فرمایا

مَنْنْتَ عَلَيْهِ بِالنُّبُوَّةِ وَالْمُعْجَزَاتِ الْبَاهِرَاتِ بَعْضُهَا بِالْفِعْلِ

عطا نمود اور عطا، معجزات کے ذریعے جو واضح اور روشن ہیں جن میں بعض بالفضل ہیں

وَبَعْضُهَا بِالْقُوَّةِ ثُمَّ شَرَّفْتَهُ بِالْمَعَارِجِ وَكَرَّمْتَهُ بِأَنْوَاعِ الْخُطَابَاتِ

اور بعض کی صلاحیت و استطاعت ہے پھر انہیں مشرف فرمایا بلندوں کے ساتھ اور تکریم کی مختلف اقسام کے خطابات

فَأَطَاعَتْ نَفْسَهُ وَمَا التَّفَتَ بَصْرَةَ وَجَعَلْتَهُ مَحْبُوبًا فِي الْقُدْسِيَّاتِ

اور القابات کے ساتھ پس اطاعت کی ان کے نفس نے اور نہ دوسری جانب متوجہ ہوئی نگاہ ان کی اور بنا دیا تو نے انہیں محبوب تمام قدسیوں

وَالْمَحْسُوسَاتِ وَأَصْحَابَهُ كَوَاكِبَ دَرِّيَّاتٍ فِي الْأَرْضِيَّاتِ حَتَّى نَجَا

میں اور محسوسات میں اور ان کے اصحاب کو چمکتے ستارے زمینی مخلوقات میں حتیٰ کہ نجات حاصل کر لی

مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِمْ بِحُسْنِ التَّصَدِيقِ وَالطَّاعَةِ يَا إِلَهِي هَذِهِ

ہر اس شخص نے جو متوجہ ہوا ان کی طرف صحیح تصدیق اور طاعت کے ساتھ۔ اے میرے الٰہ یہ

الْحَسَنَاتُ فِي حَقِّهِمْ مِنْ أَثَارِ الْإِحْسَانَاتِ وَالْمِنَنِ الْبُقَدَّاسَةِ

تیکیاں ان کے حق میں تیرے ان احسانات و نوازشات کے آثار و اثرات ہیں جو منزه و مسبرا ہیں

عَنِ الْإِعْرَاضِ وَالْبَدَلَاتِ وَكَيْفَ وَالْكَفَّارِ لِمَلْعُونُونَ قَاتِلُونَ

اعراض اور عوض و بدل سے اور کیونکر اس طرح نہ ہوگا حالانکہ کفار ملعون (جو محروم احسان ہیں) اور قاتل ہیں تیرے

بِالْوَالِدِ وَالشَّرِكِ وَأَنْوَاعِ النَّسَبِ اللَّادِي تَقَدَّسَتْ ذَاتُكَ وَتَنْزَهَتْ

حق میں اولاد کے اور شرک کے اور طرح طرح کی نسبتوں کے جن سے مقدس ہے تیری ذات اور منزہ ہیں

صِفَاتِكَ عَنْهَا وَأَنْتَ تَرْزُقُهُمْ وَتَصُونُ أَبْنَاءَهُمْ مُمَقَّاةً عَلَى

تیری صفات اور تو انہیں رزق دیتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے ان کے بیٹوں کو در آنحالیکہ رس چوستے ہیں

أَشْجَارِهِمْ وَهَيْئَاتِهِمْ وَهَذَا مِنْ إِحْسَانِكَ وَمَتِّكَ الْمَحِيطِ

اپنے درختوں سے اور مستفید ہوتے ہیں ان کے ہیئت و احوال سے اور یہ تیرا احسان و مفضل ہے جو محیط ہے

بِكُلِّ خَلْقٍ حَتَّى الْعَلَقِ وَالذُّبَابِ وَالذُّودِ الْمَتَكُونَةِ عَنِ

ہر مخلوق کو حتی کہ لوتھڑوں اور مکھیوں اور ان کیڑوں کو بھی جو تیار ہوتے

الْعَفُونَاتِ إِلَهِي لِسَانِي كُلِّ وَقَلْبِي مَحْجُوبٌ عَنْ تَفْصِيلِ الْمِنَنِ

غلاظتوں سے۔ اے میرے الہ میری زبان گنگ ہے اور میرا دل مجھ سے تیرے ان احسانات و نوازشات کی

وَالْإِحْسَانَاتِ مِنْكَ فِي خَلْقِكَ فَأَحْسِنُ إِلَيْهِ بِأَنْوَاعِ الْأَثَارِ الْفَائِضَةِ

تفصیل سے جو تیری طرف سے مخلوق پر ہیں پس میری طرف احسان فرما مختلف النوع آثار کے ساتھ جو جاری ہونے والے ہیں

وَالشُّعَاعَاتِ النَّوْمِيَّةِ الْحَادِثَةِ مِنَ الْعَكْسَاتِ وَتَسْخِيرِ الْقُدْسِيَّاتِ

اور نورانی شعاعوں کے ساتھ جو پیدا ہونے والی ہیں تیرے عکسوں اور پرتوں سے اور احسان فرما قدسیوں

وَالْأَرْوَاحِ السَّمَاوِيَّاتِ وَالْأَرْضِيَّاتِ فَائِضَةً عَلَى قَلْبِ هَذَا

اور ارواح کی تسخیر کے ساتھ جو سماوی ہیں اور ارضی در آنحالیکہ کہ فیضان کئے جائیں اس عباد عاجز کے دل پر

الْعَبْدِ الدَّلِيلِ عُلُومِ الْكَلِمَاتِ قَادِرَةٌ نَفْسُهُ عَلَى تَفْصِيلِ

علوم کلمات کے اور قادر ہو ذات اس کی جزئیات کی تفصیل پر



الْجُرِّيَّاتِ ثُمَّ اجْعَلْ رَأِيًا قَائِمًا فِي الْمَلَكُوتِ وَاللَّاهُوتِ بِحَيْثُ

پھر بنا اس کو دیکھنے والا قیام کرنے والا ملکوت والا ہوت میں اس حیثیت سے کہ

يَرَاهُمَا مُشَاهِدَةً مَنْ غَيْرِ حِجَابٍ كَرُوءِيَةِ الْبَصَرِ فِي الْمَحْسُوسَاتِ

دیکھے ان دونوں کو روبرو بغیر حجاب کے مانند دیکھنے آنکھ کے محسوسات کو۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مُسَبِّحًا وَمُصَلِّيًا مَعَ الْعَقْلِ وَالْمَلَكُوتِ رَأِيًا بَعِينٍ

اے اللہ بنا دے مجھے تسبیح نوحوں اور صلوات ادا کرنے والا ساتھ عقل کے اور ملکوت کے دیکھنے والا

الْقَلْبِ أُنِي قَائِمٌ فِي صَفْوَرِهِمْ وَأَصَافِهِ مَعَهُمْ فَيُحْسِنُونَ إِلَيَّ وَ

قلب کی نگاہ کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا ہوں ان کی صفوں میں اور ان سے مصافحہ کر رہا ہوں پس وہ میرے ساتھ نیکی کریں اور

يُحْسِنُونَ إِلَيَّ أَنْ هَذَا الْعَبْدُ الْأَرْضِيُّ مِنْ جُمْلَتِهِمْ فَيُحِبُّونَ لِي وَ

پور کریں کہ یہ خاکی بندہ بھی انہیں میں سے ایک ہے پس وہ محبت کریں مجھ سے اور

يَنْصُرُونَنِي عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالتَّوَجُّهِ إِلَيْهِمْ اللَّهُمَّ أَنْتَ قَدْ

مدد کریں بوقت حاجت اور متوجہ ہونے کے طرف ان کے۔ اے اللہ تو نے مجھے

أَوْجَدْتَنِي بِإِحْسَانِكَ وَمَتَّكْتُكَ ثُمَّ بَلَّغْتَنِي إِلَى مَبْلَغِ هَذَا

ایجاد فرمایا اپنے احسان اور نوازش سے اور پھر پہنچایا مجھے اس مقام تک

فَأَحْسِنُ إِلَيْكَ الْآنَ بِالَّذِي أَطْلَبُهُ مِنْكَ فَاجِبُ دَعْوَاتِي وَتَقَبَّلْهَا

تو اب بھی مجھ پر احسان فرما ساتھ ان اشیاء کے جو تجھ سے طلب کروں۔ میری دعاؤں کو قبول فرما اور انہیں اچھی قبولیت

بِقَبُولِ حَسَنِ الْإِلَهِيِّ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِكَ حَتَّى أَتَوَجَّهَ إِلَيْكَ أَنْتَ مَوْلَانَا

عطا فرما۔ اے میرے اللہ کون ہے محبوب کار ساز سولے تیرے تاکر میں اس کی طرف متوجہ ہوں۔ تو ہی ہمارا ناصر و

وَدَلِينُنَا وَمَوْجِدُنَا وَمُعِدُّنَا وَمُعِيدُنَا فَمِنْ عَلَيَّ وَتَبَتَّنِي وَأَحْشَرْتَنِي

و مددگار اور کار ساز اور موجد ہے اور معدوم کرنے والا اور دوبارہ موجود کرنے والا ہے پس مجھ پر احسان فرما اور ثبات قدم رکھ اور مجھے

تَحْتَ لَوَاءِ رَسُولِكَ فَيَقْرَبُنِي يَوْمَ الْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ إِلَيْكَ وَ

اٹھانا اپنے رسول کے جھنڈے کے نیچے پس وہ قریب کریں مجھے روز جزاء و حساب میں تیری بارگاہ کے اور

اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ وَرَسُولَكَ وَعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ مِنَ السَّابِقِينَ

بنا مجھے ان سے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور تیرے رسول سے اور تیرے عباد صالحین سے جو خیرات کی طرف

السَّابِقِينَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ يَا جَلِيلُ الْمَتَكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

سبقت لے جانے والے ہیں وہی تیرے مقرب ہیں۔ اے جلیل اے کبریاؤں کے مالک نسبت ہر شئی کے

فَالْعَدْلُ أَمْرَةٌ وَالصَّدْقُ وَعَدَةٌ أَنْتَ الْجَلِيلُ الْمَتَكَبِّرُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ

پس عدل ہے امر اس کا اور سچا ہے وعدہ اس کا۔ تو ہی جلیل و بزرگ ہے اور بڑائی والا اوپر ہر شئی کے

وَكُلُّ أَحَدٍ ذَلِيلٌ مَّقْهُورٌ تَحْتَ قَهْرِكَ وَجَلَالِكَ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ

اور ہر ایک عاجز و بے بس اور مغلوب ہے تیرے قہر و جلال کے نیچے اگرچہ ہو ساتھ اس حیثیت کے کہ

يَرْفَعُ الْأَرْضَ بِقُوَّتِهِ مَعَ مَا فِيهَا بِجَنَاحٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ

اٹھائے زمین کو اپنی قوت سے بے بیچ اس کے موجودات کے ساتھ ایک بازو کے پس نہیں اس کے لائق کہ

يَتَكَبَّرَ حَتَّى تَنْزِعَ قُوَّتَهُ وَالْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ يُسَبِّحُونَكَ تَسْبِيحًا

بڑائی کا اظہار کرے حتیٰ کہ تو اس کی قوت چھین لے اور تمام ملائکہ تیرے لیے تسبیح خواں ہیں

مَنْ كَبُرِيَائِكَ فَهُمْ يَذُوبُونَ عِنْدَ جَلَالِكَ وَكَبُرِيَائِكَ حَتَّى

تیرے کبریاؤں کی وجہ سے پس وہ سبھی پگھل جاتے ہیں تیرے جلال و کبریاؤں کے سامنے حتیٰ کہ

إِسْرَائِيلَ الْمُقَرَّبَ وَلَا يَسْتَطِيعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَنْ يَغْلِبَ وَاحِدًا

اسرائیل جیسا مقرب فرشتہ بھی۔ اور نہیں طاقت رکھتا کوئی ایک ان میں سے کہ غالب آئے کسی پر

وَلَا يَأْخُذُهَا جَبْرًا وَقَهْرًا إِلَّا بَعْدَ إِصْحَاحٍ وَإِلَّا لَمْ يَكُنِ الْوُجُودُ

اور پکڑے اس کو از روئے جبر و قہر کے مگر ساتھ صحیح عدل کے ورنہ نہیں ہو گا وجود

الْجَزْئِيُّ بَاقِيًا وَلَا حَاصِلًا يُوْجِدُهُ أَمْرًا إِيجَادَ عَدْلِ لَا ظُلْمٍ

جزئی باقی رہنے والا اور نہ حاصل جس کو موجود کرے تیرا امر بطور ایجاد عدل کے بغیر ظلم و تعدی کے

وَعَدُكَ صَدَقٌ وَالرَّحْمَانِيَّةُ وَالرَّحِيمِيَّةُ وَسَبْقَةُ الرَّحْمَةِ عَلَى

تیرا وعدہ سراسر صدق ہے اور رحمانیت و رحیمیت ہے اور تیرے رحمت کی سبقت مسلم سے

الْغَضَبِ وَإِعْطَاءِ الْجَزَاءِ الْحَسَنِ لِلْأَبْرَارِ فِي تِلْكَ الدَّارِ كَمَا قُلْتِ إِنَّ

تیرے غضب پر اور تیرا عطا کرنا بہترین جزاء ابراہیم کے لیے بھی تم سے اس دار میں جیسے کہ تو نے فرمایا

الْأَبْرَارِ لَفِي نَعِيمٍ ۗ اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَلْبِي مَظْهَرًا لِاسْمِ الْجَلِيلِ الشُّكْرِ

بے شک بخوار البتہ نعیم جنت میں ہیں۔ اے اللہ بنا دے میرے دل کو مظہر اپنے اسم جلیل شکر کا

حَتَّى لَا يَلْتَفِتَ إِلَى هَذِهِ الدُّنْيَةِ وَالْإِثَارِهَا فِيهَا بِالصَّدَقِ الْكَلْبِيِّ

حتیٰ کہ وہ نہ راغب ہو طوف اس رزق دنیا کے اور اس کے آثار کے بسبب صدق کلبی کے

الْمُطَابِقِ لِكُلِّ جُزْئِي لِيَصْدُرَ مِنِّي عِبَادَتُكَ وَطَاعَتُكَ بِحَيْثُ لَا

جو مطابق ہے واسطے ہر جزئی کے تاکہ سرزد ہو مجھ سے تیری عبادت اور طاعت ساتھ اس حیثیت کے نہ

أَسْقَطُ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا كَوْنًا مَعَ الْخَلْقِ بِهَا قَطْعًا وَصِدْقًا وَعَدْلًا وَ

ساقط کروں ان سے کوئی شئی تاکہ ہو جاؤں بسبب اس عبادت کے ساتھ مخلوق کے یقیناً اور از روئے صدق اور عدل کے اور

بِالْقَلْبِ مَعَكَ مُشَاهِدًا حَاضِرًا سَبِيحًا بِوَعْدِكَ مُطِيعًا لِأَمْرِكَ

باعتماد قلب کے ساتھ تیرے مشاہدہ کرنے والا۔ حاضر بارگاہ تیرے وعدہ کو سننے والا۔ تیرے حکم کا اطاعت گزار

بِتَوْفِيقِكَ لِذَلِكَ اللَّهُمَّ أَحْيِنَا مُسْتَمْسِكِينَ بِسُنَّتِهِ وَمَحَبَّتِهِ

ساتھ تیری توفیق کے۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ اس حالت میں کہ تھامنے والے ہوں ان کے دامن سنت و محبت کو

وَاجْعَلْنَا مِنْ أَحْيَارِ أُمَّتِهِ وَأَسْتُرْنَا بِذِيْلِ حُرْمَتِهِ وَأَسْتُرْ عِيُوبَنَا

اور بنا ہمیں آپ کی امت کے بہترین افراد سے اور ہمیں ڈھانپ ڈھانپ ان کے دامن حرمت کے ساتھ اور ہماری پردہ پوشی فرما

بِدَانَارِ دِينِهِ وَمِلَّتِهِ وَأَحْشُرْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَتِهِ وَأَسْقِنَا

ان کے دین و ملت کی چادر کے ساتھ اور ہمیں آٹھانا قیامت کے دن ان کی جماعت میں اور پلانا

مِنْ حَوْضِهِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ مَعَ أَهْلِهِ وَخَوَاصِّهِ وَ

ان کے حوض کوثر سے اور جنت میں داخل کرنا ان کی شفاعت سے بمع ان کے اہل اور خواص کے اور

اجْمَعْنَا بِهِ وَرَبِّهِمْ فِي مَقْعَدِ الصَّدَقِ عِنْدَكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

ہمیں جمع فرمانا ساتھ آپ کے اور ان کے سبائی والی نشنگاہ میں اپنے ہاں ساتھ ان کے جن پر تو نے انعام فرمایا



عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْغَوَاثِ

یعنی اعیاد و صدیقین اور شہداء و صالحین اور اغواث

الْعَارِفِينَ يَأْتِيَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

و عارفین کے لئے بہت جزاء عطا دینے والے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما بیشک تو ہی سننے والے والہی

بِحُرْمَةِ هَذَا النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَالرَّسُولِ الْعَرَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بطفیل حرمت و عزت اس نبی امی اور رسول عربی کے درود بھیجے اللہ ان پر ایسا درود

تُعَرِّفُنِي بِهَا أَيَّاهُ فِي مَرَاتِبِهِ وَعَوَائِلِهِ وَمَعَالِمِهِ حَتَّى أَشْهَدَهُ

کہ عرفان عطا کرے بسبب اس کے ان کا ان کے مراتب و عوامل اور معالم کی رو سے تا آنکہ میں ان کا مشاہدہ کروں

بِعَيْنِ الْعِيَانِ لَا بِالذَّلِيلِ وَالْبُرْهَانَ وَأَعْرِفَهُ بِالتَّحْقِيقِ فِي كُلِّ

ظاہری آنکھ کے ساتھ نہ محض دلیل و برہان کے ساتھ اور میں پہچان لوں ان کو یقین کے ساتھ

مَوْطِنٍ وَطَرِيقٍ وَأَرَى سُرْيَانَ سِرَّهُ فِي الْأَكْوَانِ وَمَعْنَاهُ الْمَشْرِقِ

ہر مقام اور راستہ میں اور دیکھ لوں میں ان کے ستر اور باطن کا سرایت کرنا جملہ مہجرات میں اور ان کے روشن معنی و حقیقت کی

فِي مَجَالِيهِ الْجَسَانِ وَاجْعَلِ اللَّهُ مَوْجِدِي مُنَوَّرًا مِنْ شَمْسِ

سرایت حسین و محبوب ترین جلوہ گاہوں میں اور بنا لے اللہ میرے مقام و درود کو منور ان کے آفتاب

حَقِيقَتِهِ وَمِنْ نُورِ بَدْرِ شَرِيعَتِهِ حَتَّى أَسْتَضِيءَ فِي كُلِّ

حقیقت سے اور ان کی شریعت کے بدر منیر سے حتیٰ کہ ضیاء حاصل کروں اپنی جہالت کی شب تاری

جَهْلِي بِأَنْوَارِ حَقَائِقِ مَعَارِفِهِ وَأَنْسِي فِي غُرْبَةٍ مَسْرَايَ

میں ان کے معارف کے انوار حقائق سے اور مجھے انس مٹیا فرما میرے سفر غربت میں ان کے لطافت

بِأَيْنَاسٍ لَطَائِفِهِ وَأُحْمِلُنِي إِلَى حَضْرَتِهِ الْأَقْدَسِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ

کے انس سے اور مجھے سوار فرما مقدس بارگاہ احمدیہ کی طرف شریعت محمدیہ کے

عَلَى كَاهِلِ الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَعَبِّرْ أَطْوَارَ نَقْصِي بِأَطْوَارِهِ وَ

کندھے پر اور آباد و بارونق بنا میرے نقص و کوتاہی کے طریقوں کو ان کے اطوار کمال سے اور



الْبُسْنَى مِنْ خَلْعِ جَلَالِهِ وَجَبَالِهِ وَأَفْرَدَنِي فِي حُبِّهِ كَمَا أَفْرَدْتَنِي

پہنا مجھے ان کے جلال و جمال کی خلعتوں سے۔ اور مجھے منفرد بنا ان کی محبت میں جیسے انہیں منفرد بنایا

فِي حُسْنِهِ وَإِحْسَانِهِ وَخَصَّصَنِي بِخَصَائِصِ قُرْبِهِ وَامْتِنَانِهِ

حسن اور احسان میں اور مخصوص ٹھہرا مجھے ان کے قرب و احسان کی خصوصیات کے ساتھ

حَتَّى أَكُونَ بِهِ وَارِثًا لِدَيْهِ وَنَاطِرًا إِلَيْهِ وَجَامِعًا عَلَيْهِ وَأَحْشَرْنَا

حتیٰ کہ میں اس اختصاص کی بدولت ہوجاؤں وارث ان کے میوے کا اور ان کے دیدار اور ان کے ساتھ جمعیت مشرف اور ہمیں اٹھانا

يَا رَبَّنَا فِي زُمْرَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَجْرُنَا يَا رَبَّنَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ

اے پروردگار سیدنا محمد کی جماعت میں اور بچا ہمیں عذاب قبر اور

الْأَهْوَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَرَكَاتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَدْخَلْنَا وَالِدَيْنَا

قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بطفیل سیدنا محمد کی برکات کے اور ہمیں اور ہمارے والدین کو

الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَارْتُقْنَا النَّظْرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ

جنت میں داخل فرمانا سیدنا محمد کی شفاعت سے اور ہمیں نصیب فرمانا کے چہرہ مکرم کی زیارت

بِحَبَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَسْأَلُكَ بِهِ وَبِأَلْوَصَافِ الْأُولَى وَأَتَوَسَّلُ بِهِ

بطفیل سیدنا محمد کی عزت و حرمت میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل آپ کے اور آپ کے مذکور سابقہ اوصاف کے طفیل اور ان کو وسیلہ بنا تا ہوں

إِلَيْكَ أَنْتَ الْمَجِيبُ لِمَنْ سَأَلَ يَا رَبَّنَا أَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلَيْهِ

تیری بارگاہ میں تو ہی قبول فرمانے والا ہے سائلین کے سوالات کو اے ہمارے پروردگار ان پر صلوات و سلام بھیجے

صَلَاةً تَلِيْقُ بِذَاتِكَ وَبِذَاتِهِ الْمُحَمَّدِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو لائق و شایاں ہو تیری ذات کے اور ان کی ذات ستودہ صفات کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَّفَ بِهِ اللَّهُ ذِكْرَهُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت ان کے ذکر کو اور نسب کو اللہ تعالیٰ نے

وَنَسَبَهُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

فضل و ترفیح بخشا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر



مُحَمَّدٍ عَيْنِ أَعْيَانِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَغُرَّةِ أَفَاقِ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ

جو محبوب مانند آنکھ کے ہیں اہل ارض کے ارکان دولت کے لیے اور روشنی اور زینت ہیں بالعموم تمام کے آفاق کے اور بالخصوص بعض خواہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے لیے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الْبُرْجِيِّ لِدَفْعِ الشَّدَائِدِ وَالْمُؤَمِّلِ لِنَيْلِ الْفَوَائِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

جس محبوب کے رجا و امید و البتہ ہے شدتوں کی دوری کی اور جن سے آرزوئیں و البتہ ہیں منفعتوں اور فوائد کے حصول کی۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْجِي لِمَنْ جَنَى

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا نجات دہندہ ہیں اہل جنایت کے

وَيَكْسُو الْوَرَى حُلَّةَ الثَّنَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور مخلوق کو پہناتے ہیں خلعتیں ثناء کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِدِيَعِ الصِّفَاتِ وَمُنْتَهَى الْأُمَالِ وَالرَّغْبَاتِ

آل پر جو محبوب انوکھی صفات والے ہیں اور منتہی وغایت ہیں آرزوؤں اور رغبتوں کی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

الْأَمِينِ عَلَى الْغَيْبِ وَالْبَرِّي مِنَ الشُّكِّ وَالرَّيْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

محبوب معتمد علیہ ہیں اللہ تعالیٰ کے امور غیبیہ پر اور میرا و مزہ ہیں شک و تردد سے۔ اے اللہ صلوات و

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُصْبِحِ ضِيَاءِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب قلوب کی نورانیت کیلئے

الْفُؤَادِ وَمَفْرَجِ كُرْبِ يَوْمِ الْمَعَادِ وَكَانَ يَحْكُمُ بِالسُّوِيَّةِ وَيُعْدِلُ

چراغ نور ہیں اور روز قیامت کے درد و آلام کے دور کر نیوالے ہیں اور آپ مساوات کا حکم دیتے تھے اور فیصلوں میں عدل و

فِي الْقَضِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

انصاف ملوثا رکھتے تھے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ أَخْلَاقُهُ مَرْضِيَّةً وَكَثَافَةً وَطَيِّبَةً وَأَحْوَالُهُ

کہ جس محبوب کے اخلاق پسندیدہ تھے اور پہلو و جوانب نرم اور احوال

مَرْضِيَّةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پسندیدہ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ خُلَاصَةً عِبَادِكَ وَمَظْهَرٌ مُرَادِكَ وَسَلَالَةَ أَنْبِيَائِكَ وَ

پر جو محبوب خلاصہ اور جو بہر ہیں تیرے مخصوص بندوں کے اور تیری مراد کا مظہر ہیں اور انبیاء کی نسل سے اور

خَاصَّةً أَصْفِيَاءِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اصفیاء میں سے مخصوص ترین ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةَ اتَّقِيَاءِكَ وَكَرَامَةَ أَوْلِيَائِكَ وَعَرُوسِ

کی آل پر جو محبوب تیرے اہل تقویٰ میں سچے ہوئے اور تیرے اولیاء کے لیے باعث بزرگی اور تیری

مَمْلُوكَتِكَ وَتَرْجُمَانِ أَحَدِيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

مملکت کے دولہا اور تیری احدیت کے ترجمان ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِسَانَ حُجَّتِكَ وَسَيْفِ عِزَّتِكَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب تیری حجت کی زبان اور تیری عزت کی تیغ بے نیام۔

وَبُرْهَانَ آيَاتِكَ وَدَلَالََةَ كَرَامَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

تیری آیات کی برہان اور بزرگیوں کی دلیل ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ رَحْمَتِكَ وَشُكْرِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب تیری عین رحمت اور سراپا شکر

نِعْمَتِكَ وَعُتْوَانِ مَمْلُوكَتِكَ وَسِرِّ اسْرَارِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نعمت اور عنوان مملکت اور سراپا اسرار ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنْهُجِ طَرِيقَتِكَ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل امجاد پر جو تیری طریقت کی شاہراہ ہیں اور

يُهِن تَوْفِيْقَكَ وَكَنْزِ اَمَانِكَ وَعَدْلِ سُلْطَانِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

تیری توفیق کا یمن و برکت ہیں اور تیری امان کا خزانہ اور تیرے تسلط و غلبہ کا عدل سراپا ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَلِيْلَ سَبِيْلِكَ وَمُنْحَةً

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب تیری ذات کے راستہ کی دلیل ہیں

تَنْوِيْلِكَ وَجُودِ نِعْمَاتِكَ وَمَنْهَلِ عَطَائِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور تیرے جو دروزال کا عظیم عطیہ اور تیری نعمتوں کا جو دروسخا اور تیری عطا کا گھاٹ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَحَلَّ ذِكْرِكَ وَفَرْزِدَ شُكْرِكَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب تیرا محل ذکر اور تیرے بیش از بیش شکر گزار

وَمَحْضَ عِنَايَتِكَ وَمَقَرَّ وُجُوْحِكَ وَرَسَالَتِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور تیری مجسم عنایت اور تیری وحی اور رسالت کے مقام قرار و استقرار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّظْهَرَ بَرَكَاتِكَ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب تیری برکات کے مظہر اور

مَوْطِنَ خَيْرَاتِكَ وَجَزِيْلَ اِحْسَانِكَ وَكِفَايَةَ اِمْتِنَانِكَ اَللّٰهُمَّ

تیری خیرات کی جائے قرار و اقامت اور تیرے عظیم احسان اور تیری نوازش و عنایت کا وسیلہ کفایت۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حِمَايَةَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب مجسم حمایت ہیں

دِيْنِكَ وَسِرِّ تَكْوِيْنِكَ وَمُصْبَاحِ شَرِيْعَتِكَ وَمِفْتَاحِ خَلِيْقَتِكَ

تیرے دین کی۔ اور راز سر بستہ ہیں تیری ایجاد کا۔ اور روشن چراغ ہیں تیری شریعت کا اور تیری مخلوق کے آغاز کی چابی ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُتَّبِعِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب سرچشمہ علم

اَلْعِلْمِ وَمَجْمَعِ اَلْحِلْمِ وَمَزِيَّةِ اَلْكَرَمِ وَزُهْرَةَ اَلظُّلْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

ہیں اور مرکز و محل ہیں علم و بردباری کا اور کرم و بخش کی فراوانی اور تاریکیوں کو دور کرنے والے زہرہ ستارے۔ اے اللہ صلوٰۃ





وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَبِعَةَ الْاِصْطِفَاءِ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل امجاد پر جو منبع ہیں اصطفاء و پیغمبری کا

وَيَتَّبِعُوا الْاِحْتِفَاءِ وَمَسْكَةَ الْخِتَامِ وَعَرُوسِ دَارِ السَّلَامِ اَللّٰهُمَّ

اور سرچشمہ ہیں شفقت و التفات کا اور کستوری ہیں مہر کی اور دولہا ہیں دارالسلام اجنت کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُطْبِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب قطب و مرکز ہیں

دَائِرَةِ الصُّعُوْدِ وَكُوَيْبِ هَالَةِ السُّعُوْدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

ترقیوں کے دائرہ کے لیے اور روشن ستارے ہیں مساویوں کے ہالہ کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَمْسِ اَفْقِ الْعِبَادِ وَنُقْطَةِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب آفتاب عباد کے روشن آفتاب ہیں اور آفرینش کے

الْبَدْرِ وَسِرِّ الْمَعَادِ وَمَشْرِقِ الْاَنْوَارِ وَمَغْرِبِ الْاَسْرَارِ اَللّٰهُمَّ

نقطہ آغاز اور معاد و قیامت کے راز مخفی ہیں۔ انوار الہیہ کے محل ظہور ہیں اور اسرار الہیہ کے محل اختفاء۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَدْرِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو بدر کی

الْمُصَوِّرِ وَالْهَلَالِ الْمُنَوِّرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تصویر والے ہیں اور ہلال کی تصویر والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَعْلَمِ مَنْ قَامَ بِالْقَضَاءِ وَاَكْرَمِ مَنْ خُصَّ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب اعلم ہیں تمام منصب قضاء والوں سے اور مکرم ترین ان تمام سے جو

بِالسُّؤَالِ وَالرِّضَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

مخصوص پھرائے گئے سوال اور رضا کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَحْسِنِ مَنْ ضَحَكَ فِي الْوَرَىٰ وَتَبَسَّمَ وَاَجْزَلِ

محمد کی آل پر جو حسین ترین ہیں ان تمام سے جو ہنسے یا تبسم کیا مخلوق میں اور عظیم تر ہیں



مَنْ نَالَ النَّوَالَ وَتَكَرَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سب سے جنہوں نے پایا جو دو عطا کرو اور بزرگی حاصل کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أُمَّلِحْ مَنْ تَنَظَّرَتْ إِلَيْهِ الْعُيُونُ وَأَوَّلِ

اور آپ کی آل پر جو بیچ اور پرکشش ہیں ان تمام سے جنہیں خلایق کی نظروں نے دیکھا اور اول

مَنْ حَقَّقَتْ لَدَيْهِ الظُّنُونُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وہمقدم ہیں ان سب کے محقق ہوئے ان کے ہاں ظن اور گمان (خیر) اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَنْ تَطَّقَ بِذِكْرِهِ النَّاطِقُ وَأَجَلِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو افضل ہیں ان تمام سے جن کے ذکر کے ساتھ کلام کیا کسی بھی منکر نے اور بزرگ ترین ان تمام سے

مَنْ خَلَقَهُ فِي الْوُجُودِ الْخَالِقُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جنہیں عدم سے موجود کیا خالق نے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَجَلِ مَنْ أَصْغَى إِلَيْهِ وَأَجُودِ مَنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو بزرگترین ہیں ان تمام سے جن کی طرف کسی نے میلان کیا اور بہت سخی ہیں ان تمام

جَادَ بِأَيَادِيهِ وَأَجْبَلِ مَنْ تَجَمَّلَ وَأَطْوَلَ مَنْ تَطَوَّلَ اللَّهُمَّ

سے جنہوں نے اپنی نعمتوں کے ساتھ سخاوت کی اور خوبصورت ترین ہیں ہر صاحب جمال سے اور سب اہل قوت سے زیادہ قوت و استطاعت

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْجَهِ

والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو جہیز ترین ہیں ان تمام سے جنہیں مخلوق میں

مَنْ تَوَجَّهَ فِي الْوَرَى وَخَيْرِ مَنْ تَكَلَّفَ بِأَعْبَاءِ الْوَحْيِ بِلَا امْتِرَاءِ

وجاہت اور آبرومندی حاصل ہوئی اور بہتر ہیں بلا ریب ان تمام سے جن کو وحی کی مشقتیں اٹھانے کا مکلف ٹھہرایا گیا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کی

عِزُّكَ سَامِيٌّ وَحُرْمَةُ حَامِيٌّ وَسُمُوهُ رَاقِيٌّ وَجَلَالُهُ كَافِيٌّ وَفَضْلُهُ

عزت بلند و بالا ہے اور ان کی حرمتیں حمایت و حفاظت والی ہیں اور ان کی بلندی ترقی پر ہے اور ان کا جلال کافی ہے و فضل عام

شَامِلٌ وَحُسْنُهُ كَامِلٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

ہے اور حسن کامل ہے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ حُسَامُهُ قَاطِعٌ وَنُوْرُهُ سَاطِعٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جن کی تلوار بہت تیز ہے۔ اور نور بہت غالب ہے۔ لے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ فِظَا هِرُهُ تَعَلَّقُ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوبے مظاہر حسن و جمال دل میں گھر کرنے والے ہیں

وَذِكْرُهُ فِي الْمَسَامِعِ تَجَلُّوْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور ذکر کانوں کو جلا بخشنے والا ہے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ خَصَائِصُهُ فَرِيْدَةٌ وَمَنَاجِحُهُ مَبِيْدَةٌ

سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کے خصائص یکتا و یگانہ ہیں اور عطیات بہت وسیع ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے

شَمَائِلُهُ مَحْمُوْدَةٌ وَجَدُوْدُهُ مَحْدُوْدَةٌ وَحَالَاتُهُ زَكِيَّةٌ وَحَوَائِجُهُ

اخلاق محمود و پسندیدہ ہیں ان کی بزرگیاں حد کمال پر ہیں اور حالات پاکیزہ اور ضروریات و حاجات

مَقْضِيَّهٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بر لائی ہوئی ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِيْ جَاهُهُ غَرِيْبٌ وَجَنَابُهُ جَرِيْزٌ وَجَوَارُهُ مَنِيْعٌ وَمَقَامُهُ رَفِيْعٌ

جس محبوب کی جاہ و عظمت بہت زیادہ ہے اور بارگاہ وسیع و کشادہ اور پناہ زیادہ مستحکم ہے اور مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کا

كُنْفُهُ كَافِيٌ وَعَطَاءُهُ وَاْفِيٌّ وَفَخْرُهُ بَاهِرٌ وَشَرْفُهُ ظَاهِرٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

پہلوئے رحمت کافی ہے اور عطا کافی اور فخر و مہندی نمایاں اور فضل و شرف ظاہر ہے۔ لے اللہ صلوٰۃ



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَجْلِسُهُ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی مجلس

مَحْضُورًا وَأَعْلَامُهُ مَنَشُورَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حاضرین سے بھر پور اور جن کے پرچم پھیلائے اور لڑائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ذَاتُهُ مَدْحُوظَةٌ وَنَفْسُهُ مَحْفُوظَةٌ

اور آپ کی آل پر جس محبوب کی ذات ملاحظہ والی ہے اور ان کا نفس محفوظ و معصوم ہے

وَطَهَّرَ اللَّهُ جَسَدَهُ وَشَرَّفَ رَأْسَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو مطہر بنایا اور ان کے نام کو صاحب شرف بنا یا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الْكَامِلِ وَالْقَسِيمِ الشَّامِلِ وَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کامل و اکل سرور۔ سب کو محیط عطاؤں والے قائم ہیں اور

طَاهِرِ الطَّاهِرِينَ وَطَيِّبِ الطَّيِّبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

طاہرین کے سرور اور طیبین میں سے مختار۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَحِبِ الْجَنَابِ وَالِدَاعِي إِلَىٰ إِرَادَةِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کشادہ بارگاہ والے ہیں اور دعوت دینے والے ہیں

رَبِّ الْأَرْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

رب الارباب کی ارادت و عقیدت کی طرف۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكَرِيمِ مَوْلُو دِحْوَى شَرْفًا وَفَضْلًا وَمَلَأَ اللَّهُ بِهِ الْوُجُودَ

محمد کی آل پر جو محبوب حکیم ترین مولود ہیں جنہوں نے اعاط کیا ہوا ہے شرف و فضل کا اور بھر دیا ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عالم وجود

قَسَطًا وَعَدْلًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

کو از روئے انصاف و عدل کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَصْفَحُ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ وَحَمَلَهُ جِبْرَائِيلُ

کی آل پر جو محبوب درگزر فرماتے تھے جفا کاروں سے اور جنہیں اٹھایا جبرائیل امین نے

بِيَدِيهِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

دونوں ہاتھوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ بِاتِّبَاعِ سُنَّتِهِ وَفَرِيضَتِهِ وَأَقَامَ

آل پر کہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ان کی اتباع کا سنن و فرائض میں اور قائم فرمایا

اللَّهُ الدَّلِيلَ عَلَى صِدْقِهِ وَنُبُوَّتِهِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ نے دلیل اعجازان کی صداقت و نبوت پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمَيْرَةِ وَالْأَبْرَارِ وَأَحَقُّ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب سب لوگوں سے زیادہ قریب ہیں نبی و احسان اور نیکو کاروں کے اور سب مخلوق سے

الْخَلْقِ بِالتَّوْقِيرِ وَالْوَقَارِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

زیادہ حق دار ہیں توقیر اور وقار کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَعَزَّ النَّاسِ نَفَرًا وَكَانَ يُجَالِسُ الْمَسَاكِينَ

آپ کی آل پر جو محبوب عزیز و غالب جماعت والے تھے اور مل بیٹھتے تھے مساکین

وَالْفُقَرَاءَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور فقراء کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي هَدَاهُ اللَّهُ وَاخْتَارَهُ وَالْمَبْعُوثِ بِالْبَشَارَةِ وَالتَّنَادِرَةِ

آل پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور چن لیا اور جنہیں مبعوث فرمایا بشارت اور انداز کے ساتھ

اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر کہ

جَعَلَ اللَّهُ الْمَخَالَفَةَ لِسُنَّتِهِ ضَلَالًا وَجَعَلَ اللَّهُ الْإِقْتِدَاءَ بِهِ مِنْ

اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے جن کی سنت کی مخالفت کو گمراہی اور بنا دیا ان کے خالص اقوال و

خَالِصِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ هِدَايَةً اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا

افعال میں ان کی اقتداء کو سراسر ہدایت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَلِيمِ بِأَسْرَارِ الْكِتَابِ وَلَمْ يُسْأَلْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوبِ علیم ہیں اسرارِ کتاب کے اور نہیں لٹکایا گیا

دُونَهُ سِتْرٌ وَلَا حِجَابٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ان کے آگے پردہ اور حجاب (دیدار ذات سے) لے لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ الْخَلْقِ خَلْقًا وَأَفْصَحِ الْخَلْقِ نَطْقًا اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوبِ ساری مخلوق میں اول ہیں از روئے تخلیق کے اور فصیح ترین ہیں از روئے نطق کے۔ لے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَحَبِّ النَّاسِ وَصَفًا

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوبِ سب لوگوں سے پسندیدہ اور صفت

وَأَفْخَرِ النَّاسِ حَسَبًا وَأَطْيَبِ الْخَلْقِ عِرْقًا وَأَشْرَفِ الْخَلْقِ نَسَبًا

والے ہیں اور سب سے قابلِ فخر حسب والے اور پاکیزہ و معنی پسند والے۔ اور سب سے بزرگ نسب والے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَظْهَرَ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو سب مخلوق سے

الْخَلْقِ عِزًّا وَتَنَجُّبًا وَأَوْصَلَ الْخَلْقِ رَحِمًا وَأَنْفَذَ الْخَلْقِ نَهْيًا وَ

زیادہ ظاہر اور روشن عزت اور اولاد والے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی والے اور سب سے زیادہ نافذ نہی و منع اور حکم و

أَمْرًا وَأَبْلَغِ الْخَلْقِ لِلْخَلْقِ نَصْحًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

امر والے ہیں اور سب مخلوق سے زیادہ مخلوق کے لیے خلوص و ہمدردی والے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَظْهَرَ الْخَلْقِ سِرِيرَةً وَأَتْجَرَ الْخَلْقِ جَمَالًا

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوبِ ساری مخلوق سے زیادہ ظاہر اور نورانی طبیعت والے ہیں اور سب سے کامل ہیں از روئے

وَرَأْسَانَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

جمال اور احسان کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ أَقْوَمِ النَّاسِ شِرْعَةً وَمَتَّهَا جَا وَأَثَبَتِ النَّاسِ قَدَمًا وَأَيَسَرَ

آل پر جو محبوبِ سب لوگوں سے زیادہ مضبوط و پائیدار طریقہ اور راستہ والے ہیں اور سب سے زیادہ ثابت قدم اور سب سے زیادہ



التَّاسِ ذِكْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

سہل ذکر والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ أَوْضَحِ النَّاسِ بُرْهَانًا وَأَكْثِرِ النَّاسِ عُرْفَانًا وَأَزْكِ الْأَنَامِ

آل پر جو محبوب سب سے واضح برہان والے۔ اور سب سے زیادہ عرفان والے ہیں اور سب مخلوق سے پاکیزہ

سَيْرَةً وَأَكْرَمِ النَّاسِ صَفْحًا وَعَلَى النَّاسِ أَمْنًا وَإِيمَانًا اللَّهُمَّ

سیرت والے اور سب سے بزرگ و مکرم چہرے والے اور اعلیٰ امن و ایمان والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَعْلِمِ مَنْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو زیادہ علم والے ہیں ان تمام سے جنہوں نے

تَكَلَّمَ بِالصَّوَابِ وَأَفْضَلِ مَنْ أَوْتِيَ الْحِكْمَةَ وَفَضِّلِ الْخَطَابَ اللَّهُمَّ

صواب اور برحق کلام کیا اور افضل ہیں ان تمام سے جنہیں حکمت اور واضح انداز تکلم عطا کیا گیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ مَنْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب اشرف ہیں تمام

طَافَ وَسَعَى وَأَوْجَهَ مَنْ وَقَفَ بِعَرَافَاتِ الْخَيْرِ وَدَعَا اللَّهُمَّ صَلِّ

طواف اور سعی والوں سے اور وجیہ تر اور آبرو مند ترین ہیں عرفات خیر میں بٹھرنے اور دعا کرنے والوں سے۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَقْوَمِ مَنْ رَكَعَ فِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب ان سب سے زیادہ صاحب استقامت ہیں جنہوں نے

الْبِقَامِ وَأَهْدَى وَأَجَلَّ مَنْ دَخَلَ مِنْ بَابِ السَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ

رکوع کیا مقام ابراہیم میں اور ان سب سے زیادہ ہدایت یافتہ اور بزرگ تر ہیں جو داخل ہوئے حرم میں باب السلام سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَبْهَجِ مَنْ رَفِيَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب زیادہ رفیع و بہار والے ہیں ان تمام سے جنہوں نے جبرائیل

الْجَبْرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کو نکدیاں ماریں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر



مُحَمَّدٍ أَنْسِكَ مَنْ أَرْزَلَتْ لَهُ عِنْدَ نَحْرِهَا الْبُدْنَائُ وَأَعْظَمَ مَنْ

جو زیادہ قربانیاں دینے والے ہیں ان سب جن کے قریب لائی گئیں نحر و نوح کے وقت قربانی کی اونٹیاں اور جانور اور عظیم تر ہیں

ذَبِيحٍ وَنَحْرٍ وَأَعْبَدَ مَنْ قَامَ اللَّيْلَ حَتَّى السَّحَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

تمام ذبح اور نحر کرنے والوں سے اور بہت زیادہ عابد ہیں ان سب جنہوں نے ساری رات قیام کیا سحر تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَنْتَقِي مَنْ حَلَقَ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب بہت متقی ہیں ان تمام سے جنہوں نے

رَأْسَهُ وَقَصَرَ وَأَكْرَمَ مَنْ صَلَّى وَأَبْرَأَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي

سر منڈایا یا بال کٹئے (حج و عمرہ میں) اور مکرم ترین ہیں نماز ادا کرنے والوں اور محسنین سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَنْ حَجَّ الْبَيْتِ وَ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب افضل ہیں بیت اللہ کے حجاج اور

اعْتَمَرُوا وَعَزَّ مِنْ أَنْتَصَرَ بِاللَّهِ وَأَسْتَنْصَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عمرہ کرنے والوں سے اور عزیز تر ہیں ان تمام سے جنہوں نے مدد حاصل کی ساتھ اللہ کے اور مدد و نصرت طلب کی۔ اے اللہ

عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْرَسِ مَنْ أَمْتَطَا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ان سب زیادہ شمسوار ہیں جو سوار ہوئے

صَهْوَةَ جَوَادٍ وَأَجْهَدِ مَنْ دَخَلَ حَوْمَةَ الْجِهَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

کسی عمدہ گھوڑے کی پیٹھ پر اور سب سے زیادہ جہاد کرنے والے ہیں ان سے جو داخل ہوئے جہاد کے بھنور میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشَدِّ مَنْ ضَرَبَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو بہت شمشیر زن ہیں تلواروں

بِالْحُسَامِ وَأَمْهَىٰ مَنْ تَرَاهِي بِالسَّهَامِ وَأَفْضَلِ مَنْ طَعَنَ بِالسِّنَانِ

کے ساتھ مارنے والوں سے اور بہت تیر انداز ہیں تمام تیر اندازوں سے اور افضل ہیں تمام نیزہ کے ساتھ جنگ کرنے والوں سے

وَأَجْوَدِ مَنْ جَادَ بِالْبَنَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور بہت سخی ہیں بانٹنے کے ساتھ سخاوت کرنے والوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَّفَ فِي عُقْبَاهُ وَمَثْوَاهُ وَبَلَّغَ فِي

اور آپ کی آل اطہار پر جس محبوب کو مشرف فرمایا گیا عقبی اور دار ثواب میں اور پہنچے دونوں

الدَّارَيْنِ غَايَةَ مَنَاءِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جہان میں اپنی آرزو و تمنا کی نہایت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَحْسَنَهُ شَامِلٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ

آپ کی آل امجاد پر جس محبوب کا احسان سب کو شامل ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَّفَهُ اللَّهُ عَلَىٰ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے فضل و شرف بخشا

الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَمْلَآكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَعَهُ اللَّهُ عَلَىٰ قِبَّةِ الْأَفْكَالِ اللَّهُمَّ

آل اطہار پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا اخلاک کے نیلگوں گنبد پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کی

أَفِيضَ عَلَىٰ رُوحِهِ مِنْ حَضْرَةِ رُوحَانِيَّتِهِ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَأَفِرُّوْ نَصِيْبِ

روح پر نازل کیا گیا بارگاہ روحانیت سے ہر نوع خیر سے وافر حصہ و نصیب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو

خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ وَأَجْمَلِ تَرْكِيْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا انتہائی حسین صورت میں اور جمیل ترکیب میں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلَّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَوَمَّرَ اللَّهُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے متوخر فرمایا

مِنْهُ السِّرُّ وَالْعَلَنُ وَمَنْحَهُ اللَّهُ الْخُلُقَ الْحَسَنَ وَأُظْهِرَ اللَّهُ مِنْهُ مَا

باطن اور ظاہر کو اور عطا کیا انہیں اللہ تعالیٰ نے خلق حسن اور ظاہر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی بدولت

ظَهَرُوا وَمَا بَطَّنَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جو ظاہر ہوا اور جو پوشیدہ ہوا۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مظهر البركات وَالْجَامِعِ لِدَوَائِرِ الْخَيْرَاتِ اللَّهُمَّ

محمد کی آل پر جو محبوب مظهر ہیں برکات کے اور جامع ہیں خیرات کے دائروں کے۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب عین

الْمَقْصُودِ وَالْقَصُودِ وَقَائِمِ بِكِبَالِ الْعِبُودِيَّةِ فِي حَضْرَةِ الْمَلِكِ

مقصود ہیں اور عین قصد و ارادت ہیں اور قائم ہیں ساتھ کمال عبودیت کے ملک معبود کی

الْمَعْبُودِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بارگاہ میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الْمُنْقِذِ مِنَ النَّارِ وَالْمُوصِلِ إِلَى الْجَنَّةِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

جو محبوب بچانے والے ہیں آگ سے اور پہنچانے والے ہیں طرف جنات کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْهَادِي إِلَى رَوْضَاتِ جَنَّاتِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب رہنمائی کرنے والے ہیں جنات کے سبزہ زاروں

فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی طرف جن میں میوہ جات اور بھجوریں اور انار ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ فِي أَمْرِ الْقُرَى اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو مبعوث فرمایا گیا مکہ مکرمہ میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَحَرَّكَتْ لِتَعْظِيمِهِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کی تعظیم کیلئے حرکت میں آئیں



السَّوَائِنَ وَلَمْ تَعْصِ لَهُ أَمْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ساکن اشیاء اور نہ خلاف ورزی کی ان کے امر کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَآءِ النَّبِيِّ وَالْوَلَايَةِ وَتَابُوتِ الرِّسَالَةِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو کہ ایسا ظن ہیں جو محیط ہے نبوت و ولایت کو اور تابوت میں رسالت

وَالْهُدَايَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

و ہدایت کا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبْلِغِ الْقُرْآنِ بِلِسَانِهِ وَمُظْهِرِ الْحَقِّ بِبُرْهَانِهِ وَ

کی آل پر جو محبوب تبلیغ کرنے والے ہیں قرآن کی اپنی زبان حق ترجمان سے اور منظر حق ہیں اپنے برہان و حجت کے ذریعے اور

مُنَوِّرِ الْعُدُلِ بِسُلْطَانِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

روشن کرنے والے ہیں عدل کو اپنے تسلط اور غلبہ سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُعْجِزِ بِالْمُعْجِزَاتِ وَالْمُؤَيَّدِ بِالْآيَاتِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو عاجز کر کے والے ہیں مخالفین کو اپنے معجزات کے ساتھ (مقابلہ اور محاذ آرائی سے) اور تقویت دے

الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي نَشَأَ فِي حَجْرِ الْكِمَالِ وَرُجِحِي فِي مَسَاقِطِ وَحِي

گئے ہیں آیات بینات کے ذریعے اور جنہوں نے نشوونما پائی ہے کمال کی گودوں میں اور امید دلائے گئے ہیں ذوالجلال کی وحی

ذِي الْجَلَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کے مقامات نزول میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَخْصُوصِ بِالْوَتْرِ وَالصُّحِيِّ وَبِالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

کی آل پر جو محبوب مخصوص ٹھہرائے گئے وتر اور چاشت کی نمازوں کے ساتھ اور عید الفطر اور عید الضحیٰ کیساتھ

وَكَانَ أَوَّلَ اللَّيْلِ يُحْيِي وَآخِرَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ رات کے پہلے اور پچھلے حصے کو عبادت کے ذریعے زندہ فرماتے تھے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَمَعَهُ اللَّهُ لَهُ فُلْكَ الدُّنْيَا

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا ملک

وَالْآخِرَةَ وَأَيَّدَهُ اللَّهُ بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جمع فرما کر ان کے تصرف میں دے دیا اور تائید و تقویت فرمائی ان کی اللہ تعالیٰ نے آیات بینات کے ذریعے۔ لے اللہ صلوات و سلام

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَدَّدَهُ اللَّهُ بِالسُّورِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے قوت بخشی محکم سورتوں کے ساتھ

الْمُحْكَمَاتِ وَعَزَّزَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ الْمُسَوِّمَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور غلبہ عطا کیا مخصوص و نامزد ملائکہ کے ساتھ۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَىٰ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب اللہ تعالیٰ کی محبت و نعمت ہیں

الْخَلْقِ وَأَعْطَىٰ الْكَمَالَ الْمَطْلُوقَ وَرَأْسَ الصِّدِّيقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

مخلوق پر اور جنہیں کمال مطلق عطا کیا گیا ہے اور صدیقین کے سردار ہیں بنائے گئے۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّصِيحِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب بہت ہمدرد و مخمور ہیں

لِأَهْلِ الْأَرْضِ وَالْمَرْجُو نَفْعُهُ يَوْمَ الْعُرْضِ وَجُودِ الْجُودِ وَ

اہل ارض کے اور انہیں سے امید کی جاتی ہے نفع رسانی کی قیامت کے دن۔ جود و سخا کا حجم و جود ہیں اور

خَصْبِ فَنَاءِ الْجُودِ وَحَازِنِ مَانِهِ جَمِيعِ السُّعُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ

عطاؤ نوال کے صحن کی سرسبزی و شادابی ہیں اور آپ کے زمانے تمام سعادتوں کو سمیٹ لیا ہے۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هَادِيَ الْوَرَىٰ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب مخلوق کو ہدایت دینے والے

وَمَنْبِيعِ الدَّرَىٰ وَمَنْهَلِ النَّدَىٰ وَهَلَالِ الْهُدَىٰ وَغِيَاثِ الْوَرَىٰ

ہیں اور سرچشمہ و راہیت اور گھاٹ ہیں بھلائی و خیرات کے حصول کا اور ہدایت کے ماہ نور۔ مخلوق کے فریاد رس

وَطَيْبِ النَّعْرِیٰ وَظَاهِرِ النَّدَىٰ وَوَاضِحِ الْحَقِّ وَالْهُدَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ

پاکیزہ نمبر والے۔ ظاہر سخاوت والے۔ واضح حق و ہدایت والے ہیں۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَثِيْرًا عَطَايَا وَكَرِيْمًا

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب بہت عطاؤں والے بزرگ

السَّجَايَا وَكَوْثِرَ الْعُلُوْمِ وَرِيَاضِ الْفُهُوْمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

مصلحتوں والے ہیں علوم کے ناپیداکنارسمندر اور فہم ودانش کے باغات ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْاَطْيَابِ وَزَيْنِ الْاَصَابِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب سب پاکیزہ تر لوگوں سے افضل ہیں اور صواب و صحیح ترین

وَزَلَالِ السَّامِيْ وَاطْيَبِ النَّامِيْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

امور کی زینت۔ بلند مرتبت سامے ہیں اور پاکیزہ تر نشوونما والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَحْفَظِ النَّاسِ جَنَاحًا وَاَكْرَمِ الْخَلْقِ تَجَاوُرًا

اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب سب محفوظ جوانب اور پہلوؤں والے ہیں۔ اور ساری مخلوق سے بزرگتر ہیں از روئے درگزر

وَسَمَاحًا وَاَعْلَىٰ الْاَنَامِ يَدًا وَاَوْسَعَ الْخَلْقِ وَاَحْيَا الْاَنَامِ وَجُهًا وَاَوْ

اور سخاوت کے اور سب مخلوق سے بلندتر ہیں از روئے احسان کے اور ساری مخلوق سے زیادہ وسعت والے اور ساری مخلوق سے زیادہ شریفیہ چہرے

اطْيَبِ الْخَلْقِ نَفْسًا وَاَشْبَهَهَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

والے اور سب پاکیزہ ترین اور نوزوں ترین ہیں از روئے نفس و ذات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُجِيْبِ الدَّعْوٰى وَالْمُبْعِيْنِ عَلٰی

پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو دعوت کو قبول کرنے والے اور تقویٰ پر

التَّقْوٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا

اعانت فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الْمُنْقِذِ مِنَ الْهَلَاكِ وَكُوَاكِبِ اَيَاتِهِ جَلَّتْ مَا دَجَانِي الْاَرْضِ

آل پر جو ہلاکتوں سے بچانے والے ہیں اور ان کی آیات کے روشن ستاروں نے روشن کر دیلے جسے تاریک ہو گیا تھا زمین سے

مِنْ ظُلُمَاتِ الْاَفْلَاكِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

افلاک کی ظلمتوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اَقْسَمَ اللهُ بِتَنْزِيهِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَّابْرَهُ اللهُ

سیدنا محمد کی آل پر کہ قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے تقدس کی بہت دفعہ اور احسان کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے

غَايَةَ الْمُبَرَّةِ وَتَوْفَاةَ اللهِ شَهِيدًا وَاخْرَجَهُ اللهُ لِلْخَلْقِ

غایت احسان تک اور وفات دی ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی حالت میں ظاہر فرمایا ان کو مخلوق کے لیے

سَعِيدًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

سعادت کی حالت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَصَّهُ اللهُ بِمَعْرِفَتِهِ وَاَهْلَهُ اللهُ بِمَشَاهِدَةٍ

کی آل پر جنہیں مخصوص فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے ساتھ اور اہلیت بخشی انہیں اللہ تعالیٰ نے

عَجَائِبِ حِكْمَتِهِ وَقَدْ رَأَيْتَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

اپنے عجائبات حکمت و قدرت کے مشاہدہ کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نُصِبْتُ عَلَيْهِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جن پر نصب کئے گئے

قُبَابُ الرِّضَا وَالْكَرَمِ وَالْبِسْتُ عَلَيْهِ ثِيَابَ الْعِزِّ وَسَوَابِغِ

گنبد رضا و کرم کے اور پہنائے گئے انہیں لباس عزت و اکرام اور وسیع زرہیں

النِّعَمِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

نعمتوں کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نُصِبْتُ عَلَيْهِ اَسْمَاءَ الْوَيْهِ الْمَجْدِ

آل پر کہ نصب کئے گئے جس محبوب کے سر پر پہرے مجدد و شرف کے

وَتَوَجَّهُ اللهُ بِتَاجِ الْحَمْدِ وَكَمَّلَ اللهُ لِأُمَّتِهِ قَوَاعِدَ

اور اللہ تعالیٰ نے تاج حمد ان کے سر پر سجایا اور کامل کیں اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کے لیے

الْاَيْمَانَ وَالْاِسْلَامَ بِالصَّلَاةِ وَيَرْتَقِيْ بِهٖ اُمَّتَهُ اِلَى

ایمان و اسلام کی بنیادیں ساتھ نماز کے اور چڑھے گی ان کی بدولت امت

أَعْلَى دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جنت کے اعلیٰ درجات تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَالَ الشَّرْفَ الْمَكِينُ وَحَازَ

اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے پایا ہے پاسدار شرف کو اور سمیٹ لیا

الْعِزَّ الْمَتِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مستحکم عز و جاہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَيَّنَّ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ فَضْلَهُ وَعَرَفَ

آپ کی آل پر کہ ظاہر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ پر ان کی فضیلت کو اور پہچان کرانی

اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ قُدْرَةً وَمَحَلَّةً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ان کی قدرو منزلت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَهَبَهُ اللَّهُ رِقَائِقَ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے لطیف

الْعُلُومَ وَعَلَّمَهُ اللَّهُ دَقَائِقَ الْفُهُومِ وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى

علوم عطا کئے اور سکھائے انہیں دقائق فہم و فراست کے اور بلند فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے

الْمَقَامِ الْأَجَلِّ الْأَعْلَى وَأَوْسَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَوَارِدَ الشَّرْفِ

اجل و اعلیٰ مقام تک اور وارد فرمایا ان کو لذیذ ترین شرف و

الْأَحْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

فضل کے گھاٹوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَقَلَّدَ بِحُسَامِ الشَّرْفِ الْقَاطِعِ وَتَلَقَّى

سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے حمال کی شرف و فضل کی شمشیراں۔ اور حاصل کیا

رَأْيَةَ السُّودِ بِالرَّاحَةِ وَالْأَصَابِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

سیادت و نیادت کے پرچم کو ہنسی اور انکھیوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَلَّى بِصُفُوفِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے نماز پڑھائی انبیاء

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَتَوَالَتْ عَلَيْهِ جَمِيعُ النِّعَمِ مُتَدَارِكَةً

و ملائکہ کی صفوں کو اور پے در پے واصل ہوئیں ان تک تمام تر نعمتیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي كَسَاهُ اللَّهُ حُلَّةَ التَّفْضِيلِ وَنَزَّابِنَ اللَّهِ مَفْرُوقَةً وَجَبِينَةً

جس محبوب کو پہنائی اللہ تعالیٰ نے پوشاک تفضیل کی اور مزین فرمایا ان کی چوٹی اور جبین

بِتَابِجِ التُّورِ وَالْإِكْلِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کو نور کے تاج اور جواہر سے مرصع تاج کی پٹی کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَسْرَارُ سِرِّهِ مَسْطُورَةٌ وَأَعْلَامُ

اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب کے اسرار باطن مستور ہیں اور ان کی سعادت کے

سَعْدِهِ مَنشُورَةٌ وَأَنْوَارُ مَحَبَّتِهِ وَاضِحَةٌ وَأَقْبَارُ سَعَادَتِهِ

بہرچم لہرائے گئے ہیں اور ان کی محبت کے انوار واضح ہیں اور ان کی سعادت مندی کے ماہتاب

لَا رِيحَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

روشن ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

مُحَمَّدٍ الَّذِي التَّحَفَ ثَوْبَ الْمَجْدِ وَالتَّسَبَّهَ بِهِ وَأَعْتَرَى بِأَقْتِنَاءِ

کی آل پر جس محبوب نے اوڑھ لیا لباس بزرگی کا اور اس کے حصول کا اور عترت پائی

عِزِّ الْفَخْرِ وَالتَّسَابَهَ وَرَاقِي فِي سَمَاءِ الْمَجْدِ بَدْرُ كَمَالِهِ وَرَقْمُ

مخزن ناز کو حاصل کرنے کی اور بلند ہوا بزرگی کے آسمان پر ان کے کمال کا بدر منیر۔ اور تحریر کیے

الْجَمَالَ طَرَا زَجَمَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جمال قدرت نے ان کے حسن و خوبی کے نقش و نگار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور





عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَلْبَسَهُ اللَّهُ حُلَّةَ الْجَمَالِ وَعُقِدَا

آپ کی آل پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے پھنایا حلتہ جمال کا۔ اور باندھی

عَلَىٰ جَبِينِهِ إِكْلِيلُ الْجَلَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ان کی جبین مبارک پر جلال کی مرصع پٹی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْتَجَىٰ إِلَىٰ مَقَامِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے اُمید باندھی مقام

الْعِزِّ فَوْضَلٌ وَتَشَوَّقُ إِلَىٰ مَحَلِّ الْمَجْدِ فَحَصَلَ لَهُ مِنْهُ

عز و جاہ کی پس واصل ہو گئے اس تک اور شوق ظاہر کیا بزرگی کے مقام کا پس حاصل ہوا انہیں

فَوْقَ الَّذِي أَمَلَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

زیادہ اس سے جس کے اُمیدوار تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَالَ حُلَّةَ الْخُلَّةِ وَجَدَّ أَعْلَامَ

سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے پایا خلت اور دوستی کا حلتہ و پوشاک اور تجدید کی آفتاب

الْمِلَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

پر جموں کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي تَبَوَّأَتْهُ الْمَعَالِي فَتَزَيَّنَ بِهِ الدَّهْرُ الْهَيُّ أَنْتَ

آل پر جنہوں نے اپنا مسکن بنایا بلند مراتب کو پس زینت پائی ان سے زمانے نے۔ اے میرے خداوند تو

الْوَّاحِدُ فِي ذَاتِكَ وَصِفَاتِكَ بِأَلْوَهِيَّتِكَ يَا وَاحِدِيَا أَحَدُ قُلُّ

واحد ہے اپنی ذات اور صفات میں بسبب اپنی الوہیت کے اے واحد۔ اے احد فرما دیکھئے

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ

وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ اسے جنم دیا گیا۔ اور نہیں

لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

اس کا کوئی ہم پلہ اور مماثل۔

